

اسان فتح

حصہ دوم

محمد یوسف اصلاحی

اسلام پبلیکیشنز میڈیا

۱۳-۱۴، شاہ عالم مارکٹ، لاہور (مغربی پاکستان)

كتاب التركة

كتاب الصوم

كتاب الحج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تعارف

عرصے سے ایک ایسے مختصر فقہی مجموعے کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جو عام فہم اسلوب، آسان زبان اور جدید تصنیفی انداز میں ترتیب دیا گیا ہوتا کہ آسانی کے ساتھ زندگی کے ہر شے سے متعلق وہ شرعی احکام و مسائل معلوم کیے جاسکیں جن کی عملی زندگی میں عام طور پر ہر سماں کو ضرورت ہے۔

چھلے دس سال میں مختلف اطراف سے اس ضرورت کی اہمیت محسوس کرائی گئی رفقار چاعت نے بھی بار بار تقاضا کیا، ناشر مخترم نے بھی بارہا متوجہ کیا، اور خود مرتب بھی اس ضرورت کو شدت سے محسوس کرنا رہا، یہاں تک کہ ۱۹۷۴ء میں اس کا مفصل نقشہ کار بھی مرتب کر لیا، لیکن کام کا آغاز کیا ہی تھا کہ اپنی تصحیح انی اور بے مائیگی کا شدید احساس ہوا۔ محترم الورشاہ کاشمیریؒ نے کسی موقع پر فرمایا تھا، "میں ہر فن پر مجتہد انا گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن فقہ پر مبتدر یا نہ گفتگو بھی نہیں کر سکتا"۔ چنانچہ اختلافات کی اس آماجگاہ میں اقوال دائر کی بہتان دیکھ کر بہت جواب دینے لگی اور بجا طور پر یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ایسے صاحب استعداد اس ضرورت کو پورا کریں جو فقر سے طبعی منابعت بھی رکھتے ہوں، اور دلخیل تعلم دستیابی کیں۔ لیکن

انتظار کا در طویل سے طویل تر ہوتا گیا اور امید کی کوئی کرن نظر نہ آئی۔

آخر کار بھر حوصلہ کیا، اور اپنے محدود علم و مطالعہ کے شدید احساس کے باوجود
محض خدا کے قادر و توانا کے بھروسے پر اس ارادے کے تحت کام شروع کیا کہ
اس موضوع پر کوئی تحقیقی اور اجتہادی کاوش نہ ہی یہ سعادت بھی کچھ کم نہیں کہ فقہ حنفی کی
مستند اور راجح کتابوں کو جن پر علماء اور عوام سب ہی اعتماد کرتے ہیں نیز ان مجموعوں کو
جو وقت کے قابل اعتماد اصحاب علم و بصیرت نے جدید پیدا شدہ مسائل اور جدید
سامنسی آلات کے احکام سے تعلق مرتب کیے ہیں، سامنے رکھ کر سادہ، آسان اور عام فہم
انداز میں روزمرہ کی ضرورت کے احکام و مسائل پر مشتمل ایک ایسا مجموعہ ترتیب دیا جائے
جس سے ہر ایک ہبہ لوت و اطمینان اور رجحت و ثوق کے ساتھ استفادہ کر سکے، خدا کا
شکر ہے کہ یہ دیرینہ آنے والے پوری ہوئی اور خدا کے فضل سے زیر ترتیب مجموعے کی پہلی جلد
پیشہ شائع ہو کر مقبول ہوئی۔ اس وقت اس کی دوسری جلد اپ کے ہاتھوں ہیں ہے
بتوین ابواب کتاب الزکوة، کتاب الصوم اور کتاب الحج پر مشتمل ہے، خدا سے دعا ہے
کہ وہ جلد آخری جلد کی اشاعت کے لیے موقع عنایت فرمائے۔ جو معاشرت و معاملات
کے احکام پر مشتمل ہو گی۔

یہ تو خدا ہی جانتا ہے اور اسی کی توفیق پر محصر ہے کہ یہ مجموعہ ناظرین کے لیے کس
حد تک مفید ہو سکے گا۔ ابتدۂ خود مرتب کو اس علمی خدمت کے دوران غیر معمولی فوائد کے
حسوں کا موقع پیسرا یا، اسلام کے عظیم ترین علمی کارناموں اور حیران کنن محنت
و کاوش کو قریب سے دیکھ کر ان کی قدر و عظمت کا حقیقی احساس ہوا، عقیدت کو
حقیقت کی بنیادی، فکر و نظر کو دست اور جلا نصیب ہوئی اور یہ تین پختہ تر جو تا

گیا، کہ ان ائمہ دین نے زندگیان کی پاک رجوع عظیم الشان علمی احسانات کیے ہیں ان سے امت
ذکری بھی سبک دوش ہو سکتی ہے اور ذکری بھی ہے نیا در۔

اس وقت مالم اسلام میں چار فقہیں راجح ہیں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور
فقہ حنبلی، نیز ایک گروہ اور ہے جو ان فقہا کی تعلیید کا قائل نہیں ہے اور وہ براہ راست
کتابی سنت سے مسائل و احکام معلوم کرنے کی تاکید کرتا ہے یہ لوگ سلفی یا اہل حدیث
کہلاتے ہیں، یہ سارے ہی مسلک برحق ہیں، سب کی بنیاد کتاب و سنت
پر ہے ہر مکتب فکر نے زیادہ کتاب و سنت کی روح اور مشاہد کو پاس کی
فکر کی ہے اور ہر ایک کا اصل محرك یہ پاکیزہ ہند ہے کہ کتاب و سنت کی پیر وی
کا حق ادا ہو سکے۔

ان میں سے کسی مکتب فکر کی تفتیض و تحریر کرنا، کسی پر طنز و تعریض کرنا، اور فقہی اور
قدوسي اخلافات کی بنیاد پر ملت کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنا اور گروہ بندیوں کی لعنت
میں گرفتار ہو کر باہم دست و گردیاں ہونا ایں حق اور اہل اخلاق کا شیوه ہرگز نہیں،
افہام و تفہیم، ترجیح و انتخاب، اور اطمینان داری تو ایک علمی ضرورت ہے، جس کی
حوالہ افزائی ہونا چاہیے، لیکن معنوی فقہی اخلافات کی بنیاد پر الگ الگ فرقے بنا
لینا اور اخلاف رائے کو کھنے والے کو گمراہ اور خارج از دین قرار دے کر اس کے غلاف
محاذ قائم کرنا فہم دین سے محرومی بھی ہے اور اصلاحات کی سنت سے انحراف بھی۔

بہ صغیر میں اگرچہ ہر مسلک کے پیرو م موجود ہیں، لیکن ان میں عظیم اکثریت حنفی مسلم
مانے والوں کی ہے، یہ کتاب "آسان فقہ" خاص طور پر انہی کے لیے مرتب کی گئی
ہے، اسی میں باہمی اخلافات سے ہرگز نظر کرتے ہوئے صرف وہی متفقہ عملی

مسئل بیان کیے گئے ہیں، جن پر احتجاج کا عمل ہے اور جو عام طور پر پیش آتے ہیں، تاکہ عام مسلمان ذہنی خلائق سے محفوظ رہتے ہوئے، یکسوں اور اطہینان کے ساتھ اپنے مسلک کے مطابق عمل کر سکیں۔

فقہ کی متعدد اکتوبر کے بعد مسائل پر وقت کے بعض قابل اعتماد علماء نے مزید غور و تکمیل کیا ہے اور عقلی و فقہی دلائل کی روشنی میں اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے یا کسی تجویز کی سفارش کی ہے، اس طرح کی جس رائے یا تجویز کو مرتب نے صحیح اور دقيق سمجھا ہے حاشیہ میں اس کو لفظ کر دیا ہے تاکہ جن لوگوں کو ان پر شرح مدد ہو وہ کسی تنقیح کے بغیر اطہینان کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں۔

مائیں دا حکام بیان کرنے کے ساتھ عبادات و اعمال کی فضیلت و اہمیت پر بھی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کی گئی ہے تاکہ حکام معلوم ہونے سے پہلے احکام کی پیروی کے لیے ذہن و جذبات تیار ہو سکیں۔

حسب ضرورت جگہ جگہ فقہی اصطلاحات بھی استعمال کی گئی ہیں، اور ان کا استعمال ناگزیر ہے اس لیے بھی کہ مسلمان کے لیے ان سے داقت ہونا ضروری ہے اور اس لیے بھی کہ اصطلاح کے بجائے بار بار اس کے مفہوم و مراد کی تشریح بھی باعث طوالت بھی ہے، اور ذوق پر گران بھی۔ البتہ کتاب کے آخر میں ان اصطلاحات کی ایک مستقل فہرست حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق دیے گئے اصطلاح کے مفہوم و مراد کی وضاحت کردی گئی ہے، تاکہ یہی نظر ناہم اصطلاحات کو یکجا دریکجا اور سمجھا جاسکے، اور یاد کرنے والوں کو بھی سہولت ہو اور ضرورت کے وقت آسانی کے ساتھ ہر اصطلاح کا مفہوم معلوم کیا جاسکے۔

رہایہ مسئلہ کہ ہر دور کے تقاضوں کے پیش نظر اسلامی میں اجتہادی اور تحقیقی پیش رفت ہونی چاہئے تو یہ حیات میں کے یہے ایک ناگزیر ضرورت ہے دراصل فقرہ ایک ایسا ترقی پذیر موضوع ہے جو نہ صرف ترقی پذیر زندگی کے ساتھ ارتقا میں منزدیں طے کرتا ہے بلکہ صحیح توبہ ہے کہ راہ ہموار کر کے زندگی کے نوک پلک درست کرنا فقرہ ہی کا کام ہے۔ فکر و اجتہاد کی قوتیں کو معطل اور بے دم کر کے وقت کے تقاضوں سے نا آشنا اور بے تعلق رہنا اور کتاب و سنت کی روشنی میں تعمیر حیات کا حق ادا نہ کرنا ملت کو زندگی کی رعنائیوں سے محروم رکھنے کی کھلکھلی ہوئی علامت بھی ہے اور اس کا بنیادی سبب بھی۔ دراصل اسلام کو ایک برتر اور ایدھی نظام کی حیثیت سے غالب اور نافرماندی کی آزادی دیکھنے والے اسلام پندوں کا فطری اور منصبی فرضیہ ہے کہ وہ وقت کے تقاضوں پر گہری نظر کیں، انہیں سمجھنے کی حکیمانہ کوشش کریں اور آگے بڑھ کر علم و عمل کے ہر میدان میں اسلامی قانون کی برتری ثابت کریں اور دھر ارتقا پذیر زندگی کا ساتھ دیں بلکہ اظہار دین اور غلبہ حق کے لیے سہر جہتی جدوجہد کر کے اپنے تسبیب العین (Ideal) کے مطابق اس کی تاریخ سازی کا حق ادا کیں۔

دین و ملت کی ایک ناگزیر ضرورت ہے کہ ہر دور میں ارباب علم و فکر کا ایک ایسا گروہ (Team) موجود رہے، جس کے افراد نہ صرف یہ کہ دین کے علوم میں گہری بسیرت رکھتے ہوں بلکہ علاً بھی ان کو دین سے تحقیقی شغف ہوا اور ان کی زندگی ان دین کی آئینہ دار ہوں، پھر وہ دور حاضر کے نئے پیدا شدہ مسائل اور نئے حالات سے بھی باخبر ہوں، اور حکمت و فراست، ترجیح و تمیز، انتخاب و اختیار، اور گُن فیصلہ

کی اجتہادی قوتوں سے بھی بہرہ ور ہوں اور دنگی کے گوناگوں مسائل کو تابع سنت کی روح و منشاء کے مطابق حل کرنے کا ملکہ بھی رکھتے ہوں، اور بحیثیت مجموعی اسلامی اقدار کے اختیار و نفاذ کی غیر معمولی ترتیب اور حکمت کا رکھ کر جو ہر دن سے بھی آراستہ ہوں۔

یہ گروہ ملت کا سرمایہ جیات ہے اور اس کے ساتھ بھر پور تعادن کرنا ملت کا اہم ترین فرضیہ اور دین کا عین منشاء ہے، اصلًا تو اس گروہ کی سرپرستی اور کفالت اسلامی نظام حکومت کا منصب ہے، لیکن جب اور جہاں مسلمان پنی مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں اس نعمتِ عظمی سے محروم ہوں وہاں بحیثیت مجموعی تمام مسلمانوں کا دینی اور ملی فرض ہے کہ وہ اس گروہ کی سرپرستی کریں اور اس کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر مقدم رکھنے کی عادت ڈالیں۔ اس لیے کہ اس گروہ کا وجود نہ صرف ملت کے تحفظ و پیقا کا ذریعہ ہے بلکہ اسلامی نظام کا تعارف اور قیام بھی اس کے بغیر ممکن نہیں۔

کوئی بھی انسانی کوشش ہو وہ خطا میں محفوظ نہیں ہو سکتی، اہل علم میں مخلصانہ گزارش ہے کہ وہ جو علمی اور کوئی ای محسوس کریں ضرور مطلع فرمائیں یہ ان کافر غنی بھی ہے اور میرا حق بھی۔

خدا سے دعا ہے کہ وہ اس خدمت کو شرف قبول بخشنے اور مسلمانوں کے لیے اس کو نافع ثابت فرمائے، اور مرتب کے حق میں اس کو ذخیرہ آخرت اور بہانہ مغفرت بنائے۔ آمين۔

محمد ایوسف

۲۲ ربیعی ۱۹۶۹ء

فہرست مضمون

کتاب الزکوٰۃ

۱	تعارف
۲	اصطلاحات
۳	زکوٰۃ کا بیان
۴	زکوٰۃ کی جیشیت اور مرتبہ
۵	زکوٰۃ کے مصیب
۶	زکوٰۃ کی حقیقت
۷	نظام زکوٰۃ کا مقصد
۸	زکوٰۃ پھلی شریعتوں میں
۹	زکوٰۃ کی عقائد و اہمیت
۱۰	زکوٰۃ سے غفلت کا ہون کا نجام
۱۱	زکوٰۃ کی تاکید و ترغیب
۱۲	زکوٰۃ کا حکم
۱۳	زکوٰۃ اور شیکس میں بنیادی فرق
۱۴	زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں

۴۵	ادائے زکوٰۃ صحیح ہونے کی شرطیں
۴۶	زکوٰۃ واجب ہونے کے چند مسائل
۴۹	زکوٰۃ ادا کرنے کے مسائل
۵۰	مسئلہ تبلیغ
۸۲	نصاب زکوٰۃ
۸۲	معااشی توازن
۸۳	نصاب میں تبدلی کا مسئلہ
۸۵	سو نے اور چاندی کا نصاب
۸۶	سکول اور فتوؤں کی زکوٰۃ
۸۶	درہم کے وزن کی تحقیق
۸۸	اموال تجارت کی زکوٰۃ
۸۹	زیور کی زکوٰۃ
۹۲	شرح زکوٰۃ
۹۲	وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے
۹۴	جالودیں کی زکوٰۃ
۹۶	بھیر بھری کا نصاب اور شرح زکوٰۃ
۹۸	گاری بھینس کا نصاب اور شرح زکوٰۃ
۱۰۰	اوٹ کا نصاب اور شرح زکوٰۃ
۱۰۱	ادائے زکوٰۃ کے لیے ایک ضروری وضاحت

۱۰۲

۱۵ مصارف زکوٰۃ

۱۰۸

مصارف زکوٰۃ کے چند مسائل

۱۰۹

وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں

۱۱۱

۱۶ زکوٰۃ کے متفرق مسائل

۱۱۳

۱۷ حُشر کا بیان

۱۱۴

حُشر کا شرعی حکم

۱۱۵

حُشر کی شرح

۱۱۵

کن چیزوں میں عشدرا جب ہے

۱۱۶

۱۸ حُشر کے مسائل

۱۱۷

۱۹ رکاذ کے مسائل

۱۲۰

۲۰ صدقہ فطر کا بیان

۱۲۱

صدقہ فطر کے معنی

۱۲۱

صدقہ فطر کی حکمت اور خواہد

۱۲۲

صدقہ فطر کا حکم

۱۲۳

صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت

۱۲۴

صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت

۱۲۵

کس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔

۱۲۴

صدقہ فطر کی مقدار

۱۲۷

۲۱ صدقہ فطر کے متفرق مسائل

کتاب الصوم

- ۱۲۹ روزے کا بیان
- ۱۳۰ رمضان المبارک کے فضائل
- ۱۳۱ رمضان کی عظمت و فضیلت قرآن میں
- ۱۳۲ فضیلت رمضان کے وجہ
- ۱۳۳ رمضان کی عظمت و فضیلت حدیث میں
- ۱۳۴ رمضان کی عظمت و اہمیت تاریخ میں
- ۱۳۵ روزے کے معنی
- ۱۳۶ روزے کی فرضیت کا حکم
- ۱۳۷ روزے کی اہمیت
- ۱۳۸ روزے کا مقصد
- ۱۳۹ حقیقی روزہ
- ۱۴۰ روزے کی فضیلت
- ۱۴۱ رویت ہلال کے احکام
- ۱۴۲ نیا چاند دیکھتے کی دعا
- ۱۴۳ روزے کی قسمیں اور ان کا حکم
- ۱۴۴ (۱) فرض روزے
- ۱۴۵ (۲) داجب روزے

۱۳۸	(۳) سنون روزے کے
۱۳۸	(۴) نقلی روزے کے
۱۳۹	(۵) مکرہ روزے کے
۱۳۹	(۶) حرام روزے کے
۱۳۹	۵ روزے کی شرطیں
۱۵۰	روزے کے شرائط و جو布
۱۵۰	روزے کے شرائط صحت
۱۵۱	۶ روزے کے فرائض
۱۵۱	۷ روزے کے سنن و مشابات
۱۵۲	۸ روزے کے مفسدات
۱۵۲	۹ دجوب کفارہ سے متعلق اصولی بائیس
۱۵۳	دہ صورتیں جن سے قضا و اجب ہے
۱۵۴	دہ صورتیں جن میں قضا اور کفارہ دلوں دا جب ہیں۔
۱۵۷	دہ امور جن سے روزہ مکرہ ہو جاتا ہے
۱۵۹	دہ امور جن سے روزہ مکرہ نہیں ہوتا
۱۶۲	۱۰ روزے کی نیت کے سائل
۱۶۴	۱۱ سحری اور افطار
۱۶۶	سحری میں تاخیر
۱۶۶	افطار میں تعجل

۱۴۹	کس چیز سے افطار ستحب ہے
۱۵۰	افطار کی دعا
۱۵۱	افطار کے بعد کی دعا
۱۵۲	افطار کرنے کا اجر و ثواب
۱۵۳	بے سحری کار روزہ
۱۵۴	۱۲ وہ معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے
۱۵۵	(۱) سفر
۱۵۶	(۲) بیماری
۱۵۷	(۳) حمل
۱۵۸	(۴) ارضاع
۱۵۹	(۵) بھوک پیاس کی شدت
۱۶۰	(۶) ضعف اور بُرھا پا
۱۶۱	(۷) خوف ہلاکت
۱۶۲	(۸) جہاد
۱۶۳	(۹) بے ہوشی
۱۶۴	(۱۰) جنون
۱۶۵	۱۳ وہ صورتیں جن میں روزہ تولڈنا بحاکم ہے
۱۶۶	۱۴۱ قضاروزول کے مسائل
۱۶۷	۱۵۱ کفارہ اور اس کے مسائل

۱۴ فدیہ

福德 کی مقدار

福德 کے مسائل

۱۵ روزے کے آداب و احکام

۱۶ نفلی روزوں کی فضیلت اور مسائل

۱۷ یوم عاشورہ کا روزہ

۱۸ یوم عرفہ کا روزہ

۱۹ ایام بین کے روزے

۲۰ پیر اور گھر ات کا روزہ

۲۱ نفلی روزوں کے متفرق مسائل

۲۲ نماز تراویح کا بیان

۲۳ نماز تراویح کا حکم

۲۴ نماز تراویح کی فضیلت

۲۵ نماز تراویح کا وقت

۲۶ نماز تراویح کی جماعت

۲۷ نماز تراویح کی رکعتیں

۲۸ ترویجہیں کی عمل کیا جائے؟

۲۹ نمازوں کی جماعت

۳۰ تراویح میں ختم قرآن

۱۸۳

۱۸۴

۱۸۵

۱۸۶

۱۸۷

۱۸۸

۱۸۹

۱۹۰

۱۹۱

۱۹۲

۱۹۳

۱۹۴

۱۹۵

۱۹۶

۱۹۷

۱۹۸

۱۹۹

۲۰۰

۲۰۱

۲۰۲

۲۰۳

۲۰۴	ضروری ہدایت
۲۰۵	۲۳ نماز تراویح کے متفرق مسائل
۲۱۱	۲۴ تلاوت قرآن کے آداب
۲۱۱	(۱) طہارت
۲۱۲	(۲) اخلاقیں نیت
۲۱۲	(۳) پاہنڈی اور الترکام
۲۱۳	(۴) تجوید و خوشحالی
۲۱۵	(۵) قرآن سنتنے کا اہتمام
۲۱۶	(۶) غور و تدبیر
۲۱۹	(۷) میکسونی اور عاجزی
۲۱۹	(۸) تعوذ و تسبیہ
۲۲۰	(۹) اثر پذیری
۲۲۰	(۱۰) آوازیں (اعتدال)
۲۲۱	(۱۱) تہجید میں تلاوت کا اہتمام
۲۲۱	(۱۲) قرآن میں دیکھ کر تلاوت کا اہتمام
۲۲۱	(۱۳) ترتیب کا لحاظ
۲۲۲	(۱۴) دلیلیگی اور انہماک
۲۲۲	(۱۵) تلاوت کے بعد دعاء
۲۲۳	۲۷ سجدہ تلاوت کا بیان
۲۲۳	

۲۲۳	سجدہ تلاوت کا حکم
۲۲۵	سجدہ تلاوت کے مقامات
۲۲۹	۲۵ سجدہ تلاوت کی شرطیں
۲۳۰	سجدہ تلاوت کا طریقہ
۲۳۲	سجدہ تلاوت کے سائل
۲۳۵	سجدہ شکر
۲۳۶	۲۶ اعتصاف کا بیان
۲۳۷	اعتصاف کے معنی
۲۳۸	اعتصاف کی حکمت
۲۳۹	۲۷ اعتصاف کی قسمیں
۲۴۰	اعتصاف واجب
۲۴۱	اعتصاف منتخب
۲۴۲	اعتصاف سنت مؤکدہ
۲۴۳	انفعن ترین اعتصاف
۲۴۴	۲۸ اعتصاف کی شرطیں
۲۴۵	(۱) مسجدیں قیام
۲۴۶	(۲) نیت
۲۴۷	(۳) حدیث اکبر سے پاک ہونا
۲۴۸	(۴) روزہ

۲۴۰	۲۹۔ اعْتِكَافٍ كَيْ احْكَامٍ
۲۴۱	اعْتِكَافٍ سُنُونٍ كَا وَقْتٍ
۲۴۲	اعْتِكَافٍ دَاجِبٍ كَا وَقْتٍ
۲۴۳	۳۰۔ اعْتِكَافٍ مُسْتَحْبٍ كَا وَقْتٍ
۲۴۴	حَالَتِ اعْتِكَافٍ مِنْ مُسْتَحْبٍ امْرُورٍ
۲۴۵	وَهُوَ امْرُورٌ جُوا اعْتِكَافٍ مِنْ حَاجَزٍ هُنَّ -
۲۴۶	وَهُوَ امْرُورٌ جُوا اعْتِكَافٍ مِنْ نَاجَزٍ هُنَّ
۲۴۷	۳۱۔ لَيْلَةُ الْقَدْرٍ
۲۴۸	لَيْلَةُ الْقَدْرٍ كَيْ معْنَى
۲۴۹	لَيْلَةُ الْقَدْرٍ كَيْ تَعْيَيْنٍ
۲۵۰	لَيْلَةُ الْقَدْرٍ كَيْ خَاصٌ دُرْهَماً
	۳۲۔ صَدَقَةُ رَفَطْرَسٍ كَيْ احْكَامٍ

کتاب الحج

۲۵۵	۱- حج کا بیان
۲۵۶	حج کے معنی
۲۵۷	حج ایک جامع عبادت
۲۵۸	حج کی حقیقت
۲۶۱	حج کی عظمت و اہمیت
۲۶۷	حج کی فضیلت و ترغیب
۲۶۸	وجوب حج کی شرطیں
۲۶۹	صحت حج کی شرطیں
۲۷۳	۴- حج کے احکام
۲۷۵	۵- میقات اور رأس کے احکام
۲۷۵	(۱) ذوالحجه
۲۷۶	(۲) ذات عرق
۲۷۶	(۳) حجۃ
۲۷۹	(۴) قرن المذازل
۳۰	(۵) طیلہم

- ۶۔ حج کے فرائض
۷۔ احرام اور اس کے مسائل
- ۸۔ احرام میں منوع کام
۹۔ احرام میں جائز کام
- ۱۰۔ احرام کا طریقہ
۱۱۔ تلبیہ اور اس کے مسائل
- ۱۲۔ تلبیہ کی حکمت و فضیلت
۱۳۔ تلبیہ کے بعد کی دعا
- ۱۴۔ وقوف اور اس کے مسائل
۱۵۔ سیدان عرفات کی دعائیں
- ۱۶۔ طواف اور اس کے مسائل
۱۷۔ بیت اللہ کی عظمت و مرتبہ
- ۱۸۔ طواف کی فضیلت
۱۹۔ استلام
- ۲۰۔ رکن یا نی کی دعا
- ۲۱۔ طواف کی قسمیں اور ان کے احکام
۲۲۔ طواف کے واجبات
- ۲۳۔ طواف کی دعا
۲۴۔ طواف کے مسائل

۳۰۹	۱۳۔ رمل
۳۱۰	۱۴۔ اضطراب
۳۱۱	۱۵۔ حج کے واجبات
۳۱۲	۱۶۔ سعی
۳۱۳	سعی کی حقیقت و حکمت
۳۱۴	سعی کے مسائل
۳۱۵	سعی کا طریقہ اور دعائیں
۳۲۰	۱۷۔ رحمی
۳۲۰	رحمی کی حقیقت و حکمت
۳۲۱	رحمی کے مسائل
۳۲۲	رحمی کا طریقہ اور دعا
۳۲۴	۱۸۔ حلق یا تقصیر کے مسائل
۳۲۹	۱۹۔ قربانی کا بیان
۳۲۹	انسانی تاریخ کی سبک پہلی قربانی
۳۳۰	قربانی تمام الہی شریعتوں میں
۳۳۱	قربانی ایک عظیم بادگار
۳۳۲	نبیؐ سے خطاب
۳۳۳	قربانی تمام امتت کئے یہے ہے۔
۳۳۵	قربانی کے روحاں مقاصد

۳۳۶	قربانی کی روح
۳۳۸	اذن کی قربانی کا روحاںی منظر
۳۳۹	قربانی کا طریقہ اور دعا
۳۴۰	قربانی کی فضیلت و تاکید
۳۴۱	۲۰۔ قربانی کے احکام و مسائل
۳۴۳	قربانی کرنے والے کے لیے سنون علی
۳۴۴	قربانی کے جانور اور ان کے احکام
۳۴۵	قربانی کا حکم
۳۴۶	قربانی کے آیام اور وقت
۳۴۷	۲۱۔ قربانی کے متفرق مسائل
۳۴۸	مردودوں کی طرف سے قربانی
۳۴۹	۲۲۔ بدھی کا بیان
۳۵۰	۲۳۔ آپ زمزم اور اس کے آداب و دعا
۳۵۱	۲۴۔ ملتمزم اور اس کی دعا
۳۵۲	۲۵۔ قبولیت دعا کے مقامات
۳۵۳	۲۶۔ عمرہ
۳۵۴	عمرہ کے مسائل
۳۵۵	۲۷۔ حج کی فسیلیں
۳۵۶	۲۸۔ حج افراد

۲۹۔ حج قرآن

۳۶۸

۳۶۹

۳۷۰

۳۷۱

۳۷۲

۳۸۴

۳۸۵

۳۸۶

۳۹۰

۳۹۱

۳۹۱

۳۹۲

۳۹۵

۳۹۶

۳۹۸

۴۰۱

۴۰۲

۴۰۳

۴۰۳

قرآن کے مسائل

۳۰۔ حج تمثیل

تمثیل کے مسائل

۳۱۔ نئی عربی کا خصیتی حج

۳۲۔ جنایات کا بیان

حرم مکہ اور اس کی غلطیت

۳۳۔ جنایات حرم

۳۴۔ جنایات احرام

وہ جنایات جن میں دو قرآنیاں واجب ہیں

وہ جنایات جن میں ایک فرمائی واجب ہے

وہ جنایات جن میں صرف مدد قدر واجب ہے

اصولی بڑایات

۳۵۔ شکار کی جزا

شکار اور جزا کے مسائل

۳۶۔ احصار کا بیان

احصار کی چند صورتیں

احصار کے مسائل

۳۷۔ حج بدل

۳۰۵	حج بدل صحیح ہونے کی شرطیں
۳۰۸	۳۸۔ مدینہ منورہ کی حاضری
۳۰۸	مدینہ طیبہ کی عظمت و فضیلت
۳۱۳	مسجد نبویؐ کی عظمت
۳۱۴	روضۃ اقدس کی زیارت
۳۱۵	روضۃ اقدس کی زیارت کا حکم
۳۱۸	۳۹۔ مقامات حج

اصطلاحات

۱۔ احرام۔ حج کی نیت کر کے حج کا لباس پہننے اور تلبیہ پڑھنے کو احرام کہتے، احرام باندھنے والے کو محروم کہتے ہیں۔ جس طرح نماز میں تکبیر تحریمیہ کہنے کے بعد کھانا پینا، چلنا پھرنا وغیرہ سب حرام ہو جاتا ہے، اسی طرح احرام باندھ لینے کے بعد بہت سے وہ کام منوع ہو جاتے ہیں جو پہلے مباح تھے، اسی لیے اس کو احرام کہتے ہیں۔

۲۔ احصار۔ احصار کے لغوی معنی روکنے اور باز رکھنے کے ہیں۔ اصطلاح میں احصار سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص حج یا عمرے کی نیت کر لے اور پھر وہ حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا جائے، ایسے شخص کو اصطلاح میں محصرہ کہتے ہیں۔

۳۔ استلام۔ استلام کے لغوی معنی ہیں چھونا اور بوسرہ دینا۔ اور اصطلاح میں استلام سے مراد ہے مجر اسود کو بوسرہ دینا اور رُکن یا فی کو چھونا۔ طواف کا ہر چکر شروع کرتے وقت اور ہر طواف کے ختم پر مجر اسود کا استلام کرنا سنت ہے اور رُکن یا فی کا استلام مستحب ہے۔

۴۔ اضطریابع۔ چادر وغیرہ کو اس طرح اور صنانکہ اس کا ایک کنارہ داہنے شانے پر ڈالنے کے بجائے داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر اور ٹھا جائے، اور داہنا شانہ کھلا رہے، یہ عمل خستی اور قوت ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ خدا کے سپاہی، جیسی کی ڈھن طاقتوں سے لانے کے لیے ہر وقت کربتہ ہیں۔

۵۔ اعْتِكَاف۔ اعْتِكَاف سے مراد یہ ہے کہ آدمی کچھ وقت کے لیے دنیوی تعلقات اور مصروفیات سے الگ ہو کر کسی مسجد میں جا بیٹھے اور وہاں ذکر و غفران دریافت الہی میں رہے رہنا ان کے آخری ع الشرے میں یہ عمل کرنا مستحب مذکور کفایہ ہے۔

۶۔ آفَاقٌ۔ میقات سے باہر کے علاقوں میں رہنے والوں کو اصطلاح میں آفَاقٌ کہتے ہیں، ان کے بعض مسائل میقات کے اندر رہنے والوں سے مختلف ہیں اس لیے اس اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے۔

۷۔ افراد۔ افراد حج کی ایک قسم ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ حج کرنے والا صرف حج کی نیت کرے۔ حج کے ساتھ عمرے کی نیت نہ کرے، ایچ افراد کرنے والے کو "مُفْرَد" کہتے ہیں۔

۸۔ الْهَام۔ الْهَام کے معنی ہیں اتر پڑنا، اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی عمرے کا احراام کھولنے کے بعد اپنے گھر کے لوگوں میں اتر پڑے، حج تمثیل کرنے والے کے لیے عمرے اور حج کے درمیان الْهَام کرنا جائز نہیں۔ مسئلہ صفحہ ۱۳۰ پر دیکھیے۔

۹۔ اوْقِيْہ۔ ایک وزن ہے جو چالیس درہم کے برابر ہوتا ہے۔

۱۰۔ آیام بیضی۔ ہر صینیہ کی تیر صویں چودھویں اور پندرہ صویں تاریخوں کو آیام بیضی یعنی روشن آیام کہتے ہیں۔

۱۱۔ آیام تشریق۔ ماہ ذوالحجہ کی ۱۱، ۱۲، ۱۳ اور تاریخ کو آیام تشریق کہتے ہیں اور ذوالحجہ کی ۱۴ تاریخ کو "یوم عرفہ" اور ۱۵ تاریخ کو "یوم نحر" کہتے ہیں، اور ان پانچوں آیام کو طاکر کبھی آیام تشریق کہتے ہیں۔

۱۴۔ تحلیق و تقصیر تحلیق کے معنی ہیں سرمنڈانا اور تقصیر کے معنی ہیں ملک استوانا، حج کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد سرمنڈانا یا کتروانا واجب ہے۔

۱۵۔ تلبیہ۔ زائر حرم کی ایک مخصوص دعا جس کو وہ برابر پڑھتا رہتا ہے، ہر نشیب میں اُترتے ہوئے ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے، ہر فرض نماز سے فارغ ہو کر، ہر نئے قافلے سے ملاقات کے وقت اور ہر صبح دشام غرض حج کے دران برابر اس دعا کا درود رہتا ہے، تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ بَلَّيْكَ
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ۔

۱۶۔ تمشق۔ تمشق حج کی ایک قسم ہے، تمشق کے لغوی معنی ہیں کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھانا اور اصطلاح میں حج تمشق یہ ہے کہ آدمی حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کرے لیکن اس طرح کہ دونوں کے لیے الگ الگ احرام باندھے اور عمرہ کر لینے کے بعد احرام کھول کر ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانے جو احرام کی حالت میں نہ ہو گئی تھیں اور پھر حج کا احرام باندھ کر حج کے ارکان ادا کرے، پونکہ اس طرح تمرے اور حج کے دریان کچھ وقت کے لیے احرام کھول کر حلال ہونے کا فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے اس لیے اس کو حج تمشق کہتے ہیں۔ اور ایسے شخص کو تمشق کہتے ہیں۔

۱۷۔ تملیک۔ تملیک کے معنی ہیں مالک بنانا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مالک جس کے حوالے کیا جائے اس کو مالک بنادیا جائے کہ وہ بھی چاہے خرچ کرے۔

۱۴۔ جنایت۔ جنایت کے لغوی معنی ہیں کوئی منسوج اور بُرا کام کرنا، لیکن حج کے سلسلے میں اس اصطلاح سے مُراد کوئی ایسا منسوج کام کرنا ہے جو حرم میں ہونے کی وجہ سے یا حالتِ حرام میں ہونے کی وجہ سے منسوج ہو۔ جنایت ہو جانے کی صورت میں اس کا تادان قربانی یا صدّتے کی شکل میں دینا واجب ہوتا ہے۔

۱۵۔ جدال۔ جدال کے معنی ہیں لڑائی جھگڑا کرنا۔ لڑائی جھگڑا تو بہر حال ناپسندیدہ ہے لیکن چونکہ حج کے دورانِ ڈر ازدحام ہوتا ہے اس لیے قدم قدم پاس سے بچنے کا خصوصی اہتمام ہونا پڑتا ہے۔

۱۶۔ حرام۔ جس بُرے کام سے بچنا قرآن نے ہر مسلمان پر فرض کر دیا ہے اس کو حرام کہتے ہیں۔

۱۷۔ درجم۔ درجم جس کا دن دو ماشے اور ڈر ڈر تی کے برابر ہوتا ہے۔

۱۸۔ درم احصار۔ عمرے یا حج کی نیت کر لینے کے بعد کوئی شخص کسی وجہ سے حج یا عمرہ ادا کرنے سے روک دیا جائے تو اس کو حسب مقدور قربانی دینی ہوتی ہے، اس قربانی کو درم احصار کہتے ہیں لیکن وہ خون جو احصار کی وجہ سے واجب ہوا ہے۔

۱۹۔ رفت اور فٹ سے مُراد جنسی فعل یا اس سے متعلق گفتگو کرنا ہے، حج کے دورانِ فعل اور اس طرح کی گفتگو منسوج ہے، اشاروں میں بھی اس طرح کی کوئی بات ذکر نہ کرنا چاہیے۔

۲۰۔ رکاز۔ رکاز سے مراد دو چیزوں ہیں جو زمین کے اندر ہوں خواہ کسی کی دفن کر دہا یا

قدرتی طور پر ہوں۔

۲۳۔ رکن۔ رکن ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر اس چیز کے قائم ہونے کا دار و مدار ہو۔
 ۲۴۔ نظر۔ طواف کے پہلے تین چکروں میں شانے ہاتے ہوئے تیز تیز
 چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخنے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے
 ساتھ عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مکے شریعت لے گئے تو وہاں کے
 لوگوں نے آپس میں کہا ان لوگوں کا حال کیا ہو رہا ہے؟ دراصل مدینے کی
 آپ دہوا کی خرابی کا اثر تھا، اور سب ہی کمزور ہو گئے تھے جب نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کو اس گفتگو کا پتہ چلا تو آپ نے حکم دیا کہ طواف کے پہلے تین چکروں
 میں لوگ رمل کریں یعنی دُلکی چال چلیں اور قوت و طاقت کا مظاہرہ
 کریں۔

۲۵۔ رمی۔ لغت میں رمی، پھینکنے اور نشانہ لٹکانے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح
 میں رمی سے مراد حج کا وہ عمل ہے جس میں حاجی تین ستوں پر کنکریاں ماریں۔
 میں میں کچھ کچھ فاصلے سے تین ستوں پہنچنے ہوئے ہیں ان کو جبرات کہتے ہیں،
 ان جبرات پر کنکریاں مارنا، یعنی رمی کرنا وہ اچیب سے ہے۔

۲۶۔ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک کرنا بڑھانا اور نشوونما دینا اصطلاح میں ہال
 گزرنے پر اپنے مال و دولت میں سے شریعت کے مقرر کیے ہوئے حصے کو نکالنے کو
 زکوٰۃ کہتے ہیں۔

۲۷۔ سائمنہ۔ سائمنہ سے مراد وہ جا نہیں جن کا گزارہ جنگل اور بیدان کی گھاس پر ہوان کے
 لیے چارہ ہیتاں کیا جاتا ہوا اور وہ دودھ اور افزائش نسل کی غرض سے پالے گئے ہوں۔

۲۸۔ سعی۔ لفظ میں سعی کے معنی ہیں اہتمام سے چلنا، دوڑنا اور کوشش کرنا۔ اصطلاح میں سعی سے مراد حج کا وہ عمل ہے جس میں زائر حرم صفا اور مردہ نامی دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑتا ہے، آج کل ان دونوں پہاڑیوں کا تجمیعی سانشان پاٹی ہے، صفا اور مردہ کے درمیان سعی واجب ہے۔

۲۹۔ سنت۔ سنت وہ فعل ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے کیا ہو۔

۳۰۔ شرط۔ شرط کسی کام کے صحیح ہونے کا مدار جس چیز پر ہوتا ہے اس کو شرط کہتے ہیں۔

۳۱۔ شوط۔ شوط کے معنی ہیں چکر لگانا اور اصطلاح میں شوط سے مراد بیت اللہ کے گرد ایک چکر لگانا ہے۔

۳۲۔ صاع۔ صاع ایک پیمانہ ہے جو اسی روپے والے میر کے حساب سے دلیر اور تقریباً چھٹانک ہوتا ہے (عنی دو کلو اور دو سو بیس گرام ۲۰۷۲)۔

۳۳۔ صوم۔ صوم یا صیام کے معنی ہیں کسی چیز سے رُک چانا اور اس کو ترک کر دینا اصطلاح میں آدمی کے صحیح صادقی سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور غذی صورت پوری کرنے سے باز رہنا۔

۳۴۔ ضرورت اصلیہ۔ ضرورت اصلیہ سے مراد وہ نبیادی ضرورتیں ہیں جن پر انسانی زندگی کی بقا اور عزت و آبرد کی حفاظت کا دار و مدار ہے۔

۳۵۔ طوافِ قدوم۔ کئے میں داخلے کے بعد سب سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طوافِ قدوم کہتے ہیں، طوافِ قدوم کو طوافِ تمحیہ

اور طوافِ لقار بھی کہتے ہیں۔ طوافِ قدوم صرف ان لوگوں پر واجب ہے جو میقات سے باہر کے باشندے ہوں جن کو اصطلاح میں آفاقت کہتے ہیں۔

۴۔ طوافِ زیارت۔ طوافِ زیارت حج کا ایک رکن ہے وقوف عرفات کے بعد ارذوالمحجہ کو جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طوافِ زیارت یا طوافِ افاضہ کہتے ہیں، طوافِ زیارت فرض ہے اور اس کا حکم قرآن میں دریا گیا ہے۔

۵۔ طوافِ وداع۔ بیت اللہ سے رخصت ہوتے وقت جو اندری طواف کیا جاتا ہے اس کو طوافِ وداع یا طوافِ صد و کہتے ہیں۔ یہ طواف بھی آفاقت پر واجب ہے، اس طواف کے بعد ملتمم سے چھٹ چھٹ کر اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر انتہائی گریدہ وزاری کے ساتھ دعائیں چاہئیے۔ یہ بیت اللہ سے رخصت کا وقت ہے معلوم نہیں پھر کب یہ سعادت فصیب ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدایت ہے:

مَنْ كُوئيْ شَخْصٌ طَوَافَ رَحْصَتَ كَيْيَهْ بَخِيرٌ بَيْتِ اللَّهِ سَعَادَتٌ وَالپِسْ نَهْمَوْ

مگر اس خاتون کے لیے ایجادت ہے جو حالتِ حجیفیں میں رہو گی

۶۔ حاملین زکوٰۃ۔ عاملین زکوٰۃ سے مراد ہوگیں ہیں جو زکوٰۃ کی تحسیں، تقسیم اور حساب کتاب نیز مال زکوٰۃ کی حفاظت کے کام پر مأمور ہوں۔

۲۹۔ **فُلْشِر۔** غُشنز میں کی پیداوار میں جو دسوائیا بیسوائی حصہ مکان اور جب ہے اُس کو غُشنز کہتے ہیں بارائی زمینوں میں دسوائی حصہ دینا ہوتا ہے اور ان زمینوں میں بیسوائی حصہ دینا ہوتا ہے جو مصنوعی ذراائع سے سیراب کی جاتی ہیں۔

۳۰۔ **عُمُرَہ۔** عمرہ کے معنی ہیں آباد مکان کا ارادہ کرنا، زیارت کرنا اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ چھوٹا حج ہے جو ہر وقت ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص ہدایتہ اور دن مقرر نہیں ہے جس وقت جی چاہے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کریں، سعی کریں، اور تخلیق یا تقصیر کر کے احرام کھول دیں۔ عمرہ حج کے ساتھ بھی کیا جاسکتا ہے اور حج سے علیحدہ بھی۔ عمرہ کرنے والے کو مُغْتَمِر کہتے ہیں۔

۳۱۔ **فَدِيرَہ۔** فدیرہ روزہ نذر کر سکنے کی صورت میں شریعت نے مخدود کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ اس کے بعد مدد قدر فطر کے بعد کسی محتاج کو غلم دے دے یا جمع و شام دونوں وقت کھانا کھلادے اس کو اصطلاح میں فدیرہ کہتے ہیں فدیرہ میں غلام دینا اور کھانا کھلاتا بھی درست ہے اور غلے کی قیمت دینا بھی جائز ہے۔

۳۲۔ **فِرْض۔** فرض و فعل جس کا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور جو شخص کسی عذر کے بغیر ترک کرے وہ فاسق اور سختق عذاب ہے۔

۳۳۔ **قُرْآن۔** قرآن کے لغوی معنی ہیں دو چیزوں کو باہم ملانا اور اصطلاح شرع میں قرآن یہ ہے کہ آدمی حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھ کر دونوں کے ارکان ادا کرے، حج قرآن کرنے والے کو قاریں کہتے ہیں، حج قرآن، حج افراد اور حج تمثیل دونوں سے افضل ہے۔

۴۷۔ قیراط۔ ایک قیراط پانچ جو کے برابر ہوتا ہے اور یہ قیراط کا ایک مشقال ہوتا ہے۔

۴۸۔ کفارہ کسی شرعی کوتاہی کی تلافی کے لیے شریعت نے جو عجل بتایا ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں۔

۴۹۔ لیلۃ القدر۔ رمضان المبارک کی اس مبارک رات کو کہتے ہیں جس میں قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں لیلۃ القدر کو قرآن میں لیلۃ مبارکہ بھی کہا گیا ہے یہ ایک رات ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔

۵۰۔ متنزع۔ حج تمنع کرنے والے شخص کو متنزع کہتے ہیں، یعنی وہ شخص جو عمرہ کر کے احرام کھول دے اور پھر حج کا احرام باندھ کر حج کے اركان ادا کرے۔

۵۱۔ مشقال۔ ایک وزن کا نام ہے جو تین ماشے اور ایک رتی کے برابر ہوتا ہے۔

۵۲۔ حرم۔ جو شخص میقات سے حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے اس کو حرم کہتے ہیں۔

۵۳۔ "محصر" حج یا عمرے کا ارادہ کر لینے کے بعد جو شخص حج یا عمرے سے روک دیا جائے اس کو "محصر" کہتے ہیں، حج سے روک کے چاندنے کی صورت میں محصر پر حسپ مقدور قربانی واجب ہو جاتی ہے جس کو درم احصار کہتے ہیں۔

۵۴۔ مفرد۔ جو شخص صرف حج کا احرام باندھے اس کو "مفرد" کہتے ہیں اور ایسے حج کو حج افراد کہتے ہیں۔

۵۵۔ مکروہ تنزیہی۔ فعل جس سے بچنے میں اجر و ثواب تو ہے لیکن جو شخص نہ

پچے وہ گنہگار بھی نہیں ہے۔

۴۴۔ مکر رہ تحریکی۔ ہر دہ فعل جس سے بچنا مسلمان کے لیے واجب ہے جو شخص کسی واقعی عذر کے بغیر اس کو اختیار کرے وہ سخت گنہگار ہے البتہ اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جاسکتا۔

۴۵۔ میقات۔ میقات سے مراد وہ خاص اور مستحب مقام ہے جس پر حرام بازدھے بغیر مکر رہ جانا جائز نہیں کسی بھی غرض سے کوئی مکر رہ جانا چاہتا ہواں پر لازم ہے کہ وہ میقات پر ہنچ کر حرام بازدھے احرام بازدھے بغیر میقات سے آگے بڑھنا مکر رہ تحریکی ہے مختلف مالک کے رہنمے والوں اور ان حمالک کی طرف سے آنے والوں کے لیے پانچ میقات مقرر ہیں۔

۴۶۔ واجب۔ واجب سے مراد وہ عمل ہے جس کا کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض کی طرح لازمی ہے جو شخص اس کو خیر اہم اور عمولی سمجھ کر چھوڑ دے یا کسی عذر کے بغیر ترک کرے وہ فاسق، مگر اہم اور مستحق عذاب ہے یہ سنت مورکدہ سے زیادہ اہم اور ضروری ہے البتہ واجب کے منکر کو کافر نہیں کہا جاسکتا۔

۴۷۔ وشق۔ وشق سے مراد ایک اونٹ کا وزن ہے جو سالہ (۶۰) صاع کا ہوتا ہے۔
 ۴۸۔ وقوف۔ وقوف کے معنی ہی کھڑا ہونا اور ٹھہرنا، حج کے دوران تین مسالات پر وقوف کرنا ہوتا ہے، عرفات میں وقوف، مزاد لفے میں وقوف، اور منی میں وقوف۔ وقوف کرنے کا مطلب ہے کہ آدمی ان مقامات پر ہنچ جائے، وقوف کی نیت کرنا اور وہاں کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اہل حدیث کے نزدیک وقوف کی نیت کرنا بھی شرط ہے۔
 سب سے اہم وقوف، وقوف عرفات ہے۔ وقوف عرفات کا وقت

۹۔ زوال الحجہ کو بعد زوال، ظہر اور عصر کی ناز پڑھنے کے بعد ہے، اس لیے اسی وقت پہنچ جانا چاہئے، لیکن چونکہ یہ حج کا رکن اعظم ہے اور اسی پر ادائے حج کا دار و مدار ہے اس لیے اس کے وقت میں کشادگی دے کر سہولت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ۹، ۱۰، ۱۱ شب میں صحیح صادقی سے پہلے پہلے کسی وقت بھی لمحے بھر کے لیے عرفات پہنچ جائے تو اس کا وقوف معتبر موقعاً اور اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ مزدلفہ میں وقوف واجب ہے اور مہنی میں وقوف سنون ہے۔

۱۰۔ ہدی - ہدی کے لغوی معنی ہیں تخفیر اور ہدایہ اور شریعت کا ملاح میں ہدی سے مراد وہ جانور ہے جو زائر حرم قربانی کرنے کے لیے اپنے بھراوے کے جانلے ہے اسکی ذریعے سے وہاں پہنچ دیتا ہے۔

۱۱۔ یوم تردید - ماہ زوال الحجہ کی آخریں تاریخ کو یوم تردید کہتے ہیں یوم تردید کہتے ہیں حکمت یہ ہے کہ اس دن سے حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں اور جانوروں کو اچھی طرح سیراپ کر کے سفر کے لائق بنادیا جاتا ہے۔

۱۲۔ یوم عرفہ - ماہ زوال الحجہ کی ۹ رتاریخ یعنی حج کے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں اور یوم وقار کہتے ہیں حکمت یہ ہے کہ اس دن زائرین حرم میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔

۱۳۔ یوم نحر - ماہ زوال الحجہ کی دسویں تاریخ کو یوم نحر کہتے ہیں۔ یوم نحر کہتے ہیں حکمت یہ ہے کہ اس دن سے نحر یعنی قربانی شروع ہوتی ہے۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

زکوٰۃ کا بیان

نماز اور زکوٰۃ، دراصل پورے دین کی ترجیحی کرنے والی دو اہم عبادتیں ہیں بدنی عبادات میں نماز پورے دین کی، نماہندگی کرتی ہے اور مالی عبادات میں زکوٰۃ پورے دین کی نمائندگی کرتی ہے، بندے پر دین کی طرف سے جو حقوق حاصل ہوتے ہیں ان کی دو ہی قسمیں ہیں، خدا کے حقوق، اور بندوں کے حقوق، نماز بندے کو خدا کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے، اور زکوٰۃ بندگان خدا کے حقوق ادا کرنے کا گھر اشور پیدا کرتی ہے، اور ان دونوں حقوق کو شخصیک طبیعیک ادا کرنے ہی کا نام اسلام ہے۔

زکوٰۃ کی حیثیت اور مرتبہ

زکوٰۃ اسلام کا تیسرا عظیم رکن ہے، دین میں نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا مرتبہ ہے چنانچہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد نماز کا اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے ایک طرف تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دین میں نماز اور زکوٰۃ کی حیثیت اور مقام کیا ہے دوسری طرف یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا مرتبہ ہے، اور یہی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے

بھی واضح ہوتی ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذین بھل کوئین کی جانب رخصت کرتے ہوئے دعیت فرمائی کہ

”تم وہاں ان لوگوں میں پانچ رہے ہو، جن کو کتابِ دی گئی تھی، تم ان کو سمجھے پہلے شہادت ایمان کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب وہ اس حقیقت کا اعتراف کر لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان پر شب دروز میں پانچ وقت کی نازیں فرض کی ہیں، جب وہ اس کو بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر صدقہ رزکوۃ فرض فرمایا ہے جو ان کے خوش حال افراد سے وصول کیا جائے گا اور ان کے نادار اور حاجتمند افراد میں تقسیم کیا جائے گا جب وہ اس بات کو بھی تسلیم کر لیں تو زکوۃ وصول کرنے میں ان کے اچھے اچھے مال چھانٹ چھانٹ کر لینا اور مظلوم کی پردہ سے بچے رہنا۔ کیونکہ خدا اور مظلوم کے درمیان کوئی پرده حائل نہیں ہوتا“ لہ

زکوۃ کے معنی

زکوۃ کے معنی ہیں پاک ہونا، بڑھنا، نشوونگاپانا، اور ”اصطلاح فقرہ“ میں زکوۃ سے مراد یہ مالی عبادت ہے کہ ہر صاحبِ نصاب مسلمان اپنے مال میں سے شریعت کی مقرر کی ہوئی مقدار ان لوگوں کے لیے نکالے جو شریعت کی نظر میں زکوۃ لینے کے سخت حق ہیں۔

زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک و طاہر ہو جاتا ہے اور اللہ اپنے فضل سے اس میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اتنا اجر و انعام دیتا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اسی لیے اس عبادت کو زکوٰۃ یعنی پاک کرنے اور بُرھائے والا عمل کہتے ہیں۔

زکوٰۃ کی حقیقت

خدا کی خوشنودی کے لیے جب مومن اپنا محبوب اور دل پسند مال خدا کی راہ میں خوشی خرچ کرتا ہے تو اس سے مومن کے دل میں ایک نور اور جلا پیدا ہوتی ہے، مادی کثافیتیں اور دنیوی محبتیں ختم ہوتی ہیں، اور قلب دروح میں ایک تازگی، رضاافت، پاکیزگی اور محبت الہی کے جذبات پیدا ہوتے اور ہر ہستے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا خود محبت الہی کا ثبوت بھی ہے اور محبت الہی کے پروان چڑھانے کا موڑ اور مستند ذریعہ بھی۔

زکوٰۃ کی حقیقت محسن یہی نہیں ہے کہ وہ ناداروں کی کفالت اور دولت کی صحیح تقسیم کی ایک تدبیر ہے بلکہ وہ خدا کی فرض کی ہوئی ایک اہم عبادت ہے جس کے بغیر نہ آدمی کے قلب دروح کا تازگیہ ممکن ہے اور نہ وہ خدا کا مخلص اور محسن بندہ ہی بن سکتا ہے، زکوٰۃ دراصل خدا کی بے پایاں نعمتوں پر شکر کا اظہار ہے فاؤنی زکوٰۃ تو بلاشبہ یہی ہے کہ جب خوش حال آدمی کے مال پر ایک سال گزر جائے تو وہ اپنے مال میں سے ایک مقرر حصہ مستحقین کے لیے نکال لے، لیکن زکوٰۃ کی حقیقت محسن یہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کے ذریعے مومن کے دل سے دنیا کی تمام مادی محبتیں نکال کر اپنی محبت بٹھانا چاہتا ہے، اور یہ ترمیت دنیا چاہتا ہے کہ مومن خدا کی راہ میں پنا مال اپنی جان اور اپنی نامام فویلیں اور صلاحیتیں قربان کر کے روحانی سرد محسوس کرے، اور

سب کچھ خدا کی راہ میں دے رکھنے کے جذبات سے سرشار ہو کر خدا نے اپنے فضل و کرم
نے اپنی راہ میں جان دمال قربان کرنے کی توفیق دی اسی لیے شریعت نے زکوٰۃ کی
ایک قانونی حد مقرر کر کے بتا دیا کہ اتنا خرچ کرنا تو ہر مسلمان کے لیے ناگزیر ہے اتنا
خرچ کیے بغیر تو ایمان ہی مشتبہ ہے، لیکن ساتھ ہی پوری قوت کے ساتھ یہ ترغیب بھی دی
کہ مولیٰ اسی کم سے کم مقدار پر اکتفا نہ کرے بلکہ زیادہ سے زیادہ خدا کی راہ میں صرف
کرنے کی عادت ڈالے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے بھی یہی حقیقت
سامنے آتی ہے۔

حضرت النبیؐ کا بیان ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور اس نے آپ سے سوال کیا۔ اس وقت آپ کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ دو پہاڑوں
کے درمیان کی پوری وادی ان سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے وہ ساری بکریاں اس
سائل کے حوالے کر دیں۔ جبکہ شخص اپنے لوگوں میں واپس پہنچا تو اس نے اپنی قوم
کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا۔

”لوگو! مسلمان ہو جاؤ! محمد تو انا نادیتے ہیں کہ انہیں اپنے مفلس ہونے کا ذرا
خوف نہیں ہوتا“ لہ

ایک بار حضرت حسینؑ کے دروازے پر ایک سائل آیا اور بولا۔

”اے پغیر کے بیٹے! مجھے چار سو درہم کی ضرورت ہے۔“

آپ نے اسی وقت گھر سے چار سو درہم منگلوٹے اور سائل کے حوالے کر دیئے

اور رونے لگے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا۔

درودتا اس لیے ہوں کہ میں نے اس شخص کے سوال کرنے سے پہلے ہی اس کو یہ رقم کیوں نہیں دے دی کہ اس کو سوال کرنا پڑا۔ یہ نوبت ہی کیوں آئی کہ شخص میرے پاس آئے اور میرے سامنے دست سوت سوال پڑا کہ میرے

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ ایک بار بکری فرج ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا "بکری کے گوشت میں سے کچھ باقی رہ گیا؟" ۱۹

حضرت عائشہؓ نے جواب دیا مگر صرف اس کی ایک دست باقی رہ گئی ہے رباتی تقسیم کر دیا گیا)۔

ارشاد فرمایا، مذہبیں بلکہ اس دست کے علاوہ جو کچھ تقسیم کر دیا گیا ہے وہ حقیقت باقی رہا ہے۔ (اور آخرت میں اسی کا اجر متوقع ہے) ۲۰

حضرت اسماء بنہت ابی بکرؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔ خدا کے بھروسے پر فراخ دستی سے اس کی راہ میں خرچ کرتی رہو اور گلنتی شمار کے پکر میں مت پڑو۔ اگر تم اس کی راہ میں گن گن کر دو گی تو بھروسہ بھی تھیں گن گن کر ہی دے گا اور دولت کو بیعت کرنا رکھو در نہ خدا بھی تمہارے ساتھ ہی معاملہ کرے گا۔ راہ نکم پر بے حساب دولت نہیں اٹھ لیے گا۔ لہذا جہاں انک ہمت ہاندھو سکو، کشادہ دستی کے ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کرو) ۲۱

لہ کشف المحبوب۔

لہ جامع ترمذی۔

لہ مسیح بخاری، مسیح مسلم۔

حضرت ابوہریرہؓ کا بیان ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”خدا تعالیٰ اپنے ہر بندے سے کہتا ہے ملے آدم کے فرزند امیری راہ میں خرچ کیے جا، میں مجھے (الپنے اتحاد نزلنے میں سے) دستیار ہوں گا۔“ لہ
حضرت ابوذرؑ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت کعبے کے زیر سایہ آرام فرماتھے۔ مجھے دیکھا تو فرمایا۔
”درست کعبہ کی قسم وہی لوگ ہوئے گھٹے میں ہیں۔“

میں نے پوچھا، ”میرے ماں باپ آپ پر قربان بتائیے وہ کون لوگ ہیں، جو زبردست گھٹے میں ہیں؟“

ارشاد فرمایا۔ ”وہ لوگ جو ہر سرماہہ دار اور خوش حال ہیں، ہاں ان میں سے وہی گھٹے اور خسارے سے محفوظ ہیں جو کہ شادہ دلی کے ساتھ آگے جیچھے دیں، ہاں میں انہی دولت را و خدا میں صرف کر دے ہیں مگر دولتِ مددوں میں ایسے لوگ بہت بھی کم ہیں۔“
نظامِ زکوٰۃ کا مقصد

زکوٰۃ کا نظام دراصل مومن کے دل سے چوتھے دنیا اور اس جڑ سے پیدا ہونے والے سارے بھاڑِ جہنکار صاف کر کے خالص خدا کی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب بندہ موسیٰ محسن زکوٰۃ ادا کرنے ہی پر قناعت نہ کرے بلکہ زکوٰۃ کی اس روح کو چدپ کرنے کی کوشش کرے، کہ ہمارے پاس ہو گچھے ہے، خدا ہی کا ہے،

لہ صحیح بخاری صحیح مسلم۔

لہ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔

ادراس کو اسی کی راہ میں قربان کر کے ہم اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کی اس روح اور مقصد کو جذب کیے بغیر نہ تو کوئی بندہ خدا کے بندوں سے محض خدا کے لیے محبت کر سکتا ہے اور نہ خدا کے حقوق پہچانتے اور ادا کرنے میں اتنا حس اور فراخ دست ہو سکتا ہے۔

زکوٰۃ کا نظام دراصل پورے اسلامی سماج کو بخیل، تنگ دلی، خود غرضی، بغض، حسد، تنگ دلی اور استھصال جیسے رکیک جذبات سے پاک کر کے اس میں محبت، ایشان، احسان، خلوص، خیرخواہی، تعاون، موساسات اور رفاقت کے اعلیٰ اور پاکیزہ جذبات پیدا کرتا اور پرداں چڑھاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ ہمیشہ ہر نبی کی امت پر فرض رہی ہے، اس کی مقدار، نصاب اور فقہی احکام میں ضرور فرق رہا ہے لیکن زکوٰۃ کا حکم بہر حال ہر شریعت میں موجود رہا ہے۔

زکوٰۃ پھلی شریعتوں میں
زکوٰۃ کی اس حقیقت اور روح پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ مؤمن کے لیے ایک ناگزیر عمل ہے ایک لازمی صفت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کی شریعت میں یہ حکم موجود رہا ہے۔

قرآن کی شہادت ہے کہ زکوٰۃ تمام انبیاء کی امتوں پر اسی طرح فرض رہی ہے جس طرح نماز فرضی رہی ہے، سورہ انبیاء میں حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؐ کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فصیل کے ساتھ وہ فکر انگیز مکالمہ نقل کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیمؑ اور ان کی قوم کے درمیان ہوا تھا۔ پھر اسی ضمن میں حضرت لوط، حضرت احْمَدؓ اور حضرت یعقوب (طیبہم السلام) کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے۔

وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً تَهْدِي دُونَ يَأْمُرُنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكُورَةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ -

(رانہیاءٰ: ۴۳)

”اور ہم نے ان سب کو پیشو ابنا یا جو ہماری ہدایت کے تحت رہنمائی کافرض
انجام دیتے تھے۔ اور ہم نے ان کو دھی کے ذریعے نیک کام کرنے، نماز کا اہتمام
کرنے اور زکوٰۃ دینے کی اور یہ سب ہمارے حیادت گزار بندے تھے“
قرآن میں متعدد مقامات پر اس عہد و میثاق کا ذکر کیا گیا ہے جو یہود سے یا گیا تھا،
اس کی اہم دفعات میں سے ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ
دیں گے۔

وَإِذَا أَخَذُنَا مِنْ شَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَ
بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوْا
لِلشَّاكِرِسْ مُحْسِنًا وَأَقْرِبُهُمُ الصَّلَاةَ وَأَتُوْزَكُورَةَ - (بقرہ: ۸۰)

”اور یاد کرو ابھی اسرائیل سے ہم نے پنجتہ عہد یا لفظ کہ اللہ کے سواتم
کسی کی بندگی نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور رشتہ داروں،
پیغمروں اور مسکینوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور
نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔“

ایک دوسرے مقام پر بھی اسرائیل ہی سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔

وَقَالَ اللَّهُ رَبِّيْ مَعَكُمْ لَيْلَيْنَ أَقْدَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَأَتَيْتُمْ

الْزَكُورَةَ - (آل ائمہ: ۱۲)

”ادراللہ نے بنی اسرائیل سے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر قائم نماز
قام کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزراء مجدد
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے قرآن عکیم نے صراحت کی ہے کہ وہ پانچ
تعلیقین کو تائید کیا کرتے تھے، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔

**ذکان یا مُرْأَهُ أَهْلَةٌ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكُوٰةِ وَكَانَ عِنْدَهُ دَرِيٌّهُ
مَرْضِيَّا۔** (مسیح: ۵۵)

”ادر اسماعیل اپنے گردالوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تائید کیا کرتے تھے اور
وہ اپنے رب کے تزدیک بڑے ہی پسندیدہ انسان تھے۔“

ادر حضرت علیہ السلام نے اپنا تعارف کرتے ہوئے منصب نبوت پر اپنے
امور ہونے کا مقصد ہی یہ بتایا ہے کہ خدا نے مجھے، تازیت نماز قائم کرنے اور
زکوٰۃ دینے کی ہدایت و محیت کی ہے۔

ذَادَ صَارِيٌّ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكُوٰةِ مَادُمُّتْ حَتَّىٰ۔ (مریم: ۲۱)

”ادراس نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کر تاہم ہوں

جب تک زندہ رہوں ۹۔“

زکوٰۃ کی عظمت و اہمیت

اسلام میں زکوٰۃ کی خیر عمومی عظمت و اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا
ہے کہ قرآن پاک میں کم از کم بیش اس مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا
ہے، اور ایمان کے بعد اولین مطلالہ نماز اور زکوٰۃ ہی کا ہے، درحقیقت ان دعہاً دقوں

پر کار بند ہونا، پورے دین پر کار بند ہوتا ہے، جو بندہ خدا کے حضور مسجد میں بندگی کے انتہائی گھرے بند بات کے ساتھ اپنے جسم و روح کو خدا کے حضور ڈال دے رہ مسجد کے باہر خدا کے حقوق سے کیوں کر غفلت پرت سکتا ہے، اسی طرح جو شخص اپنا محبوب مال دستار خدا کی رضا کے لیے خدا کی راہ میں خوشی خوشی نشاکر سکون و طمأنیت محسوس کرے وہ بندوں کے دسرے حقوق کیوں کر پاماں کر سکتا ہے، اور اسلام دلachi خدا اور بندوں کے حقوق ہی سے عبارت ہے، اسی لیے قرآن نے نماز اور زکوٰۃ کو اسلام کی پہچان اور دائرة اسلام میں داخل ہونے کی شہادت قرار دیا ہے، سورہ توبہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے برامت اور بیزاری کا اظہار فرمانے کے بعد مسلمانوں کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ اگر یہ کفر و شرک سے توبہ کر کے نماز اور زکوٰۃ پر کار بند ہو جائیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور اسلامی سوسائٹی میں ان کا دہی مقام ہے جو دسرے مسلمانوں کا ہے۔

فَإِنْ تَابُوا فَأَقِّمَا مُوَالَصَّلُوةَ وَأَنْوَلْ زَكُوٰۃً فَإِنْخَوَانُكُمْ

فِي الْمُتَّايِنِ۔ (توبہ: ۱۱)

”پھر اگر یہ کفر و شرک سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ

تمہارے دینی بھائی ہیں۔“

یہ آیت بتاتی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ایمان و اسلام کی واضح علامت اور قطعی شہادت ہے، اور اسی لیے قرآن نے زکوٰۃ نہ دینا مشرکوں کا وصف اور عمل قرار دیا ہے اور ایسے لوگوں کو آخرت کا منکر اور ایمان سے محروم بتایا ہے۔

وَذَيْلُ الْمُشْرِكِينَ هُوَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الرِّزْكَوٰۃَ دَهْمَدْ

بِالْأُخْرَيَةِ هُمْ كُفَّارٌ فِيْنَهُ ۚ (فصلت: ۴، ۵)

”اور تباہی ہے ان شرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور یہی لوگ ہیں
بہاؤ خرت کے منکر ہیں۔“

خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضیٰ کے دورِ خلافت میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ
دینے سے انکار کیا، تو آپ نے ان کو اسلام سے خروج اور ازتاد کے ہم معنی سمجھا اور
اعلان فرمایا کہ

”یہ لوگ دورِ رسالت میں جو زکوٰۃ دیتے تھے اگر اس میں سے بکری کا ایک بچہ
بھی روکیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کر دیں گا۔“

حضرت عمر رضیٰ نے صدیق اکبر رضیٰ کو ملکا اور فرمایا، ”آپ ان لوگوں سے بہلا کیوں کر
جہاد کر سکتے ہیں جو کلمہ کے قائل ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
”جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَبَرْ دَعَى تَوَسُّكَ كَبَرْ دَعَى وَ مَا لَمْ يَرِي طرفَ سَعْيَهِ
وَ مَا مُونَ ہوَگَيَا۔“

حضرت صدیق اکبر رضیٰ نے یہ سُن کر اپنے آسمی عزم کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا۔

وَاللَّهُ لَا تَأْتِنَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الْمَسْلُوَةِ وَالْتَّكُوَةِ أَعْ

”ندائی کی قسم جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کریں گے میں ان
کے خلاف لازماً جنگ کر دیں گا۔“

نماز اور زکوٰۃ دین کے دو بنیادی اركان ہیں، ان کا انکار یا ان میں تفریق کرنا

و را صل خدا کے دین سے انحراف اور ارتاداد ہے، اور مومن کا کام یہی ہے کہ وہ مرتد کے خلاف جہاد کرے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود کا ارشاد ہے۔

”ہم کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے اور جو شخصی زکوٰۃ نہ دے، اس کی نماز بھی نہیں ہے۔“^{۱۷}

قرآن پاک میں ان لوگوں کو ہدایت نے محروم قرار دیا ہے جو زکوٰۃ سے غافل ہیں۔

هُدَىٰ لِلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا سَرَّ ذَقْنُهُمْ يُنْفِقُونَ۔ (البقرہ: ۲۳، ۲۴)

”ہدایت ہے ان مستقیموں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔“^{۱۸}

اور قرآن کی نظر میں فی الواقع سچے مومن وہی ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا سَرَّ ذَقْنُهُمْ يُنْفِقُونَ هُوَ لِلّٰهِ أَكْبَرُ ۝ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ (الانفال: ۲۶، ۲۷)

”وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں حقیقت میں یہی سچے مومن ہیں۔“^{۱۹}

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی عظمت و اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا ہے
”سُنْنَىٰ آدَمِي خدا سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، بندگان خدا
سے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے، اور بخیل آدمی خدا سے دور ہے، جنت
سے دور ہے، بندگان خدا سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے، اور یہ حقیقت
ہے کہ ایک جاہل سُنْنَىٰ، ایک مادِ بخیل کے مقابلے میں خدا کے نزدیک زیادہ

پسندیدہ ہے۔“^{۱۷}

زکوٰۃ سے غفلت کا ہولناک انعام

زکوٰۃ کی اس غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے قرآن حکیم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو
انہمی دردناک عذابوں اور لرزہ خیز عذابوں کی خبر دے کر مشتبہ کیا ہے کہ وہ فنا ہونے
والے ماں و متاع کی بے جا بیت میں گرفتار ہو کر اپنی عاقبت خراب نہ کریں، اور
اس عذاب سے بچیں جس کے تصور سے ہی رو بھگنے کھڑے ہوتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَكْتُرُونَ الْأَهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفَقُوا هَنَّا فِي نَارٍ

سَيِّئَاتِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ هُنَّ مَرْيَجُونٌ عَلَيْهِمَا فِي تَارِ

جَهَنَّمَ فَتَكُلُّونَ إِلَيْهَا جَيَّا هُمْ وَجْنُودُهُمْ وَصَهْوُهُمْ هَذَا مَا

كَنْزُهُمْ لَا نَفْسٍ كَفُوفٌ فَدُؤْلُهُمَا كُنْتُمْ تَكْتُرُونَ۔ (توبہ: ۳۴، ۳۵)

”اور ہر لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں اس کو

خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنادا ایک دن آئے گا

کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دھکائی جائے گی۔ اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانوں، پہلوؤں اور پیغمبروں کو داغا جائے گا۔ (اور کہا جائے گا) یہ ہے دھخڑ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لواب اپنی بھیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔“

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے دریافت کیا گیا کہ اس آیت میں ”کنز“ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ ”کنز“ کے مراد د مال ہے جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی گئی ہو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو متنبہ کرنے کے لیے آخرت کے روزہ خیز عذاب کی تصویر اس طرح کھینچی ہے۔

”جس آدمی کو خدا نے مال و دولت سے فوازا، پھر اُس شخص نے اُس مال کی زکوٰۃ نہیں دی، تو اس مال کو قیامت کے روز انتہائی زہر لیے ناگ کی فشکل میں دی جائے گی۔ زہر کی شدت کے باعث اُس کا سر گزنا ہو گا اور اس کی آنکھوں پر دسیاہ نقطہ ہوں گے۔ قیامت کے روز وہ ناگ (اس روز پرست بھیں) کے سگھے میں لپٹ جائے گا اور اس کے دلوں بھڑوں میں اپنے زہر لیے دانت گھاڑ کر کہے گا، یہیں تیرا مال ہوں، یہیں تیرا جمع کیا ہو اخزاں ہوں، اور پھر آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔“

وَلَا يَحْسِنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَنْتُمْ أَشْهُدُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ أَلَّهُمْ بِلَّهُ هُوَ شَرُّ لَهُمْ سَيُطْرَقُونَ مَا جَنَلُوا إِنَّمَا يَرُؤُمُ الْقِيمَةَ (آل عمران: ۱۸۰)

”جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت سے فوازا ہے اور وہ

بخل سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں نہ رہیں کریں گے اور زر پرستی ان کے حق میں بہتر ہے، یہ روشنی ان کے لیے نہایت ہی بُری ہے وہ اپنی کنجوں سے جو کچھ جمع کر لے ہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے لگے میں طوق بنائے کر پہنایا جائے گا۔

نیز آپ نے صحابہ کرامؓ کو خطاب کرتے ہوئے زکوٰۃ سے غفلت کے عبرناک انعام سے بچنے کی تلقین فرمائی۔

”تم میں سے کوئی شخص قیامت کے روز اس حال میں میرے پاس نہ آئے کہ اس کی بگری اس کی گردن پر لدی ہوئی ہو، اور مجھے حمایت کے لیے پکارے اور میں اس سے کہوں کہ میں آج تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تم کو خدا کے احکام پہنچا دیتے تھے۔ اور دیکھو اس روز کوئی اپنا اونٹ اپنی گردن پر لافے ہوئے میرے پاس نہ آئے، وہ مجھے مدد کے لیے پکارے اور میں کہوں کریں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں نے تو خدا کے احکام تم کو پہنچا دیتے تھے، ایک یار بُنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دخواتین کو دیکھا کہ وہ اپنے احتکوں میں سونے کے لگنگ پہنے ہوئے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا مگر تم ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہو یا نہیں؟“

دخواتین نے کہا، نہیں

آپ نے فرمایا ”تو می تھیں یہ متلوو ہے کہ اس کے بدلتے ہیں تم کو اگ کے لگنگ پہنائے جائیں۔

خواتین نے کہا "ہرگز نہیں۔"

تو آپ نے بدایت فرمائی کہ "ان کی زکوٰۃ دیا کرو۔" لہ

حضرت عبید اللہ بن عمر رضی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا۔

"لوگو! حرص اور لاپچ سے دور رہو، تم سے پہلے جو لوگ تباہ دبر بادھتے
اسی حرص اور لاپچ کی بدولت ہوتے حرص نے ان میں بخل اور تنگ دلی پیدا کی، اور
وہ بخیل اور زر پرست ہو گئے اور اسی نے ان کو قطع رحم پر اجھارا اور انہوں نے
قطع رحم کا جرم کیا اور اسی نے ان کو بد کاریوں پر آمادہ کیا اور وہ بد کاری پر اُتر
آئے ॥ ۲ ॥"

قرآن و سنت کی ان تنبیہات ہی کا اثر تھا کہ صحابہ کرام زکوٰۃ و مددقات کا انتہائی
اهتمام فرماتے، اور بعض کے احساسات تو اس معلمے میں اتنے شدید تھے کہ وہ ضرور
سے زائد ایک پیسہ بھی اپنے پاس رکھنا حرام سمجھتے تھے۔ حضرت ابوذر رضی کی تو یہ منتقل
عادت ہو گئی تھی کہ جہاں کچھ لوگوں کو جمع دیکھتے، ان کو زکوٰۃ کی طرف ضرور متوجہ
کرتے۔

زکوٰۃ کی تاکید و ترغیب

زکوٰۃ کی غیر معمولی اہمیت اور عظمت کے پیش نظر قرآن پاک میں بیانی مقامات
پر اس کا ناکید میں حکم دیا گیا ہے اور بالعموم خاز اور زکوٰۃ کا، سانحہ ساتھ دیا گیا ہے۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّو الْمَزْكُوٰةَ - (البقرة: ۱۱۰)

”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔“

نیز قرآن و سنت میں اس کے ذریعہ دینی اور دنیاوی فوائد بتا کر طرح طرح سے ترغیب دی جئی ہے، قرآن میں زکوٰۃ کا عظیم اجر و ثواب ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةِ إِنْجِيلٍ سَبَعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَهٖ وَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُ
يَمْنَ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ هَلِيْمٌ (آل عمران: ۲۶۱)

”بھولوگ اپنے اموال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے، کہ جیسے ایک دانے لو یا جائے۔ اور اس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر ہر پالی میں سو سو دانے ہوں، اسی طرح اللہ جس عمل کو چاہتا ہے بڑھانے سے وہ فراخ دست اور علیم ہے۔“

کسان اپنی جھوٹی کے دل نے خدا کی زمین کے حوالے کر کے اس سے آس لگاتا ہے اور باراں رحمت کے لیے دعائیں کرتا ہے تو پورا دگار اس کو ایک ایک دانے کے ملنے سینکڑوں دانے عطا فرماتا کہ اس کا کھلیاں بھر دیتا ہے، اس ایمان افراد تجربہ کو تمثیل بنا کر خدا یہ ذہن لشیں کرتا ہے کہ بندہ خدا کی خوشنودی کے لیے خدا کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرے گا۔ خدا اس کو اتنا بڑھانے میکا کہ ایک ایک دانے کے عوض سات سو دانے عنایت فرمائے گا، بلکہ وہ تو بڑا ہی فراخ دست اور علیم ہے اس کی نیگاہ قدر شناس بندے کے گھرے غلوص اور جلدی ہے پر رہتی ہے اور وہ اتنا کچھ عطا فرماتا ہے، جس کا

بندہ صحیح تصور بھی نہیں کر سکتا، پھر یہ انعام و اکرام آخرت ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی خدا الیسی سوسائٹی کو خیر و برکت، خوش حالی اور ترقی سے مالا مال کر دیتا ہے۔

فَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ ذِكْرٍ كُوَّةً تُرِيدُونَ فَجْهَ اللَّهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ ۝ (الردم: ۲۹)

”اور جو زکوٰۃ تم مذاکی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو اسی
کے دینے والے درحقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں“ ۷

در اصل زکوٰۃ و صدقہ ہی لوگ ادا کرتے ہیں جو عالی طرف، فراخ حوصلہ، فیاض،
ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ ہوں اور زکوٰۃ و صدقہ ہی ان صفات کو بڑھانے
اور پہنچانے کا بھی ذریعہ ہے، دنیا میں خیر و برکت، سکون و اطمینان، خوشحالی
اور تسلی اسی معاشرہ کا حصہ ہے جس کے افراد میں یہ اخلاقی اوصاف عام ہوں ہوتے
چند خود غرض، منگ دل بخیلوں میں شخصی ہوتی نہ ہو بلکہ پورے معاشرے میں اس
کی مناسب تقسیم ہو، اور سب کو اپنی ہمت کے مطابق کرانے اور خرچ کرنے کی آزادی
اور موقوع یکسان طور پر حاصل ہوں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
”جو شخص پاک کمائی میں سے ایک کم ہو بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ اُس کو
کو اپنے ہاتھ میں لے کر بڑھاتا ہے جس طرح تم اپنے بچے کی پروردش کرتے ہو
یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کی برابر ہو جاتا ہے“ ۸

”اور آپ ہی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”صد قدر دینے سے ماں میں کمی نہیں آتی (بلکہ اضافہ ہوتا ہے) اور جو شخص محفوظ اللہ کے لیے خاکساری اور فردتی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو ادنیجا اٹھا دیتا ہے ۔“

قرآن کی صراحت ہے کہ قلوب کو پاک کرنے نیکیوں کی راہ پر بڑھنے، حکمت کی دولت سے مالا مال ہونے، خدا کی خوشنودی، مغفرت اور رحمت حاصل کرنے، آخرت میں ابدی سکون اور خدا کا ترب پانے والے وہی لوگ ہیں جو خوش دلی اور پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔

خُدُّا مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَاقَةً نُطَقَّرُهُمْ وَنَزِّكُهُمْ ۚ

(التوبہ: ۱۰۳)

”لے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کیجئے اور نیکی کی راہ میں انہیں آگے بڑھائیے“

الشَّيْطَانُ يَعِدُ كُلَّمَنْفَقَرٍ يَا مُؤْكَمَرٍ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُ كُمْ مُخْفِرَةً قِنْهَةً وَقَضْلَأً وَاللَّهُ دَارِسٌ عَلَيْهِمْ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُدْتَ بِخَيْرٍ كَثِيرٍ ۝ (البقرہ: ۲۴۹، ۲۴۸)

”شیطان تمہیں فقر اور ناداری سے ڈلاتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کر لے کی ترغیب دیتا ہے مگر اللہ تمہیں اپنی مغفرت اور فضل کی امید دلاتا ہے اللہ

بڑا ہی فراخ دست اور علم والا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو
حکمت مل گئی درحقیقت اس کو بہت بڑی دولت مل گئی ہے۔

رَبَّنَا مَا يُنِيبُنِيْقُ قُرْبَتْ عَنْدَاللَّهِ وَصَلَوَتِ الرَّسُولُ مَا لَأَرَثَهَا
قُرْبَةُ الْهُمَّ سَيِّدُنَا خَلَمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ هَفْوَرَ حَسِيمَهُ

(التوبہ: ۹۹)

”اور وہ جو کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے خدا کا تقرب حاصل
کرنے اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لیتے کا ذریعہ بناتے ہیں، مُنِّ رکسو“
یہ ضرور ان کے لیے خدا کے تقرب کا ذریعہ ہے اور خدا ان کو ضرور اپنی رحمت میں
داخل فرمائے گا۔ بلاشبہ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔“

وَسَيَجْلِيْهَا الْأَقْعُدَى يُؤْتَى مَا لَهُ يَتَرَكَّهُ (لیل ۱۸، ۱۴)

”اور جہنم کی آگ سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو اللہ سے بہت زیادہ
ڈرنے والا ہے جو دوسروں کو محض اس لیے اپنا مال دیتا ہے کہ راس کا دل بخل
دھرم اور حُب دنیا سے، پاک ہو جائے“

حضرت عدی بن حاتم رَضِيَّتِهِ مِنْهُ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے
تھے۔

”لوگو! جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ چھوڑا رے کا ایک سکر ملا دے کر ہی ہی ٹوٹو
حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”قیامت کے روز جب عرش الہی کے سوا کہیں سایہ نہ ہو گا، سات قسم کے نوگ عرش الہی کے زیر سایہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہو گا جو اس قدر رازداری کے ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کرے کہ اس کے لئے اُنہوںکو بھی معلوم نہ ہو، کہ داہنہا ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے“ ۱۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی شخص صدقہ کامال لے کر حاضر ہوتا تو آپ امیرانی خوشی کا اظہار فرماتے اور لانے والے کے لیے رحمت کی دعائی مانگتے۔ چنانچہ حضرت ابو ادی فی رثا اپنا صدقہ لیئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اَبِي اَدْنٰی اَوْ فِی اَوْ فِی۔ ۲۔

”یعنی اے اللہ! ابی ادی کے غاندان پر اپنی رحمت نازل فرماء“
ایک بار بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے ہی گھر پس تشریف لے گئے اور کچھ دری کے بعد باہر نکلے۔ صحابہ نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا۔
”سو نے کی ایک ڈلی گھر میں رہ گئی تھی، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ رات آ جاتے اور وہ گھر ہی میں رہے اس لیے میں اس کو مستحقین میں تقسیم کر آیا۔“ ۳۔
حضرت انسؑ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

۱۔ صحیح بخاری۔

۲۔ صحیح بخاری۔

۳۔ صحیح بخاری۔

”صدقة اور خیرات کرنے سے خدا کا غصب لختہ ہوتا ہے اور بُری موت سے آدمی
محفوظ رہتا ہے“

اور ظاہر ہے خدا کے غصب سے حفاظت اور نامہ بالخیر کے سوا الحسن کا منتهی
آزاد کیا ہو سکتا ہے !
زکوٰۃ کا حکم

ہر صاحبِ نصاب خوش حال مسلمان پڑھی فرض ہے کہ اگر اس کے پاس بقدر
نصاب مال سال بھر تک موجود ہے تو سال پورا ہونے پر وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔
زکوٰۃ فرض قطعی ہے، جو شخص اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے اور جو شخص فرض
ہونے کا انکار تو نہ کرے لیکن ادا نہ کرے تو وہ فاسق اور سخت گنہگار ہے۔

زکوٰۃ اور ٹیکس میں بنیادی فرق

زکوٰۃ اس طرح کا کوئی ٹیکس نہیں ہے جو حکومتیں اپنی پلیک پر مقرر کرتی ہیں بلکہ
یہ ایک مالی عبادت اور رکنِ اسلام ہے، جس طرح نماز، روزہ اور حج، اسلام کے
رکن ہیں، قرآن نے نماز کے ساتھ ساتھ بالعموم زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور اسے اس خدامی
دین کا اہم رکن قرار دیا ہے جو ہر زمانے میں انبیاء مرکر امام ۴ کا دین رہا ہے۔

زکوٰۃ کے نظام سے نفس انسانی اور اسلامی سوسائٹی کو جو عظیم اخلاقی اور روحانی
فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ اسی صورت میں ممکن ہیں جب عبادت اور ٹیکس کے بنیادی
فرق کو ذہن میں رکھا جائے، اور زکوٰۃ کو خدا کی عبادت سمجھ کر ادا کیا جائے۔

بے شک زکوٰۃ کی تحسیل اور تقسیم کا نظمِ شریعت نے اسلامی حکومت کے
سپرد کیا ہے، اور یہ نظم کے فرائض میں سے ہے لیکن اس لیے نہیں کہ یہ کوئی ٹیکس

ہے بلکہ اسلام کے تمام اجتماعی عبادات میں نظم پیدا کرنا اسلامی حکومت
کا فرضیہ ہے ۔

زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں

زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سات شرطیں ہیں۔

(۱) مسلمان ہونا۔

(۲) مالک نصاب ہونا۔

(۳) نصاب کا ضرورت اصلیہ سے زائد ہونا۔

(۴) مفروض نہ ہونا۔

لئے علماء حدیث کے نزدیک صرف پہلی پانچ شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، ان کے نزدیک، عاقل، بالغ ہونا، وجوب زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کا حکم ”وَ
إِنَّ الْأَوَّلَ زَكَاةً“ (۱) اور زکوٰۃ ادا کرو، ہر مسلمان مرد اور عورت کیلئے عام ہے نیز خدا کا ارشاد ہے۔

خُذُّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيمُهُمْ بِهَا۔

”اسے بنی! ان کے مالوں میں سے صدقہ دھوں کر کے ان کو باک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے۔“

تطہیر اور تزکیہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، لہذا ہر مسلمان مرد اور عورت پر زکوٰۃ فرض ہے
چاہے وہ عاقل ہے اور بالغ ہو، علماء حدیث کے علاوہ بعض دوسرے علماء بھی بعد کی دو شرطوں
کو تسلیم نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے عقل و بلوغ کو شرط قرار نہیں دیتے۔

(۵) مال پر پورا سال گزنا۔

(۶) حاقیل ہونا۔

(۷) بالغ ہونا۔

ذیل میں ان شرطوں کی تفصیل اور حاصل بیان کیا جاتا ہے۔

(۱) مسلم ہونا۔ غیر مسلم پر زکوٰۃ داجب نہیں ہے، لہذا جو شخص اسلام قبول کرے۔ اس پر یہ داجب نہیں ہے کہ وہ اسلام سے پہلے کے ایام کی بھی زکوٰۃ ادا کرے۔

(۲) مالک نصاب ہونا۔ یعنی اتنے مال و م產業 کا مالک ہونا، جس پر شریعت نے زکوٰۃ داجب قرار دی ہے۔

(۳) بقدر نصاب ضرورتِ اصلیہ سے زائد ہونا۔ ضرورتِ اصلیہ سے مراد وہ بنیادی ضرورتیں ہیں، جن پر آدمی کی حیات اور عزت و آبرد کا دار و مدار ہو، جیسے کہانا ہینا، لباس، رہنے کا مکان، پیشہ درآدمی کے اوزار اور مشین وغیرہ، مسواری کا گھوڑا، سائیکل، موٹر وغیرہ، گھرداری کا سامان، کتابیں جو مطالعے کے لیے ہوں، کار و بار کی غرض سے نہ ہوں یہ ساری ہی چیزیں ضرورتِ اصلیہ میں شمار ہوں گی ان پر زکوٰۃ داجب نہ ہوگی ہاں ان سے زائد مال نصاب کے بقدر ہو تو اس پر زکوٰۃ داجب ہوگی جب کہ دوسرا میں بھی موجود ہوں۔

(۴) مفروض نہ ہونا۔ کسی شخص کے پاس بقدر نصاب مال و م產業 تو ہے لیکن اس پر دوسروں کا قرضہ بھی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ داجب نہ ہوگی۔ ہاں اگر مال اتنا ہو کہ قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی مال بقدر نصاب پنج ہائے تو لمیسے شخص پر زکوٰۃ

واجب ہو جائے گی۔

(۵) مال پر پورا سال گزرنما:- بقدر نصاب مال و متاع ہو جانے ہی سے زکوٰۃ واجب نہیں ہو جاتی بلکہ اس پر پورا ایک سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ شیعی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-
و کسی شخص کو کسی بھی ذریعے سے مال حاصل ہوا س پر زکوٰۃ اسی وقت واجب

ہوگی جب اس پر پورا سال گزرن جائے گا۔

(۶) طلاق ہونا:- بخونص عقل اور سمجھ سے محروم دیوانہ اور محبوں ہوا س پر زکوٰۃ واجب نہیں۔

(۷) بالغ ہونا:- نابالغ بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال ہو، نہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے اور نہ اس کے ولی پر۔

لہ جامع ترمذی۔

لہ نابالغ اور خاترا العقل کی زکوٰۃ پر گفتگو کرتے ہوئے علماء مودودی صاحب ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:-

دنیا بالغ بچوں کے بارے میں اختلاف ہے ایک مسلم یہ ہے کہ قیمیم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دوسرا مسلم یہ ہے کہ قیمیم کے سی رشد کو سنبھلنے پر اس کا ولی اس کا مال اس کے حوالے کرتے وقت اس کو زکوٰۃ کی تفصیل بتا دے پھر اس کا اپنام ہے کہ اپنے ایام قیمی کی پوری زکوٰۃ ادا کرے تیسرا مسلم یہ ہے کہ قیمیم کا مال اگر کسی کار و بار میں لگایا گی ہے اور نفع دے رہا ہے تو اس کا ولی اس کی زکوٰۃ (ہاتھ پر حصہ)

(لبقیہ سائیہ ملت) زکوٰۃ ادا کرے ورنہ نہیں، چون تھا مسلک یہ ہے کہ تیم کے مال کی زکوٰۃ
واجب ہے اور اس کا ادا کرنا اس کے دلی کے ذمے ہے، ہمارے نزدیک یہی
چون تھا مسلک زیادہ صحیح ہے، حدیث میں آیا ہے۔

اَلَا مَنْ وَلَىٰ بِتِئْمَالَةَ مَا لَيْ فَلِيْتَ جُرْلَهُ فِيهِ وَلَا يَرْكَهُ فَنَا كُلُّهُ
الصدقۃ — (ترمذی، دارقطنی، بیہقی، کتاب الاموال لابن عبید)

”خبردار اب شخص کی لیے تیم کا دلی مbor جو مال رکھتا ہو تو اسے چاہیئے کہ اس
کے مال سے کوئی کار و بار کرے اور اسے یوں ہی نہ رکھ سچوڑے کہ اس کا سارا مال
زکوٰۃ کھا جائے ॥“

اس کے ہم معنی ایک حدیث امام شافعیؓ نے مرسلاً اور ایک دوسرا
حدیث طبرانی اور ابو عبید سے مرفوٰ نقل کی ہے اور اس کی تائید صحابہ تابعین
کے متعدد آثار و اقوال سے ہوتی ہے جو حضرت عمر، حضرت عائشہؓ، حضرت
عبداللہ بن عمر، حضرت علی، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم اور تابعین
سے مجاہد، عطاء، حسن بن یزید، مالک بن النس اور زہری سے منقول
ہیں۔

فائز العقل لوگوں کے بارے میں بھی اسی نوجیت کا اختلاف ہے جو اور پر
مذکور ہوا ہے اور اس میں بھی ہمارے نزدیک قول راجح یہی ہے کہ مجنون کے
مال میں زکوٰۃ واجب ہے اور اس کا ادا کرنا مجنون کے دلی کے ذمے ہے امام
مالكؓ اور ابن شہاب زہری نے اسی رائے کی تصریح کی ہے۔

ادائے زکوٰۃ کے صحیح موقن کی شرطیں

ادائے زکوٰۃ کے صحیح ہونے کی چھ شرطیں ہیں۔ یہ چھ شرطیں موجود ہوں تو زکوٰۃ ادا ہوگی ورنہ ادا نہ ہوگی۔

(۱) مسلمان ہونا۔

(۲) زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کرنا۔

(۳) مالک بنانا۔

(۴) مقررہ مددوں میں صرف کرنا۔

(۵) عاقل ہونا۔

(۶) بالغ ہونا۔

ذیل میں ان شرطیوں کی تفصیل اور فائدے بیان کیے جاتے ہیں۔

۱) مسلمان ہونا:- زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو، پچونکہ غیر مسلم پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے اس لیے اگر کوئی غیر مسلم زکوٰۃ ادا کرے سگا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ لہذا اسلام لانے سے پہلے اگر کسی نے آئندہ کی زکوٰۃ ادا کر دی اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اسلام قبول کیا تو اسلام لانے سے پہلے کی ادا کی ہوئی زکوٰۃ صحیح نہ ہوگی۔ مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔

۲) زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کرنا:- زکوٰۃ بھاگلتے وقت ہاستحق کو دیتے وقت زکوٰۃ دینے کی نیت کرنا ضروری ہے اگر زکوٰۃ بھاگلتے وقت زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال استحق کے پاس موجود ہو۔

- (۳) زکوٰۃ ادا کرتے وقت، زکوٰۃ لینے والے کو اس کا مالک بنانا۔ چنانچہ کسی مستحق زکوٰۃ کو مالک بننے یا زکوٰۃ کی تخصیص اور تقسیم کرنے والے ادارے کو مالک بننے۔
- (۴) مقررہ مددوں میں صرف کرنا۔ زکوٰۃ صرف کرنے کی مدین قرآن نے بیان کر دی ہیں، ان کے علاوہ کسی دوسری مدین اگر زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔
- (۵) عاقل ہونا، دیوانہ، محبوون اور فاتر العقل شخص زکوٰۃ ادا کرتے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔
- (۶) بالغ ہونا۔ نابالغ بچپن زکوٰۃ ادا کرنے تو زکوٰۃ صحیح نہ ہوگی۔

زکوٰۃ واجب ہونے کے چند مسائل

- (۱) جو رقم ضرورت اصلیہ کے لیے محفوظ رکھی گئی ہو، اگر یہ ضرورت اسی سال در پیش ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، اور اگر یہ ضرورت آئندہ کبھی پیش آئے ولی ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔^۱
- (۲) جس مال میں کوئی دوسرا حق، عشر خراج وغیرہ واجب ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ کیونکہ ایک مال پر دو حق واجب نہیں ہوتے۔^۲
- (۳) جو چیزیں کسی نے کسی کے پاس رہن کر دی ہوں ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں

^۱ طلم الفقرہ چہارم۔

^۲ طلم الفقرہ چہارم۔

ہے مزدہن کرنے والے پر اور مزدہن رکھنے والے ہے۔ ۱۷

(۲۴) کسی کا کوئی مال کم ہوگی یا رقم کم ہوگئی پھر ایک مدت کے بعد خدا کے فضل سے وہ مال مل گیا، اور کم ہوئی رقم دستیاب ہو گئی تو اس مدت کی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، جس مدت میں مال کم ہوا تھا۔ ۱۸

(۲۵) کسی کے پاس سال کے شروع میں نصاب کے بقدر مال موجود تھا درمیان میں کچھ مدت کے لیے مال کم ہوگی یا بالکل ہی نہیں رہا لیکن سال کے آخر میں پھر خدا کے فضل سے نصاب کے بقدر ہو گیا تو اس مال پر زکوٰۃ واجب ہو گی درمیان میں مال کم ہونے یا نہ ہونے کا اختبار نہ کیا جائے گا۔ ۱۹

(۲۶) گرفتار ہونے والے شخص کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے جو شخص بھی اس کے پیچھے اس کے کاروبار یا اس کے مال کا مسئول ہو وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ ۲۰

(۲۷) سافر کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہو، بلاشبہ سافر ہوتے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ لینے کا بھی مستحق ہے، لیکن چون کہ وہ غنی اور صاحب نصاب بھی ہے اس لیے اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، اس کا سفر اس سے زکوٰۃ کا مستحق بناتا ہے اور اس کا مال دار ہونا اس پر زکوٰۃ فرض کرتا ہے۔ ۲۱

۱۷ علم الغقر چہارم۔

۱۸ اس لیے کہ زکوٰۃ کے وجوہ کے لیے مال کا اپنے قبضہ اور اپنے ملک میں ہونا ضروری ہے۔

۱۹ علم الغقر۔

۲۰ رسائل وسائل حصہ دوم

۲۱ بہشتی ذیور حصہ سوم۔

(۱۸) کسی نے کسی کو کوئی عطا یہ دیا اگر وہ بقدر نصاب ہو اور اس پر سال گز رجاتے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ۱۔

(۱۹) مگر کاسار و سامان، جیسے تابے، اپنی، المٹیم اور اسٹینل وغیرہ کے برتن، پہنچنے اور ڈھنے کے کپڑے، درمی، فرش، فرنچر وغیرہ سونے چاندی کے علاوہ کسی دوسرا یہ دھات کے زیور میچے متینوں کے ہار وغیرہ چاہے کتنے ہی قیمتی ہوں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ ۲۔

(۲۰) کسی تقریب میں خرچ کرنے کے لیے کسی نے اچھی مقدار میں غله وغیرہ خرید لیا۔ پھر لفظ کی خاطر اس کو فروخت کر دیا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی زکوٰۃ صرف اُسی مال پر واجب ہوگی جو کار وبار کے ارادے سے خریدا ہو۔ ۳۔

(۲۱) کسی کے پاس ہزار روپے تھے، سال پورا ہونے پر اس میں سے پانچ سو روپے ضائع ہو گئے اور باقی رقم اس شخص نے خیرات کر دی تو صرف ضائع شدہ رقم کی زکوٰۃ واجب رہے گی۔ خیرات کردہ رقم کی زکوٰۃ ادا ہوگئی۔ ۴۔

(۲۲) زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد کسی کا مال و ممکن ضائع ہو گیا۔ تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ ۵۔

۶۔ بہشتی زیور حصہ سوم۔

۷۔ بہشتی زیور حصہ سوم۔

۸۔ بہشتی زیور حصہ سوم۔

۹۔ بہشتی زیور حصہ سوم۔

۱۰۔ بہشتی زیور حصہ سوم۔

(۱۳) کسی کاروبار میں چند افراد شریک ہوں، اور سب کی رقم گئی ہو اگر ہر شریک کا الگ الگ حصہ نصاب سے کم ہو تو کسی پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی چاہے ان سب کے حصوں کا مجموعہ بقدر نصاب یا اس سے زائد ہو۔ لہ

(۱۴) کسی شخص نے رمضان میں (۱۳۰۰) دو ہزار روپے کی زکوٰۃ ادا کی، اور یہ دو ہزار اس کے پاس محفوظ ہیں اب رجیب کے ہمینے میں اللہ کے فضل سے (۱۴۰۰) دو ہزار اس کو مزید مل گئے۔ تو اب سال پورا ہونے پر وہ (۱۵۰۰) چار ہزار کی زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ نہ سوچے کہ (۱۳۰۰) جو رجیب میں ملے ہیں ان پر تو سال نہیں گزرا ہے، سال کے دوران جو رقم یا مال بھی ٹڑھے، چاہے کاروبار میں لفظ کے ذریعے ٹڑھے یا بھوپالیوں کے بچے ہو جائیں یا کوئی مال عطیہ کر دے یا میراث میں مل جائے۔ غرض جس طرح بھی کوئی رقم یا مال ملے، سارے مال و متاع پر زکوٰۃ ادا کرنا، ہوگی چاہے بعد میں ملنے والے مال پر ابھی پورا سال نہ گزرا ہو۔

زکوٰۃ ادا کرنے کے مسائل

(۱) زکوٰۃ ادا کرتے وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ مستحق کو دیتے وقت جتابا جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ انعام، یا بچوں کے لیے تختہ اور عیدی کے طور پر دے دینا

لہ امام شافعی رحمہ اس صورت میں مجموعی رقم پر زکوٰۃ کے وجوب کے قائل ہیں۔ اگر کاروبار کی مجموعی رقم بقدر نصاب یا اس سے زائد ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چاہے الگ الگ ہر شریک کا حصہ بقدر نصاب نہ ہو۔

بھی جائز ہے صرف یہ کافی ہے کہ زکوٰۃ دینے والا ذکر ادا کرنے کی نیت کر لے۔

(۲) مزدود کو کسی خدمت کے عوض میں یا ملازم اور خادم کو اجرت میں زکوٰۃ دینا صحیح نہیں۔ البتہ بیت المال کی طرف سے جو لوگ زکوٰۃ دھنول کرنے اور تقسیم کرنے پر مستقر ہوں ان کی تجوہ میں زکوٰۃ کے مال میں سے دی جاسکتی ہیں۔

(۳) سال پورا ہونے سے پہلے پیشگی زکوٰۃ ادا کر دینا جائز ہے۔ اور قسطوار ماہانہ ادا کرنا بھی جائز ہے، بشرطیکہ وہ شخص صاحبِ نصاب ہو اور اگر کوئی اس موقع پر پیشگی زکوٰۃ دے رہا ہو، کہ آئندہ وہ صاحبِ نصاب ہونے والا ہے، تو ایسے شخص کی زکوٰۃ ادا نہ ہو گی جس وقت وہ صاحبِ نصاب ہو گا اور سال گزر جائے گا، اس کو پھر زکوٰۃ دینا ہوگی۔ ۱۷

حضرت علی رضی کا بیان ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زکوٰۃ پیشگی ادا کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ ۱۸

(۴) زکوٰۃ میں درمیانی معیار کا مال ادا کرنا چاہیئے نہ تو یہ صحیح ہے کہ زکوٰۃ دینے والا معمولی مال زکوٰۃ میں ادا کرے اور نہ یہ درست ہے کہ زکوٰۃ دھنول کرنے والا اچھے سے اچھا مال دھنول کرے، دینے والا بھی خدا کی راہ میں اچھا دینے کی کوشش کرے اور لینے والا بھی کسی پر زیادتی نہ کرے۔

(۵) زکوٰۃ ادا کرنے والے کو اختیار ہے چاہے وہ چیز ادا کرے جس پر زکوٰۃ دا جب ہوتی ہے، مثلاً سونا، بامبا لوریا اس کی قیمت ادا کرے ہر حال میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی ہاں یہ واضح رہے کہ قیمت ادا کرنے کی صورت میں اس وقت کی قیمت جس وقت کہ زکوٰۃ کیا جائے گا جس وقت زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے نہ کہ اس وقت کی قیمت جس وقت کہ زکوٰۃ میں دا جب ہوتی ہے مثلاً ایک شخص کے یہاں بکریاں پلی ہوتی ہیں، سال گزر لے پر زکوٰۃ میں ایک بکری اس پر دا جب ہو گئی جس کی قیمت زکوٰۃ دا جب ہونے کے وقت (۵۰/-) پہنچ رہ پے ہے، کسی وجہ سے اس وقت اس نے زکوٰۃ ادا نہیں چند ماہ بعد ادا کر رہا ہے تو اس وقت بکری کی جو قیمت ہو گی وہی ادا کرنا ہو گی اگر قیمت ٹھوکر (۶۰/-) سال تک روپے ہو گئی ہے تو سال تک روپے ہی دینا ہو گی اور اگر کم ہو کر چالینہں روپے رہ گئی ہے تو چالینہں روپے ہی دینا ہوں گے۔

(۶) زکوٰۃ اسلامی حکومت کے بیت المال میں جمع ہونی چاہیئے۔ اور اسلامی حکومت کا یہ اہم فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ کی تحریکیں اور قیسم کا انتظام کرے اور جہاں کہیں مسلمان اپنی شدید ترین غفلت کے باعث حکومی کی زندگی گزار رہے ہیں تو الیسی صورت میں ان کا فرض ہے کہ اپنے طور پر مسلمانوں کا بیت المال قائم کریں اور اس میں زکوٰۃ جمع کریں۔ اور بیت المال سے ہی زکوٰۃ اس کے متنوع مصادر میں صرف کی جائے۔ اور جو اس اجتماعیت سے بھی محروم ہوں تو وہ اپنے طور پر مستحقین کو زکوٰۃ پہنچائیں اور اسلسل علمی اور عملی کوششیں کرتے رہیں کہ اسلامی نظام قائم ہو اس لیے کہ اسلامی نظام کا قیام ملت کا فرضیہ بھی ہے، اور اس کے بغیر اسلام کے بہت سے احکام و قوانین پر غل بھی ممکن نہیں ہے۔

- (۷) جو لوگ عارضی طور پر یا مستقل طور پر زکوٰۃ کے مستحق اور محتاج ہوں، مثلاً اپارچ، بیمار، ضعیف، نادار، مسکین، بیوائیں۔ ان کو وقتوی طور پر بھی بیت المال سے مدد دی جاسکتی ہے اور مستقل طور پر بھی ان کے گزارے اور وظیفے مقرر کیے جاسکتے ہیں۔
- (۸) بیت المال سے زکوٰۃ منفرد مستحقین کو بھی دی جاسکتی ہے، اور اداروں کو بھی دی جاسکتی ہے اور خود بھی ایسے ادارے قائم کیے جاسکتے ہیں جو مصارف زکوٰۃ سے متعلق ہوں مثلاً۔ تبیم خانے، محتاج خانے اور ناداروں کے لیے تعلیمی ادارے اور شفاخانے وغیرہ۔
- (۹) حاجت مندوگوں کو زکوٰۃ کی مد سے قرض حسن دینا جائز ہے بلکہ ناداروں کو اونچا اٹھانے اور ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی غرض سے قرض حسن دینا مستحسن ہے۔
- (۱۰) جن رشتہداروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، ان کو زکوٰۃ دینے کا دو گناہ جرہے، ایک زکوٰۃ دینے کا اور دوسرا صدر جمی کا۔ اور اگر یہ بیال ہو کہ عزیز اور رشتہدار زکوٰۃ کی رقم لیتے ہوئے شرم محسوس کریں گے یا ضرورت مند ہوئے کے باوجود بُرے امانتیں گے اور زلیں گے، تو ان کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ کامال ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں مستحسن لو یہ بتانا شرط نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ کسی تقریب میں تعاون کے طور پر، عجدی کے طور پر یا کسی اور طریقے سے ان کو وہ رقم پہنچا دی جائے۔
- (۱۱) بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ قمری مہینوں کے حساب سے ادا کی جائے لیکن یہ ضروری نہیں ہے، شمسی حساب سے بھی زکوٰۃ ادا کی جاسکتی ہے قمری حساب سے زکوٰۃ کا درجہ کسی نص سے ثابت نہیں ہے۔ اور نہ یہ ضروری ہے کہ کسی خاص ہیئتے

میں زکوٰۃ ادا کی جاتے۔ البته رمضان البارک چونکہ نیکیوں کی بہار کا ہی نہ ہے، اور اس میں ہر عبادت کا اجر بہت زیادہ ہے، اس لیے اس ماہ میں دینا بہتر ہے، لیکن ایسا کرنا داجب نہیں۔ اور نہ یہ ادائے زکوٰۃ کی صحت کے لیے کوئی شرط ہے۔

(۱۲) عام حالات میں مناسب ہے کہ ایک علاقے کی زکوٰۃ اسی علاقے میں صرف کی جاتے، البته دوسرے علاقوں میں کوئی شدید ضرورت پیش آجائے، یا زکوٰۃ دینے والے کے عزیز دافارب دوسری عجگہ رہتے ہوں اور وہ حاجتمند ہوں، یا دوسرے مقام پر کوئی ناگہانی ارضی یا سماوی آفت نازل ہو گئی ہو تو ایسی صورت میں دوسرے علاقوں میں بھی زکوٰۃ کی رقم پہنچی جاسکتی ہے، البته یہ خیال رہے کہ اپنی ثبتی اور علاقے کے حاجتمند لوگ محروم نہ رہ جائیں۔

(۱۳) زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے پہنچی شرط ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو مالک اور قابلِ بعض بنادیا جائے۔ اگر کوئی شخص کھانا پکو اکر مستحقین کو گھر میں کھلادے تو یہ زکوٰۃ صحیح نہ ہوگی۔ ہاں کھانا ان کے حوالے کر کے ان کو اختیار دے دیں کہ وہ خود کھائیں یا کسی کو کھلائیں یا جو چاہیں کریں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کسی ادارے یا بیت المال کو دے دینے سے بھی مالک بنانے کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ وصول کرنے والے کو زکوٰۃ دے دینے سے بھی تملیک کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر بیت المال یا زکوٰۃ وصول کرنے والا ادارہ ذمہ دار ہے، زکوٰۃ دینے والے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اب مستحقین کو پھر مالک بنانے۔

(۱۴) اگر کوئی شخص اپنے کسی رشتہ دار، دوست، یا کسی کی طرف سے بھی بطور خود زکوٰۃ ادا کر دے، تو اس شخص کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثلاً شوہر اپنی بیوی کے زیر پور

وغیرہ کی زکوٰۃ اپنے پاس سے ادا کر دے تو بیوی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔

ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھا حضرت عباس رضی نے آپ کے مقرر کیے ہوئے محض حضرت عمرؓ کو زکوٰۃ نہیں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”ان کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے بلکہ اُس سے زیادہ، عمر انہم سمجھتے ہیں کہ آدمی کا چھا اس کے لیے باپ کے برابر ہے۔“

مسنون تملیک

حنفی علماء کے نزدیک زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح ہونے کے لیے تملیک ایک لازمی شرط ہے، دوسرا کو مالک بنائے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس مسئلہ پر علامہ مودودی صاحب نے ایک اہم و صاححتی نوٹ لکھا ہے، جو مسئلہ تملیک کی حقیقت کو صحیح نہ کر لیے انتہائی مفید ہے۔ ذیل میں یہ بصیرت افروز نوٹ درج کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ فَلَيَرْهُمْ
وَالْمُؤْلَفَةُ قَلُوبُهُمْ الخ (التوبۃ: ۶۰)

”صدقات تو فقراء کے لیے ہیں اور مساکین کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو ان پر کام کرنے والے ہیں اور ان کے لیے جن کی تالیعت قلب مقصود ہو۔۔۔ الخ۔“

دیکھیے یہاں لام کا عمل صرف فقراء ہی پر نہیں ہو رہا ہے بلکہ مساکین، عاملین علیہما اور مؤلفتہ قلوب ہم پر بھی ہو رہا ہے یہ لام تملیک کے لیے ہے تو اور استحقاق یا اختصاص یا کسی اراد معنے کے لیے ہے تو، بہر صورت جس معنی میں بھی یہ فقراء سے متعلق ہو گا اسی معنی میں باقی تینوں سے بھی متعلق ہو گا۔ اب اگر حنفی تاویل کے لحاظ سے وہ تملیک سماقتی ہے تو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا مال ان چاروں میں سے جس کے حوالے بھی کر دیا جائے گا،

تمدیک کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ آگے تمدیک کا حکم کہاں سے نکالا جانا ہے؟ کیا فقیر یا مسکین کی لیک میں زکوٰۃ کامال پہنچ جانے کے بعد اس کے تصرفات پر کوئی پابندی ہے؟ اگر نہیں تو "عَامِلِيْنَ عَلَيْهَا" کے ہاتھ میں پہنچ جانے کے بعد جب کہ لام تمدیک کا تقاضا پورا ہو چکا۔ پھر مزید تمدیک کی پابندی لگانے کی کیا لیل ہے؟ لام کو اگر تمدیک ہی کے معنی میں لیا جائے تو ایک شخص جب زکوٰۃ و صدقات دا جبکہ کے اموال "عَامِلِيْنَ عَلَيْهَا" کے سپرد کر دیتا ہے تو گویا وہ انہیں اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور یہ اسی طرح ان کی لیک بن جاتے ہیں، جس طرح فے اور غنیمت کے اموال حکومت کی لیک بن جاتے ہیں، پھر ان پر یہ لازم نہیں رہتا کہ وہ ان اموال کو آگے جستحقیں پر بھی صرف کریں، بصورت تمدیک ہی کریں، بلکہ انہیں یہ حق حاصل ہے، کہ باقی ماندہ سات مصارف زکوٰۃ میں اس کو جس طرح مناسب اور ضروری تجھیں صرف کریں، لام تمدیک کی ر دے سے ان پر کوئی قید نہیں لگائی جاسکتی۔ البتہ جو قید لگائی جا سکتی ہے، وہ صرف یہ کہ جو شخص بھی زکوٰۃ کی تخصیص و صرف کے سلسلے میں کوئی عمل کرے وہ بس اس عمل کی اجرت لے۔ باقی مال اُسے دوسرے مستحقین زکوٰۃ پر صرف کرنا ہو گا۔ اس لیے کہ یہ لوگ "عَامِلِيْنَ عَلَيْهَا" ہونے کی حیثیت سے ان اموال کے مالک بنائے جاتے ہیں نہ کہ بھائے خود مستحق ہونے کی حیثیت سے "عَامِلِيْنَ عَلَيْهَا" کا فقط خود اس دوچہ کو ظاہر کر دیتا ہے، جس کے لیے زکوٰۃ ان کے حوالے کی جاتی ہے، اور پھر یہ لفظ یہ بھی طے کر دیتا ہے کہ وہ عامل ہونے کی حیثیت سے اس مال کا کتنا حصہ جائز طور پر اپنے ذاتی تصرف میں لانے کا حق رکھتے ہیں۔

اس شریح کے بعد اس حدیث پر نگاہ ڈالیے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس فڑ

ابن مالکؓ سے روایت کی ہے۔ اس میں حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا، کہ
اذ اذا دیدت الزکوة الى رسولك فقد برئت منها الى الله
درست رسوله۔

”جب میں نے آپ کے سچے ہوئے عامل کو زکوٰۃ ادا کر دی تو میں اللہ کا درود
اس کے رسول کے سامنے اپنے فرض سے بری الذمہ ہو گیا ناء ۲۷
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔

نعم اذا دیدتہا الى سرسولی فقد برئت منها الى الله رسوله
فَلَذَّ أَجْرُهَا، وَأَشْهَدَهَا عَلَى مِنْ بَدَلَهَا۔

”ہاں جب تو نے اسے نیرے فرستادہ عامل کے حوالے کر دیا تو اللہ
اور اس کے رسول کے آگے اپنے فرض سے بری الذمہ ہو گیا۔ اس کا اجر تیرے
لیے ہے اور جو اس میں ناجائز تصرف کرے اس کا گناہ اسی پر ہے ॥

اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ ”عَامِلِيْنَ
عَلَيْهِمَا“ کے سپرد کر کے بری الذمہ ہو جاتا ہے بالفاظ دیگر لام تملیک کا تقاضا جس
طرح کسی فقیر یا مسکین کو زکوٰۃ دے دینے سے پورا ہوتا ہے، اسی طرح ”عَامِلِيْنَ عَلَيْهِمَا“
کو دے دینے سے بھی پورا ہو جاتا ہے । ۰

اب یہ بات بھی سمجھ لیتی چاہئیے کہ ”عَامِلِيْنَ عَلَيْهِمَا“ کے الفاظ جو قرآن میں
ارشاد فرمائے گئے ہیں ان کا اطلاق کن لوگوں پر ہوتا ہے لوگ اے صرف ان کا نہ لیا
تک محدود بھجتے ہیں جن کو حکومت اسلامی اس کام کے لیے مقرر کرے لیکن قرآن پاک

کے الفاظ عام ہیں جن کا اطلاق ہر اس شخص پر ہو سکتا ہے جو زکوٰۃ کی تحصیل و قیمت کے لئے میں "عمل" کرنے کے اس عالم کو خاص کرنے والی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے، اگر حکومت اسلامی موجود نہ ہو یا ہو مگر اس فرض سے غافل ہو اور مسلمانوں میں کوئی گروہ یہ "عمل" کرنے کے لیے اللہ کفر ابتو آنکھ دلیل سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ نہیں تم "عَامِلِيْنَ عَلَيْهِمَا" نہیں ہو؟ میرے نزدیک تو یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ اس نے مالین حکومت کے لیے خاص کرنے کے بجائے اپنا حکم ایسے عام الفاظ میں دیا ہے جن میں یہ گنجائش پائی جاتی ہے کہ اسلامی حکومت کی بغیر موجودگی، یا غافل حکمرانوں کی موجودگی میں مسلمان بطور خود بھی زکوٰۃ کی تحصیل و قیمت کے لیے مختلف انتظامات کر سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اس عام حکم کو عام ہی رہنے دیا جائے تو غریب طلباء کی تعلیم تبیینوں کی پر درش، بوڑھوں اور سندوروں اور اپاہجوں کی تکھداشت نادار مرتعیوں کے علاج اور لیے ہی دوسرے کاموں کے لیے جو ادارے قائم ہوں ان سب کے منتظرین بالکل بجا طور پر "عَامِلِيْنَ عَلَيْهِمَا" کی تعریف میں آئیں گے اور ان کو زکوٰۃ لینے اور حسب ضرورت صرف کرنے کے اختیارات حاصل ہو جائیں گے۔ اسی طرح لیے ادارے قائم کرنے کی بھی گنجائش نکل آئے گی جو خاص طور پر تحصیل و صرف زکوٰۃ ہی کے لیے قائم ہوں، ان کے منتظرین بھی "عَامِلِيْنَ عَلَيْهِمَا" قرار پائیں گے اور صرف زکوٰۃ کے معاملے میں ان کے ہاتھ بھی تملیک کے فتوے سے بامداد ہئے کی ضرورت نہ رہے گی۔

میرے نزدیک اگر قرآن کے الفاظ کی عمومیت نگاہ میں رکھی جائے تو صرف مذکورہ بالا عاملین ہی پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بلکہ دوسرے بہت سے کارکن بھی اس تعریف

میں آتے ہیں۔ مثلاً۔

ایک تینیم کا دلی، ایک بھار یا اپائچ کی خبر گیری کرنے والا۔ اور ایک بے کس بوڑھے کا نگہبان بھی عامل ہے اسے زکوٰۃ و صون کر کے ان لوگوں کی ضروریات پر خرچ کرنے کا حق ہے اور اس میں سے معروف طریقے پر اپنے عمل کی اجرت بھی وہ چاہے تو سکتا ہے۔

زکوٰۃ کی رقم اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کی ضرورت پیش آئے تو اس میں سے ڈاک خانے یا بینک کی اجرت دی جا سکتی ہے کیونکہ اس خدمت کو انعام دینے کی حد تک وہ بھی «عَامِلِيْنَ عَلَيْهِنَا» ہوں گے۔

زکوٰۃ و صون کرنے زکوٰۃ کے اسوال ایک جگہ سے دوسری جگہ حسب ضرورت لے جانے یا مستحقین زکوٰۃ کی مختلف ضروریات پوری کرنے کے لیے ریل، بس، ٹرک، ٹانکے، ٹیکے وغیرہ جو استعمال کیے جائیں ان کے کرانے مال زکوٰۃ سے دیتے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ خدمت انعام دیتے وقت یہ سب «عَامِلِيْنَ عَلَيْهِنَا» میں ہی شمار ہوں گے۔

مستحقین زکوٰۃ کی خدمت کے لیے جس قدر بھی ملازم اور مزدور استعمال کیے جائیں گے۔ ان سب کی تحویل اور اجر میں زکوٰۃ کی نہ سے دی جا سکتی ہیں کیونکہ وہ «عَامِلِيْنَ عَلَيْهِنَا» میں داخل ہوں گے قطع نظر اس سے کہ کوئی رہیوں سے اسٹیشن پر زکوٰۃ کے غلے کی بوریاں ڈھونتے یا کوئی غریب مریضوں کی خدمت کے لیے گاڑی چلائے۔ یا کوئی تینیم بچوں کی نگہداشت کرے۔

اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ آیا «عَامِلِيْنَ عَلَيْهِنَا» کے تصرفات پر کوئی الیسی

پابندی ہے کہ وہ مستحقین زکوٰۃ کی خدمت کے لیے عمارت بنوا سکیں اور اشیاء نے
 ضرورت مثلاً گاڑیاں، دوائیں، آلات، کپڑے وغیرہ نہ خرید سکیں؟۔ میں کہتا ہوں
 حنفی تاویل آیت کے لحاظ سے یہ پابندی صرف زکوٰۃ ادا کرنے والے پر ہائے ہوتی ہے
 وہ خود بلاشبہ ان تصرفات میں سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ اس کا کام یہ ہے کہ اللہ
 تعالیٰ کے فرمان کی رو سے زکوٰۃ "جن کے لیے" ہے ان کی یا ان میں سے کسی لیکن میں
 دے دے، رہے "عَالِمِينَ عَلَيْهَا" تو ان پاس طرح کی کوئی پابندی ہائے نہیں ہوتی۔
 وہ تمام مستحقین زکوٰۃ کے لیے بمنزلہ ولی یا وکیل ہیں، اور اصل مستحق اس مال میں جتنے
 تصرفات کر سکتا ہے وہ سب تصرفات اس کے ولی یا وکیل ہونے کی حیثیت سے
 یہ بھی کر سکتے ہیں وہ حب فقرار اور مسکین کی ضروریات کے لیے کوئی عمارت بنائیں
 یا کوئی گاڑی خریدیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بہت سے فقیروں اور مسکینوں
 نے، جن کو فرد افراد از کوٰۃ ملی تھی باہم مل کر ایک عمارت بنوائی یا ایک سواری خرید
 لی۔ جس طرح ان کے تصرف پر کوئی پابندی نہیں ہے "عَالِمِينَ عَلَيْهَا" کو زکوٰۃ
 دینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مقرر کیا ہے اور اللہ کے رسول نے اسی لیے
 ان کے ہاتھ میں زکوٰۃ دے دینے والے کو فرض سے سبکدوش قرار دیا ہے کہ انہیں
 یہ مال دے دینا گویا تمام مستحقین کو دے دینا ہے وہ انہی کی طرف سے اسے دھوک
 کرتے ہیں اور انہی کے نائب وسرپست بن کر اسے صرف کرتے ہیں آپ ان کے
 تصرفات پر اس حیثیت سے ضرور اعتراف کر سکتے ہیں کہ تم نے فلاں خرچ بلا ضرورت
 کیا یا فلاں چیز پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا یا اپنے عمل کی اجرت معقول حد سے
 زیادہ لے لی یا کسی عامل کو معقول شرح سے زیادہ اجرت دے دی، لیکن کوئی قابل

شرعی میرے علم میں ایسا نہیں ہے جس کی بنابر ان کو اس بات کا پابند کیا جائے سکے کہ فلاں فلاں قسم کے تصرفات تم کر سکتے ہو اور فلاں فلاں قسم کے نہیں کر سکتے۔ قواعد شرعاً نیت انبیاء ہر اس کام کی اجازت دیتے ہیں جس کی مستحقین ذکر کوئے کے لیے ضرورت ہو۔

(ترجمان القرآن دسمبر ۱۹۵۳ء)

نصاب زکوٰۃ

نصاب زکوٰۃ سے مراد سرمائی کی وہ مکہرے کم مقدار ہے جس پر شریعت نے زکوٰۃ واجب کی ہے، اور جس شخص کے پاس بقدر نصاب سرمایہ ہواں کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔

معاشی توازن

زکوٰۃ کا ایک بنیادی مقصد معاشی توازن پیدا کرنا ہے، دولت کو گردش میں رکھنے اور سوسائٹی کے سہ طبقے کو مستفید کرنے کے لیے زکوٰۃ سرمایہ داروں کے لی جاتی ہے اور ناداروں میں بھی جاتی ہے، بنی مسلم اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر حد قرض فرض کیا ہے جو ان کے دولت مندوں سے لیا جائے

گا اور ان کے ناداروں کو لوٹایا جائے گا“ ۱۷

شریعت کی نظر میں دولت مندا اور خوش حال لوگ وہ ہیں جن کے پاس بقدر نصاب مال موجود ہو اور سال گزرنے کے بعد بھی موجود رہے دور بوت میں وہ لوگ خوش حال اور قائم نہ ہتے، جن کے پاس کم بھروسے کے بانغ ہوں اور حاضری سونا ہو با الموتی ہوں اور شریعت نے ان

چیزوں میں ایک خاص مقدار تعین فرمائیا کر کم از کم اتنی مقدار جس کے پاس ہو دہ شرعیت کی نظر میں خوش حال ہے اور اس کے مال میں سے صدقہ و صول کر کے ہو سائی کے ناداروں کو دیا جائے گا بنی صلی اللہ کا ارشاد ہے:-

”پانچ دنیع سے کم کم بھوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ پانچ اوپر سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے اور پانچ ادنیوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے“ ۱۰

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ و مناسبت فرماتے ہیں کہ اس دور میں پانچ دنیع یعنی ۱۰ میں کم بھوروں (ایک مختصر گھر لئے کے سال بھر کے گذارے کے لیے کافی ہو جاتی تھیں) اور ہی قیمت اور حیثیت پانچ اوپریہ چاندی یعنی دو سو درهم اور پانچ ادنیوں کی تھی، اس لیے اس مقدار کے مالک کو شرعیت نے خوش حال اور دولت مند قرار دے کر اس پر زکوٰۃ واجب کر دی۔

نصاب میں تبدیلی کا مسئلہ

دور حاضر میں چونکہ روپے کی قیمت غیر معمولی حد تک کم ہو گئی ہے اور پھر چاندی ہونے

۱۰ دیکھیے اصطلاحات ص ۲۔

۱۱ بخاری مسلم۔

۱۲ بولنا متطور احمد صاحب نجفی لکھتے ہیں۔ ”حضرت علیار کرام کے لیے، اس قابل غور ہے کہ اب بجب کہ روپے کی قیمت اور حیثیت زمانہ بوت کے درہم کے مقابلے میں بہت کم ہو گئی ہے بلکہ ہمارے ہی تک میں اب سے بھی سال پہلے روپے کی جو قیمت اور مالیت تھی اب اس کا بھی انٹھواں حصہ اس سے بھی کم رہ گئی ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ کام کے کم نصاب کہو ہوگا۔ ریوارف الحدیث جلد چہارم ص ۲۔“

اور ملوثی کا جو فحصاب درینبوت میں مقرر کیا گیا تھا، ان میں بھی قیمت کے لحاظ سے باہم خیر معمولی تقاضت ہے۔ اس لیے بعض ذرعن یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فحصاب زکوٰۃ پر حالات کے پیش نظر علماء خور کریں اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی لکھتے ہیں۔

«خلفائے راشدین کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوتے نصاب اور شرح زکوٰۃ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، نہاب اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور ہمارا خیال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آپ کی مقرر کردہ مقادیر میں ترمیم کرنے کا مجاز نہیں ہے..... البته سونے کے نصاب میں تبدیلی ممکن ہے کیونکہ اس کا نصاب میں مشتمل جس روایت میں آیا ہے اس کی سند بہت ضعیف ہے ॥ رسائل وسائل حصہ دوم ص ۱۵۴ - ۱۵۵)۔

ایک دوسرے سوال کے جواب میں، نصاب اور شرح زکوٰۃ میں تبدیلی نہ کرنے کی حکمتوں پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

«شارع کے مقرر کردہ حدود اور مقادیر میں ردوداہ گزنس کے ہم مجاز نہیں ہیں یہ دروازہ اگر کھل جائے تو پھر ایک زکوٰۃ ہی کے نصاب اور شرح پر زدنہیں پڑتی بلکہ نماز، روزہ، نجع، نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں ترمیم و تسبیح شروع ہو جائے گی۔ اور یہ سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو سکے گا۔ نیز یہ کہ اس دروازے کے کھلنے سے وہ توازن و اعتدال ختم ہو جائے گا۔ جو شارع نے فرد اور جماعت کے درمیان انصاف کے لیے فائم کر دیا ہے۔

اس کے بعد پھر افراد اور جماعت کے درمیان کمپینج تاں شروع ہو جائے گی۔ افراد چاہیں گے کہ نصاب اور شرح میں تمدیلی ان کے مفاد کے مطابق ہو اور جماعت چاہے گی کہ اس کے مفاد کے مطابق۔ انتخابات میں یہ چیز ایک سلسہ ہو جائے گی، نصاب گھٹا کر اور شرح بڑھا کر اگر کوئی قانون بنایا گی تو جن افراد کے مفاد پر اس کی زد پڑے گی وہ اسے خوش دلی کے ساتھ نہ دیں گے جو عبادت کی اصل روح ہے بلکہ ٹیکس کی طرح چھٹی سمجھ کر دیں گے اور حبیله سازی اور گریزہ (Evasion) دونوں ہی کا سلسہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ہاتھوں ہے کہ حکم خدا اور رسول سمجھ کر ہر شخص مر جنم کا دیتا ہے اور عبادت کے جذبے سے بخوبی رقم نکالتا ہے اس صورت میں کبھی باقی نہیں رہ سکتی جبکہ پارٹیز کی اکثریت اپنے حب ملشا کوئی نصاب اور کوئی شرح دوسروں پر سلط کرتی رہے۔ لیہ درسائل وسائل

حصہ دوم ص ۱۵۶)۔

سونے اور چاندی کا نصاب

چاندی کا نصاب دوسو درہم ہے، جس کا وزن چھتیں تو لے ساڑھے پانچ ملٹے چاندی بتتا ہے، جس شخص کے پاس اتنے وزن کی چاندی ہے اور اس پر پورا سال گزر جائے تو اس پر اس کی زکوٰۃ نکالتا واجب ہے، اس سے کم وزن کی چاندی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ۱۷

لہ مزید وضاحت کے لیے ترجمان القرآن جوں ۱۹۷۳ء دیکھئے۔

لہ یہ نصاب مولانا عبد اللہ شکور صاحب مکتب تحقیق کے مطابق ہے، (طبع الفتح م ۲۷) مولانا عبد الجبیر صاحب فرنگی محلی کی تحقیق بھی یہی ہے، البتہ بعض علماء کے نزدیک چاندی کا نصاب مارٹھے ہادن تو لے ہے، اور نیز یادہ شہروں ہے، (کہشی زیلہ بھری م ۲۷)

سونے کا نصاب بیس ہزار مثقال ہے جس کا وزن پانچ تو لے ڈھانی مانشے سونے کے برابر ہے، جس شخص کے پاس اتنے وزن کا سونا ہوا در اس پر سال بھر گز رجاء نے توز کوہ داجب ہے، اس سے کم درن کا سونا ہوتوز کوہ داجب نہیں ہے۔

سکوں اور نوٹوں کی زکوہ

حکومت کے سکے چاہے وہ کسی دھات کے ہوں اور کاغذی سکے لینے نوٹ فخر و کی زکوہ داجب ہے، کیونکہ ان کی قیمت ان کی دھات یا ان کے کاغذ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس قوت خرید کی بناء پر ہے جو قالو نا ان کے اندر پیدا کردی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ چاندی اور سونے کے قائم مقام ہیں۔ لہذا جس شخص کے پاس چھتیں تو لے ساڑھے پانچ مانشے چاندی کی قیمت کے نوٹ یا سکے موجود ہوں اس پر زکوہ داجب ہے۔

جو سکے رائج نہیں ہیں یا جو خراب ہیں یا جو حکومت نے والپس لے لیے ہیں ان میں اگر سونا چاندی کسی مقدار میں موجود ہے تو ان پر چاندی یا سونے کی اس مقدار کے لحاظ سے زکوہ داجب ہو گی جو ان میں موجود ہے۔

غیر مالک کے سکے اگر بآسانی اپنے ملک کے سکوں سے تبدیل کیے جائیں تو ان کا حکم نقدی کا ہے اور اگر تبدیل نہ کیے جاسکتے ہوں تو ان پر زکوہ صرف ہوں گے۔

لہ یہ نصاب مولانا عبد الشکور صاحب کی تحقیق کے مطابق ہے، (علم الفقہ جلد ۴ ص ۲۷) یہی تحقیق مولانا عبد الحمی صاحب فرجی محلی کی ہے۔ البته عام طور پر سونے کا نصاب (۱۰۰۰) سارے سات تو لے مشہور ہے۔ (بہشتی زیور سوم صفحہ ۲)

اس صورت میں واجب ہو گی جب کہ ان کے بعد نصاب سونا یا چاندی موجود ہو، اگر سونا چاندی یا الکل نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہ ہو گی۔

درہم کے وزن کی تحقیق

زکوٰۃ کے باب میں درہم سے مراد وہ درہم ہے جس کا وزن دو ماشے اور ڈیڑھ رتنی ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبرؑ کے دور میں درہم مختلف نزنوں کے ہوتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ درہم کے وزن ازان میں اختلاف کے باعث لوگوں میں باہم کشمکش ہوتی ہے اور زکوٰۃ کے معاملے میں الجھن پیدا ہوتی ہے تو آپ نے ہر ہر وزن کا ایک ایک درہم لیا اور اس کا گلوایا۔ اور پھر اس کے تین وزن درہم وزن بنوائے۔ پھر اس درہم کا وزن کیا گیا تو وہ چودہ قیراط کا بیٹھا پس اس درہم کے وزن پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا۔ اور سارے عرب میں یہی درہم رائج ہو گیا اور اسی کے مطابق تمام شرعی فرائض مثلاً زکوٰۃ اور حد سرقہ وغیرہ ادا ہونے لگے۔ (بخاری و غیرہ)

البتہ طہارت اور نجاست کے باب میں درہم سے مراد وہ درہم ہوتا ہے جو ایک شقال یعنی دینار کے برابر ہوتا ہے علامہ ابن حابد شامی کی تحقیق یہ ہے کہ ایک دینار سو جو کے برابر ہوتا ہے اور چار جو کی ایک رتنی ہوتی ہے اور آٹھ رتنی کا ماشہ ہوتا ہے اس حساب سے ایک دینار کا وزن تین ماشہ اور ایک رتنی قرار پاتا ہے، اسی تحقیق کے مطابق ہم نے آسان فقرہ اول میں درہم کا وزن ۳ ماشہ اور ایک رتنی لکھا ہے۔

مال تجارت کی زکوٰۃ

مال تجارت ہو، یا بھوت اور سے دشیرہ ان سب کا نصاب بھی وہی ہے جو سونے اور چاندی کا نصاب ہے لیعنی سونے پا چاندی کے نصاب کو بیساہ بنا کر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ مثلاً آپ کے پاس مبلغ - ر. ۱۰ م موجود ہیں، اس رقم میں سونے کا نصاب تو نہیں بتا لیکن چاندی کا نصاب بن جاتا ہے، تو اسی نصاب کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیئے۔

اموال تجارت میں زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کار و بار شروع کرنے کی تاریخ پر جب ایک سال گزر جائے تو تجارتی مال (Stock in Trade) کی مالیت کا حساب لگایا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ نقدر (Cash in hand) کتنا ہے دنوں کے مجموعے پر زکوٰۃ نکالی جائے۔

اگر مال تجارت اور نقدر قسم نصاب سے کم ہے اور پھر یہ کا یک قیمتیں چڑھتے ہے مال تجارت کی قیمت بقدر نصاب یا اس سے زائد ہو گئی۔ تو جس تاریخ سے قیمتیں ٹڑھی ہیں اسی تاریخ سے زکوٰۃ کے سال کی ابتدائی جائے گی۔

اگر کسی کار و بار میں کئی افراد شریک ہیں، تو کار و بار کے مجموعی اسٹاک اور کیش رقم پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی بلکہ ہر شریک کے حصے اور منافع کی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگر یہ حصہ اور اس کا منافع بقدر نصاب ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔ اسی طرح اگر کچھ مال چند لوگوں کی شرکت میں ہو تو اس پر زکوٰۃ اسی صورت میں واجب ہوگی جب ہر شریک کا حصہ بقدر نصاب ہو مثلاً چالیس بگریاں دو آدمیوں کی شرکت میں ہیں یا سانچھ تو لے چاندی دو افراد کی ملکیت میں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔

کاروبار میں کام آنے والے اوزار اور آلات، فرنیچر، اسٹینشنسی کا سامان، عمارت یعنی عوامی پیدائش پر زکوٰۃ داجب نہیں ہوتی صرف مال تجارت اور کیش قسم کی واقعی مالیت پر زکوٰۃ داجب ہوگی، زکوٰۃ دینے وقت ان قرضوں کی رقم بھی محسوب کرنا چاہیے جو کاروبار کے دران دینے جاتے رہتے ہیں اور وصول ہوتے رہتے ہیں، حضرت سید بن جندبؓ کا بیان ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے یہ حکم تھا کہ ہم اموال تجارت کی زکوٰۃ نکالا کریں“ ۲۷

زیر کی زکوٰۃ

سونا، چاندی کسی شکل میں بھی ہواں کی زکوٰۃ داجب ہے، چلہے وہ سکے ہوں، ڈلی ہو، تار ہو، گوٹا لچکا ہو، یا کپڑے پر زر کاری کا کام ہو، یا کپڑے کی بنائی میں ہونے یا چاندی کا تار شامل ہو یا انورت کے استعمال کا زیور ہو، ہر ایک پر زکوٰۃ داجب ہے۔

لہ امام شافعیؓ کا مسلک یہ ہے کہ کاروبار کے مجموعی اشک اور نقدر قم اگر بقدر نصاب ہے تو زکوٰۃ وصول کر لی جاتے گی جاہے ہر حصے دار کا حصہ بقدر نصاب نہ ہو۔
امام مالکؓ کے نزدیک بھی زکوٰۃ مجموعے سے مالک کی جائے البتہ ان شرکار کو مستثنے کر دیا جائے گا جو صاحب نصاب نہ ہوں یا جو ایک سال سے کم مدت تک اپنے حصے کے مالک رہے ہوں اور بھی رائے زیادہ مناسب اور قابل عمل ہے۔

۲۷ ابو الداؤد۔

عین کی ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاحر ہوئی اس کے
ہمراہ اس کی لڑکی بھی تھی جس کے ہاتھوں میں سونے کے دوزنی کنگن تھے۔
آپ نے دریافت فرمایا، تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ خاتون نے کہا، جی نہیں،
زکوٰۃ تو نہیں دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ قیامت کے وز
خدا اس کی پاداش میں تمہیں اُگ کے دلکن پہنائے۔ (یہ سن کر) خاتون نے وہ
دنوں کنگن اتارے اور حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہ
یہ اللہ اور رسول کی رضاکے لیے پیش خدمت ہیں ॥ لہ

حضرت ام سلمہؓ کہتی ہیں میں کنگن پہنا کرتی تھی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اکیا یہ بھی کنز ہے تو آپ نے فرمایا جو مال زکوٰۃ دینے
کی مقدار کو پہنچ جاتے اور کہ اس کی زکوٰۃ دے دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے ॥ لہ
زیور کی زکوٰۃ پر علامہ مودودی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں ڈراہی
بعیرت افرزوٹ لکھا ہے۔ ذیل میں ہم اس نوٹ کو لعینہ درج کرتے ہیں۔

”زیور کی زکوٰۃ کے بارے میں کئی مسلک ہیں ایک مسلک یہ ہے کہ اس پر
زکوٰۃ واجب نہیں ہے اسے عاریتا دینا ہی اس کی زکوٰۃ ہے۔ یہ انس بن مالک
سعید بن سعیب، قتادہ اور شعبیؓ کا قول ہے۔ دوسرا مسلک یہ ہے کہ تم بھرپیں
صرف ایک مرتبہ زیور پر زکوٰۃ دے دینا کافی ہے، تیسرا مسلک یہ ہے کہ جہا زیور

عورت ہر وقت پہنچتی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے اور بھوزیا دہ تر رکھا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ چونقا مسلک یہ ہے کہ ہر قسم کے زیور پر زکوٰۃ ہے۔ ہمارے نزدیک یہی آخری قول صحیح ہے، اول توین احادیث میں چاندی سونے پر زکوٰۃ کے وجوب کا حکم بیان ہوا ہے ان کے الفاظ عامہ میں مثلاً یہ کہ

فِي الرُّقَّةِ وِيجْ العَشْرِ وَلِبِسِ فِي جَادَنْ خَمْسَ أَوْ أَقْ صَدَقَةٍ۔

”چاندی میں ۱۷ فی صدی زکوٰۃ ہے اور پانچ اوقیعہ سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے“ ۶
پھر متعدد احادیث و آثار میں تصریح مذکور ہے کہ زیور پر زکوٰۃ واجب ہے، چنانچہ ابو داؤد، ترمذی اورنسانی میں قوی سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ اس کی رُکی لفڑی، جس کے ہاتھوں میں سوتے ہے کے لئے کنگن تھے۔

آپ نے پوچھا ”تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟“

اس نے کہا ”نہیں“

اس پر آپ نے فرمایا۔

إِنَّ رَبَّكَ اللَّهَ أَنَّ لِيَسُوسَ لَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ سَوَارِينَ مِنَ النَّارِ
”کی تجھے پسند ہے کہ خدا قیامت کے روز تجھے ان کے ہدے ہے آگ کے کنگن پہنائے؟“ ۷

نیز موطنا، ابو داؤد اور دارقطنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے۔

مَا أَدَدَتْ زَكُوٰتَهُ فَلَيْسَ بِكَثُرٍ۔

وہ جس زیور کی زکوٰۃ قوئے ادا کر دی وہ گز نہیں ہے ۸

ابن حزم نے محققی میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشتری کو جو فرمان بھیجا تھا، اس میں یہ ہدایت بھی تھی۔

مُرِّ نَسَاءُ الْمُسْلِمِينَ يَرْكِبُنَ عَنْ حَلَيْهِنَ -

”مسلمان گورنر کو حکم دو کہ اپنے زیوروں کی زکوٰۃ ادا کریں۔“

حضرت عبد اللہ بن سعوؑ سے فتویٰ پوچھا گیا کہ زیور کا کیا حکم ہے تو انہوں نے

جواب دیا۔

اذا بلغ مائتین فقيهه الزکوة۔

”جب وہ دوسو درہم کی مقدار کو پہنچ جاتے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔“

اسی مصنفوں کے اقوال صحابہ میں سے ابن عباسؓ، عبداللہ بن عمر و بن عاصیؓ اور حضرت عائشہؓ سے تابعین میں سے سید بن مسیبؓ، سید بن جبیرؓ، عطاءؓ، مجاہدؓ، ابن عثیمینؓ اور زہریؓ سے اور ائمہ فقہر میں سے سفیان ثوریؓ، ابو عیینہؓ اور ان کے اصحابؓ سے منقول ہیں۔

(رسائل وسائل دوم ص ۱۳۲-۱۳۳)

شرح زکوٰۃ

(۱) سونا، چاندی، تجارتی اموال، دھات کے سکے نوٹ، زیور سب پر چالیسو ان حصہ یعنی ۱/۷ فیصد کی شرح سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔

(۲) سونا، چاندی یا زیور میں چالیسو ان حصہ سونا یا چاندی زکوٰۃ میں بنا واجب ہے، لیکن یہ مزدھی نہیں کہ سونا چاندی ہی دی دی جاتے اس کی قیمت کا حساب لگھا کر نقدر قم بھی دی جا سکتی ہے، کپڑے بھی دی سکتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی دی

جا سکتی ہیں۔ نقدی یا تجارتی مال کی قیمت اگر سونے یا چاندی میں سے کسی کے نصاب کے بقدر ہو، تو اس کا ذہانی فیصلہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔

(۳) سونے یا چاندی کا جو نصاب میان کیا گیا ہے، اگر کسی کے پاس اس نصاب سے کچھ زیادہ چاندی سونا، یا تجارتی مال ہے تو اس پر زکوٰۃ اسی صورت میں واجب ہوگی جب وہ اس نصاب کے پانچوں حصے کے بقدر ہو اس سے کم ہو تو معاف ہے۔^{۱۷}

(۴) اگر کسی زیور، یا ڈلی یا کپڑے میں سونا، چاندی دلوں ملے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا زیادہ ہے، جو چیز زیادہ ہوا سی کا انتباہ کیا جائے گا۔ سونا زیادہ ہے تو سب کو سونا تصور کیا جائے گا اور سونے کے نصاب سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی اور اگر چاندی زیادہ ہے تو سب کو چاندی تصور کر کے چاندی کے نصف سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔

(۵) سونے یا چاندی کے زیور وغیرہ میں اگر کسی دوسری دنخات کا میل ہو، اور اس کی مقدار سونے یا چاندی سے کم ہو تو اس کا کوئی انتباہ نہ ہوگا اور اس صد کو سونے یا چاندی کا تصور کر کے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور اگر اس میں سونا یا چاندی کم ہے تو صرف اس سونے اور چاندی کا حساب لگایا جائے گا اگر وہ بقدر نصاب ہوگی تو زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔

(۶) ایک شخص کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے ان میں سے جس تپیکر کا نصاب

پورا ہواں کے ساتھ دوسری جس کی قیمت کا بھی حساب لگا کر پر ۲ فیصد کے حساب سے سب کی زکوٰۃ دی جائے گی۔

(۶) اگر کسی کے پاس مونا بھی نصاب میں کم ہے اور چاندی کی بھی نصاب سے کم ہے تو چاندی کو سونے سے ملا کر یا سونے کو چاندی سے ملا کر جو نصاب بھی پورا ہوتا ہو اس پر ۲۷ فیصد کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے۔ اسی طرح کچھ نقد تم ہے، کچھ چاندی ہے کچھ تجارتی مال ہے تو سب کو ملا کر اگر چاندی یا سونے کا نصاب پورا ہوتا ہے تو بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔

(۷) زیوروں میں جو جواہر اور موتی وغیرہ ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کا وزن مہاکرنے کے بعد باقی سونے یا چاندی کے وزن پر ۲۷ فیصد کے حساب سے زکوٰۃ بھائی جائے گی۔

وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے۔

(۱) رہنے بننے کے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چاہے وہ کتنی بھی مالیت کا ہو۔

(۲) موتی، یاقوت اور دوسرے تمام جواہر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔

(۳) آپ پاشی اور کھیتی باڑی کے لیے جو اونٹ، بیل، بھینے پالے گئے ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس معاملے میں اصول یہ ہے کہ ایک شخص اپنے کاروبار میں جن عوارض پیدا شد سے کام نے رہا ہو وہ زکوٰۃ سے مستثنی ہیں۔ حدیث میں ہے:-

لیس فی الادن العوامل صداقتة۔

یعنی جن ادنٹوں سے کھیتی باڑی میں کام لیا جاتا ہو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ ان کی زکوٰۃ زمین کی پیداوار سے حاصل ہو جاتی ہے اسی طرح تمام آلات پیدا شد پر زکوٰۃ نہیں ہے۔

(۴) کارخانے کی ملکیتوں اور آلات پر زکوٰۃ نہیں ہے، نیز کارخانے کی عمارت، کار و باریں کام آنے والے فرچر، اسٹیشنری کے سامان، دکان کی عمارت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔

(۵) شیرخانہ (Dairy farm) کے ملکیتوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہی عوامل کی تعریف میں آتے ہیں، البتہ ذیری فارم کی مصنوعات پر زکوٰۃ واجب ہے۔

(۶) بیش قیمت نادر ہیزین اگر کسی نے یادگار کے طور پر شو قیمه گھر میں رکھ چھوڑی ہوں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ اگر ان کی تجارت کر رہا ہو تو ان پر وہی زکوٰۃ حائد ہوگی جو اموال تجارت پر ہوتی ہے۔

(۷) کسی نے حوض یا تاب وغیرہ میں شو قیمه مچھلیاں پال رکھی ہیں تو ان پر زکوٰۃ حائد نہ ہوگی۔ ہاں اگر ان کی تجارت کر رہا ہو تو تجارتی زکوٰۃ واجب ہے۔

(۸) مولیشی جو ذاتی ضرورت کے لیے پالے گئے ہوں مثلاً دودھ پینے کے لیے چند گائیں یا بھینسیں پال لی ہیں یا نقل و حمل کے لیے بیل، اونٹ یا سواری کے لیے چند گھوڑے پال لیے ہیں تو ان کی تعداد خواہ کتنی ہی ہو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

(۹) سواری کے لیے موڑ سائیکل، کار، بس ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔

(۱۰) مرغی خانہ، جواندھوں کی فروخت کے لیے قائم کیا گیا ہو اس کی مغلبوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ فروخت ہونے والے انڈوں پر وہی زکوٰۃ واجب ہوگی جو دوسرے تجارتی اموال پر واجب ہے۔

(۱۱) شو قیمه طور پر جو مرغیاں یا اس قسم کے دوسرے جانور پالے جائیں ان

پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔

(۱۲) کرایہ پر چلانی جانے والی چیزیں مثلاً سائیکل، رکشا، ٹیکسی، بس، ٹرک، فرنچر، اور کراکری کا سامان وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں ان سے حاصل ہونے والا منافع اگر لقدر نصاب ہو اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ان کی قیمتوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔

(۱۳) دکان اور مکان جن سے کرایہ دھوں ہوتا ہو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے خواہ ان کی تعداد کتنی ہی ہو، اور کسی مالیت کے ہوں۔

(۱۴) پہنچ کے کپڑے، کوٹ، چادر، کمبل وغیرہ، ٹوپی، جوتے، گھڑی، اگر کا سامان، بستر، گھڑی، یعنی دغیرہ پر زکوٰۃ نہیں خواہ یہ چیزیں کتنی ہی بیش قیمت ہوں۔

(۱۵) گدھا، چپڑا اور گھوڑے پر زکوٰۃ نہیں ہے لیش طیکہ یہ تجارت کے لیے نہ ہوں۔

(۱۶) دقت کے چانوروں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے اور جو گھوڑے جہاد کے لیے پالے گئے ہوں، اور جو اسلحہ اور سامان جہاد اور خدمتِ دین کے لیے ہوں اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔

جانوروں کی زکوٰۃ

عام میڈانوں میں چرانے والے پالتو جانور جو افراد ایشنس نسل اور دودھ کے لیے پالے جاتے ہیں ان کو اصطلاح میں سائکر کہتے ہیں ان میں زکوٰۃ واجب ہے، جو جانور سواری یا گوشت کے لیے پالے گئے ہوں، جنگلی جانور، مثلاً ہرن، پاڑہ، نیل گائے،

پیتا وغیرہ کی زکوٰۃ نہیں ہاں اگر یہ جنگلی جانور تجارت کے لیے پائے ہوں تو انہیں
فرمی زکوٰۃ دا جب ہوگی جو دوسرے تجارتی اموال پر دا جب ہوتی ہے، یعنی تجارتی
سرماںہ اگر سال کے آغاز اور اختتام پر دوسرا رسم یا اس سے زائد ہو تو زکوٰۃ دا جب
ہوگی درست نہیں۔

جو جانور، جنگلی اور پالتو چانور کے اخلاط سے پیدا ہوں ان میں زکوٰۃ دا جب ہوتے
کی شرط یہ ہے کہ اخلاط کرنے والے چانوروں میں مادہ پالتو ہو۔ اور زجنگلی ہو مثلاً بکری
اور زہری کے اخلاط سے جو جانور پیدا ہوں گے ان پر زکوٰۃ دا جب ہوگی۔

جو سائھہ جانور وقت ہوں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے ایسی طرح جو گھوڑے وقت
ہوں، یا بھاد کی غرض سے پائے گئے ہوں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔

سائھہ جانور اگر زکوٰۃ کے لیے پائے گئے ہوں تو ان پر فرمی زکوٰۃ دا جب ہوگی
جو دوسرے تجارتی اموال پر دا جب ہوتی ہے۔
اگر کسی نے افرائیشنس ہی کے لیے سائھہ جانور پائے لیکن دوران سال تجارت
کا ارادہ ہو گیا تو اس سال میں زکوٰۃ اس پر دا جب نہ ہوگی بلکہ جس دن سے اس نے تجارت
کا ارادہ کیا ہے اسی دن سے اس کا تجارتی سال شروع ہو گا اور سال پورا ہونے پر
تجارتی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔

بھیٹہ بکری کا نصاب اور شرح زکوٰۃ

زکوٰۃ کے معلمانے میں بھیٹہ، بکری، دنبرہ سب کا ایک ہی حکم ہے، سب کا ایک ہی
نصاب اور شرح زکوٰۃ ہے، اگر کسی کے پاس دُنبے بھی ہیں اور بکریاں بھی اور دونوں
کوں نصاب پورا ہے تو دونوں کی زکوٰۃ الگ الگ دے اور اگر دونوں کے ملانے سے

نصاب پورا ہوا ہے تو جس کی تعداد زیادہ ہو زکوٰۃ میں وہی جانور دینا ہو گا اور دونوں کی تعداد برابر ہے تو اختیار ہے کہ جو جانور چاہے دے دے۔
نصاب اور شرح زکوٰۃ کی تفصیل یہ ہے۔

چالیس (۴۰) بھیڑ بکریوں میں۔ زکوٰۃ ایک بھیڑ یا بکری۔

اکنالیس (۳۷) سے ایک سو بیس (۱۲۰) تک کچھ داجب نہیں۔

جبکہ ایک سو اکلیس (۱۲۱) ہو جائیں تو دو بکریاں داجب ہیں۔

ایک سو بیس (۱۲۲) سے دوسرے (۲۰۰) تک کچھ نہیں۔

چوتھے سور (۴۰) سے ایک زائد سو چاہئے تو تین بھیڑ بکریاں داجب ہوں گی۔ پھر دوسرے (۲۰۷) سے تین سو نتالوں سے رہنے والے (۳۹۹) تک کچھ نہیں۔

چار سور (۴۱) پوری ہونے پر چار بھیڑیں یا بکریاں داجب ہوں گی۔

چار سور (۴۲) کے بعد (۱۰۰) کی تعداد پوری ہونے پر ایک بھیڑ یا بکری کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہو گی سور (۱۰۰) سے کم تعداد پر کچھ نہیں اور سور (۱۰۰) سے زائد تعداد پر بھی کچھ داجب نہیں۔

بکری اور بھیڑ کی زکوٰۃ میں ایک سال یا اس سے زائد کا بچہ دینا چاہئے۔

گلے کھینص کا نصاب اور شرح زکوٰۃ

زکوٰۃ کے متعلق میں اگاہے اور بھینس کا ایک ہی حکم ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز نے بھینس کو گائے پر قیاس کر کے اس پر بھی وہی زکوٰۃ مائدہ کی جو گائے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی تھی۔ دونوں کا نصاب کبھی ایک ہے اور دونوں کی شرح زکوٰۃ بھی، کسی کے پاس دونوں قسم کے جانور ہوں تو دونوں کو ملا کر نصاب پورا ہونے پر زکوٰۃ

واجہب ہو جائے گی۔ البتہ زکوٰۃ میں وہی جا تور دیا جائے گا، جس کی تعداد زیادہ ہو، اور اگر گائے اور بھیس دنوں کی تعداد ادبار بر ہو تو اختیار ہے کہ چاہے زکوٰۃ میں گائے دے یا بھیس دے۔

نصاب اور شرح زکوٰۃ کی تفصیل یہ ہے:-

بیو شخص تیس (۳۰) گائے بھیسوں کا مالک ہو جائے اس پر زکوٰۃ فرع ہو جاتی ہے۔
اس سے کم پر زکوٰۃ فرع نہیں۔

تیس (۳۰) گائے بھیسوں میں گائے یا بھیس کا ایک بچہ جو پرے ایک سال کا ہو دینا ہو گا۔

اکتیس (۲۱) سے اتنا لیس (۲۰) تک کچھ واجب نہیں۔ چالیس (۴۰) گائے بھیسوں میں ایک ایسا بچہ واجب ہے جو پرے دو سال کا ہو۔

اکتا لیس (۳۱) سے اُن سڑھ (۵۹) تک کچھ واجب نہیں۔ سالہ گائے بھیسوں میں ایک ایک سال کے دو بچے واجب ہیں۔

سالہ سے زائد میں ہر تیس (۳۰) گائے بھیسوں پر ایک سال کا بچہ اور ہر چالیس (۴۰) گائیوں پر دو سال کا بچہ دینا ہو گا۔

مشلاً کسی کے پاس ستر (۶۰) گائے بھیس ہیں تو ستر (۶۰) میں دونصاب ہیں ایک چالیس (۴۰) کا اور دوسری تیس (۳۰) کا اور اگر اسی (۴۰) گائیں ہو جائیں تو چالیس، چالیس کے دونصاب ہو جاتے ہیں لہذا دو دو سال کے دو بچے واجب ہوں گے۔ اور اگر تو سے (۹۰) ہو جائیں تو تیس تیس کے تین نصاب ہو جائیں گے۔ جس میں ہر تیس پر ایک سالہ بچے کی شرح سے زکوٰۃ دینا ہو گی۔

اوٹ کا نصاب اور شرح زکوٰۃ

بُوشَخْصُ پانچ اوْنٹوں کا مالک ہو وہ صاحبِ نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔
اس سے کم اوْنٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔
نصاب اور شرح زکوٰۃ کی تفصیل یہ ہے۔

پانچ اوْنٹوں پر ایک بکری واجب ہے۔ اور فوراً (۹) اوْنٹوں تک ایک ہی بکری
واجب ہو گی۔

دس اوْنٹوں پر دو بکریاں دینا ہوں گی اور چودھہ اوْنٹوں تک یہی شرح زکوٰۃ
رہے گی۔

پندرہ اوْنٹوں پر تین بکریاں، اور ایمیں (۱۹) تک یہی زکوٰۃ واجب رہے گی۔
بیس اوْنٹ ہو جائیں تو چار بکریاں واجب ہوں گی اور چوبیس (۲۳) اوْنٹوں
تک یہی شرح زکوٰۃ رہے گی۔

پچیس (۲۵) اوْنٹ ہو جائیں تو ایک ایسی اونٹی واجب ہو گی جس کا دوسرا
سال شروع ہو چکا ہو۔

چھبیس (۲۶) سے پنچتیس (۲۵) اوْنٹوں تک کچھ واجب نہیں۔
چھتیس (۲۷) اوْنٹ ہو جائیں تو ایک ایسی اونٹی واجب ہو گی جس کا تیسرا سال
شروع ہو چکا ہو۔

سینتیس (۲۸) سے پیتا لیس (۲۵) تک کچھ واجب نہیں۔

چھپیا لیس (۲۹) میں ایسی اونٹی واجب ہے جس کا چوتھا سال شروع ہو
چکا ہو۔

سینت لیس (۲۷) سے سالہ (۶۰) تک کچھ واجب نہیں۔

اکٹھر (۶۱) اونٹوں میں ایک ایسی اذنیاں واجب ہے جن کا پانچواں سال شروع ہو چکا ہو۔

ہاسٹھ (۶۲) سے کچھتر (۵۵) تک کچھ واجب نہیں۔

چھپتھر (۶۳) ہو نے پر ایسی دو اذنیاں واجب ہوں گی جن کا تیسرا سال شروع ہو چکا ہو۔

ستھر (۶۴) سے نو تے (۹۰) تک کچھ واجب نہیں۔

اکٹھو سے را (۶۵) اونٹ ہو جائیں تو دو ایسی اذنیاں واجب ہوں گی جن کا چوتھا سال شروع ہو چکا ہو۔

پھر ایک سو بیس (۱۲۰) اونٹوں تک یہی دو اذنیاں واجب ہوں گی اس کے بعد پھر دھی حساب دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ پانچ پر ایک بکری اور دس پر دو بکریاں۔

ادائے زکوٰۃ کے لیے ایک ضروری وضاحت سونا، چاندی، اور مولثی کی جزو زکوٰۃ واجب ہو وہ سونا، چاندی اور جانور کی شکل میں بھی ادا کی جاسکتی ہے اور نقدی کی شکل میں بھی۔

اسی طرح زیور کی زکوٰۃ میں بھی سونا یا چاندی دینا ضروری نہیں۔ بازار کے لئے نرخ سے اس کی قیمت کا حساب کر کے نقدی بھی دری جاسکتی ہے۔

مصارف زکوٰۃ

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مصروف زکوٰۃ کی اہمیت و عظمت اور ناگہد بیان فرمائی ہے بلکہ صراحت کے ساتھ اس کے مصارف بھی بیان فرمادیئے ہیں۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّيِّدِيْلِ فِي يُضْنَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ هُدِيْلُمْ حَكِيمٌ (توبہ: ۶۰)

”یہ صدقات تو صرف فقروں اور سکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر مامور ہوں اور ان کے لیے ہیں جن کی تابیف قلب مطلوب ہو، اور گردنوں کو چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے کے لیے ہیں، اور خدا کی راہ میں اور مسافر لوازی میں صرف کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ خدا کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جانتے والا اور دانا و بنانا ہے۔“ اس آیت میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) فقراء۔

(۲) مساکین۔

(۳) عاملین زکوٰۃ۔

(۴) مؤلفۃ القلوب۔

(۵) رقاب۔

(۶) فارمین۔

(۷) فی سبیل اللہ۔

(۸) ابن السبیل۔

زکوٰۃ کی رقم ان آنھے مددوں ہی میں صرف کی جا سکتی ہے ان کے سو اگسی اور
مد میں صرف کرنا جائز نہیں۔

”حضرت زیاد بن الحارث الصدائی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتے اور عرض کیا کہ زکوٰۃ کے مال میں سے
مجھے بھی عایت فرمائیے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔

”اللہ نے زکوٰۃ کے معارف کو نہ تو کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے اور نہ
کسی غیر نبی کی، بلکہ خود ہی اس کا نیصلہ فرمادیا ہے اور اس کی آنھے مدیں مقرر
فرمادی ہیں۔ تم اگر ان مددوں میں سے کسی مد میں آتے ہو تو میں تمہیں صفر ر زکوٰۃ
کی مدد سے دے دوں گا“

ان مددوں کی تفصیل یہ ہے:-

(۱) فقیر:- فقیر سے مرا دہر دہ گھروت اور مرد ہے جو اپنی گزر اوقات
کے لیے دوسروں کی مدد اور تعاون کا محتاج ہو، اس میں وہ تمام نا دار، محتاج
معذور داخل ہیں جو مستغل طور پر یا نارضی طور پر مالی تعاون کے مستحق ہوں، معذور

اپاچج، تیہم بچے، ہیوائیں، ضعیف، بے روزگار اور وہ لوگ جو ناگہانی حادثے کا شکار ہو گئے ہوں، زکوٰۃ کی مدد سے ان کی وقتنی اعانت بھی جائز ہے اور ان کے مستقل فدائیں بھی مقرر کیے جاسکتے ہیں۔

(۲) مسکین:- اس سے مراد وہ شریف ہر بارہیں جو بے چارے نہایت بھی خستہ حال اور درمانہ ہوں، لیکن اپنی عزت نفس اور شرم کی وجہ سے کسی کے آگے دست سوال بھی دراز نہ کرنا چاہتے ہوں، اپنی روزی کمائی کے لیے وہ ہاتھ پہر مالتے ہوں لیکن دوڑھوپ کے باوجود وہ انہیں صرورت بھرنہ ملتا ہو، اور لوگوں پر اپنا حال کھلنے نہ دیتے ہوں۔ حدیث میں مسکین کی تشریح یہ ہے:-

أَلَّا يَجِدُ غَنِيًّا يَغْنِيهُ وَلَا يَفْطَنَ لَهُ فَلَيَتَصَدَّقَ وَلَا يَكُونُ
فَدِيْشًا عَالَ النَّاسَ۔ (بخاری وسلم)

”جو نہ اپنی صرورت بھر مال پاتا ہے نہ (اپنی خودداری کی وجہ سے) پہچانا

باتا ہے کہ لوگ اس کی مالی مدد کریں۔ اور نہ کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے“

(۳) عاملین زکوٰۃ:- سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ اور عشر کی تخصیص حفاظت، تقسیم اور اس کے حساب کتاب کے ذمہ دار ہوں وہ صاحبِ نصاب ہوں یا نہ ہوں ہر حال میں ان کی تنخواہیں زکوٰۃ کی مدد سے دی جاسکتی ہیں۔

(۴) مولفۃ القلوب:- اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اسلام اور اسلامی حملکت کے مفاد میں ان کو ہموار کرنا۔ اور مخالفت کے جوش کو شعراً کرنا پیش نظر ہوا یہ کافر بھی ہو سکتے ہیں اور وہ مسلمان بھی جن کا اسلام کو اسلام اور اسلامی حملکت کے مفاد کی ندرت پر امبارہ نہ کے لیے کافی نہ ہو،

یہ لوگ اگر صاحب نصان بھی ہوں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔

حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اسلام کے آغاز میں اس طرح کے لوگوں کی تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ میں سے دیا جانا تھا میکن، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور اب یہ مسجدیشہ

لہ اصل واقعہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد محمد بن حصن اور اترع بن حابس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے ایک زمین آپ سے طلب کی آپ نے ان کو عطیہ کا فرمان لکھ دیا۔ انہوں نے چاہا کہ مزید بخشنگی کے لیے دوسرے اعیان مصحابہ بھی اس فرمان پر گواہیاں ثبت کر دیں۔ چنانچہ گواہیاں بھی ہو گئیں مگر عجب یہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گواہیاں لینے لگئے تو انہوں نے فرمان کو پڑھ کر اسے ان کی آنکھوں کے سامنے چاک کر دیا۔ اور ان سے کہا ہے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی تالیف قلب کے لیے تمہیں دیا کرتے تھے مگر وہ اسلام کی کمزوری کا ذمہ تھا۔ اب اللہ نے اسلام کو تم جیسے لوگوں سے بے نیاز کر دیا ہے اس پر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لے کر آئے اور آپ کو طعنہ بھی دیا کہ ظیفہ آپ ہیں یا عمر ہیں نہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر کوئی نوٹس لیا اور نہ دوسرے مصحابہ میں سے ہی کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اختلاف کیا۔ اس سے حنفیہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جب مسلمان کثیر الشدائد ہو گئے اور ان کو یہ طاقت شامل ہو گئی کہ اپنے بیل بوتے پر کھڑے ہو سکیں تو وہ سبب باقی نہ رہا جس کی وجہ سے ابتداءً مؤلفۃ القلوب کا حصہ رکھا گیا تھا۔ اس لیے باجماع مصحابہ یہ حسنہ سہیشہ کے لیے ساقط ہو گیا۔

کے لیے ختم ہو گئی ہے یہی مسلک امام مالک کا بھی ہے۔ البته بعض دوسرے فقہار کی رائے یہ ہے کہ یہ مدارب بھی باقی ہے اور حسپ ضرورت تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کمال صرف کیا جاسکتا ہے۔ ۱۷

(۵) غلام کو آزاد کرنا ہے۔ یعنی جو غلام اپنے آقا سے یہ معابرہ کر چکا ہو کہ اگر میں تمیں اتنی رقم ادا کر دوں تو تم مجھے آزاد کر دو۔ لیے غلام کو مکاتب کہتے ہیں۔ مکاتب کو آزادی کی قیمت ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ عام فلاہوں کو زکوٰۃ کی رقم سے خرید کر آزاد کرنا چاہر نہیں۔ اگر کسی زمانے میں غلام موجود نہ ہوں تو یہ مسلط ہے گی۔

۱۷ مولانا مودودی صاحب اس موضوع پر اظہار عیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ قیامت تک ساقط ہو جانے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلاشبہ حضرت عمرؓ نے جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح تھا۔ اگر اسلامی حکومت تالیف قلب کے لیے ہل صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہو۔ تو کسی نے اس پر فرض نہیں کیا ہے کہ ضرورتی اس مدد میں کچھ نہ کچھ صرف کر لے لیکن اگر کسی وقت اس کی ضرورت محسوس ہو تو اللہ نے اس کے لیے جو گنجائش رکھی ہے اسے ہاتھ پا ہیے جو حضرت عمرؓ اور صحابہ کرام کا اجماع جس امر پر ہوا الخاتم وہ صرف تھا کہ ان کے زمانے میں جو حالات تھے ان میں تالیف قلب کے لیے کسی کو کچھ دینے کی وجہ حضرات ضرورت محسوس نہ کرنے تھے اسی سے یہ تجویز نکالنے کی کوئی محتول وہ نہیں ہے کہ صحابہؓ کے اجماع نے اس مذکور قیامت تک کے لیے ساقط کر دیا جو قرآن میں یعنی اہم مصالح دینی کے لیے رکھی گئی تھی۔

(انہیم القرآن دوم ص ۲۰۶)

۱۷ یہی مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔

(۴) **قرضدار:** ایسے لوگ جو قرض کے بوجھتے دبے ہوئے ہوں، اور اپنی ضروریات سے بچا کر قرض ادا نہ کر پا رہے ہوں۔ خواہ بے روزگار ہوں یا مکانے والے اور ان کے پاس اتنا نہ ہو کہ اگر اپنا قرض چکائیں تو ان کے پاس بقدرِ نصایب باقی رہے اور اس سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو کسی ناگہانی حادثے کا شکار ہو گئے ہوں، کوئی تاویں یا غیر معمولی جرمانہ دینا پڑا یا کار و بار فیل ہو گی یا کوئی اور حادثہ پیش آیا اور سارا اٹا شہ تباہ ہو گیا۔

(۵) **فی سبیل اللہ:** اس سے مراد راہِ خدا میں چہاد ہے، چہاد کا لفظ قتال کے مقابلہ میں عام ہے اور چہاد فی سبیل اللہ میں وہ ساری کوششیں شامل ہیں جو مجاہدین نظامِ کفر کو مٹا کر نظامِ اسلامی کو قائم کرنے کے لیے کریں، چاہے وہ قلم دزبان سے ہوں، یا تلوار سے یا ہاتھ پاؤں کی محنت اور وڑ دھوپ سے، اس کا دائرة نہ تو اتنا محدود ہے کہ اس سے مراد مخصوص قتال ہو اور نہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں رفاه عام کے سارے کام شامل سمجھ لیے جائیں۔ چہاد فی سبیل اللہ سے بالاتفاق اسلاف نے صرف وہی کوششیں مرادی ہیں جو دین حق کو قائم کرنے اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے اور اسلامی مملکت کی حفاظت اور دفاع کے لیے کی جائیں۔ اس بعد وہ جہد ہیں جو لوگ شرکیب ہوں ان کے مصارف سفر، ان کی سواری، آلات و سلاح اور سروسامان کی فراہمی کے لیے زکوٰۃ کی رقم صرف کی جاسکتی ہے۔

نیز اس سے مراد وہ نازیں حرم ہیں جو حجج کے ارادے سے روانہ ہوں اور راہ میں کسی حادثہ کا شکار ہو کر مانی تعاون کے محتاج ہوں اور وہ طلبہ بھی مراد ہیں جو دین کا حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور حاجت مندرجہ ہوں۔

(۸) ابن بیل یعنی مسافر۔ مسافر خواہ اپنے گھر میں خوش حال اور دولت مند ہو لیکن حالت سفر میں اگر وہ مالی مدد کا محتاج ہے تو زکوٰۃ کی مدد سے اس کی مدد کی جاسکتی ہے۔

مصارف زکوٰۃ کے چند رسائل

(۹) ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ان سارے ہی مصارف میں تقسیم کی جائے جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں بلکہ حسب ضرورت اور موقع جن جن مصارف میں جس قدر مناسب ہو خرچ کیا جاسکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو کسی ایک ہی مصرف میں ساری زکوٰۃ خرچ کی جاسکتی ہے۔

(۱۰) زکوٰۃ کے چوڑ مصارف ہیں یہی مصارف عشر اور صدقہ فطر کے بھی ہیں البتہ غلبی صدقات میں اختیار ہے۔

(۱۱) بنی ہاشم کے لوگ اگر زکوٰۃ کی دصول یا بی او تقسیم و حفاظت کے حام پر مأمور کیے جائیں تو ان کا معاوضہ مدد زکوٰۃ سے دینا جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان یعنی بنی ہاشم کے لوگوں پر زکوٰۃ کا مال حرام کر دیا ہے۔ البتہ بنی ہاشم کے لوگ معاوضہ لیے بغیر اگر یہ خدمت انہم دینا چاہیں تو انہم دے سکتے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صدقات کی تخصیص و تقسیم کا کام تمدید شہ معاوضہ لیے بغیر ہی کیا۔

(۱۲) عام م حلالت میں کسی بستی کی زکوٰۃ اسی بستی کے حاجت مندوں اور ناداروں پر صرف کرنا چاہیے۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ اس بستی کے لوگ محروم رہیں اور زکوٰۃ دوسرے مقامات پر بھیج دی جائے۔ ہاں اگر دوسرے مقامات پر ضرورت

شدید ہو، یا دینی مصلحت کا تقاضا ہو، مثلاً کسی مقام پر زانہ آگیا قحط پڑ گیا با اور کوئی ناگہانی مصیبت آگئی یا کوئی تباہ کن فساد ہو گیا یا دوسرے مقامات پر کچھ دینی ادائی ہیں جو مالی تعادن کے محتاج ہیں یا رشته دار رہتے ہیں تو ان صورتوں میں دوسرے مقامات پر زکوٰۃ بھیجننا ہائز ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ اپنی بستی کے حاجت مند بالکل محروم نہ رہ جائیں۔

وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینا چاہئے نہیں

سات قسم کے افراد کو زکوٰۃ دینا ہائز نہیں، ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہو گی۔

(۱) ماں باپ کو اور پر تک:- یعنی دادا، دادی، نانا، نانی اور بھران کے ماں باپ کو اور پر تک۔

(۲) اولاد کو نیچے تک:- یعنی، بیٹا، بیٹی، ان کی اولاد، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، اور بھران کی اولاد نیچے تک۔

(۳) اپنے شوہر کو۔

(۴) اپنی بیوی کو۔

ان رشته داروں کو زکوٰۃ دینے کے معنی بالآخر یہ ہوتے ہیں کہ گویا زکوٰۃ کے مال سے اپنی ہی ذات کو لفظ پہنچایا۔ لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ اپنے مال سے آدمی ان کا تعادن نہ کرے، بلکہ شریعت کی جانب سے ان کی کفالت اور مالی تعادن ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ان چار رشتتوں کے علاوہ باقی سارے رشته داروں کو نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ دینا ہائز ہے بلکہ سبز ہے اور زیادہ احمد و ثواب کا باعث ہے۔

(۵) صاحب نصاب خوش حال آدمی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اور کسی فقیر اور نادار کو آنذاں دینا جائز ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے۔ ہال اگر وہ مقرض ہو یا کثیر العیال ہو تو حسب ضرورت زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "صدقة مال دار آدمی کے لیے جائز نہیں ہوئی ان پانچ افراد کے۔

(۱) راوی خدا میں چہاد کرنے والا۔

(۲) صدقہ کی تخصیص دغیرہ کا کام کرنے والا۔

(۳) مقرض۔

(۴) یادہ شخص جوانپی دولت سے صدقہ کا مال خرید لے۔

(۵) یادہ شخص جس کا پڑوسی سکین ہو پھر اس سکین کو صدقہ ملے اور وہ سکین اپنے دولتمہد پڑوسی کو بطور بدیہی پیش کر دے۔ ۱۔

(۶) غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔

(۷) بنی هاشم کی اولاد میں نیمن خاندانوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔

حضرت عباس رضی کی اولاد کو۔ *

مارث کی اولاد کو۔ *

ابو طالب کی اولاد کو۔ *

سدادت بنی قاطمہ اور سدادت علوی اس تیسرے خاندان میں داخل ہیں، کیونکہ وہ حضرت علی رضی کی اولاد ہیں۔

البنت آج یہ تحقیق امتہانی دخوار ہے کہ فی الواقع کون بنی هاشم میں سے ہے اس لیے

بیت المال سے توہر حاجت مند کی اعانت ہوئی چاہیئے ہاں جس کو اپنے ہاشمی ہونے کا
یقین ہو تو زکوٰۃ نہ لے۔

”امام مالک فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا۔

”صد قرہ کا مال آں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لیے باز نہیں اس لیے کہ

صد قرہ لوگوں کا میں ہی قوہ ہے ۶۱

زکوٰۃ کے متفق مسائل

(۱) کسی شخص پر آپ کی کچھ رقم قرض ہے، اور اس کے حالات تنگ ہیں
اگر آپ اپنی زکوٰۃ میں وہ رقم اس کو معاف کر دیں تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ لبنت
قرض کے بقدر اس کو زکوٰۃ میں دے دینے کے بعد وہی رقم آپ اپنے قرض میں سے
سے وصول کر لیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔

(۲) گھر میں کام کا حج کرنے والے ذکر پاکر، غادم، ماما، دانی، وغیرہ کو زکوٰۃ
دینا درست ہے البتہ خدمت کے معاوضے اور تخفواہ میں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔

(۳) ناداروں کے کپڑے بنانے، سردی کے موسم میں کبل لمحاف نواریتے
اور شادی وغیرہ کی ضروریات ہتھیا کر دینے میں زکوٰۃ کی رقم صرف کی جاسکتی ہے۔

(۴) جس خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہے اگر وہ نادار اور حاجت مند
ہو تو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتی ہے اور وہ بچہ بھی جوان ہونے کے بعد دودھ پلانے
والی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔

(۵) ایک شخص کو مستحق سمجھ کر آپ نے زکوٰۃ دے دی پھر بعد میں معلوم ہوا

کہ یہ تو صاحبِ نصاب ہے، یا ہاشمی سید ہے۔ یا تاریکی میں دی اور بعد میں معلوم ہوا کہ جس کو زکوٰۃ دی ہے وہ اپنی والدہ یا اپنی لڑکی تھی، یا اور کوئی ایسا رشتہ دار تھا، جس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، تو ان تمام صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو گئی دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ لینے والے کو معلوم ہو کر میں ستحق نہیں ہوں تو نہ لے اور اگر بعد میں معلوم ہو تو واپس کر دے۔

(۷) آپ نے کسی کو حاجت مند کو زکوٰۃ دے دی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ دشمن غیر مسلم تھا، تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی دوبارہ ادا کرنا ہوگی۔

(۸) لوٹ رکھے، اموال تجارت جو چیزیں بھی سونے یا چاندی کے نصاب کے بقدر ہو جائے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ مثلاً کسی کے پاس کچھ لوٹ ہیں۔ اور کچھ مختلف سکے ہیں اور سب ملائے۔ ۱۰۰ م (چار سو) بنتے ہیں یا اتنی ہی رقم کا مال تجارت ہے تو اگرچہ سونے کا نصاب تو پورا نہیں ہوتا لیکن چاندی کا نصاب پورا ہو جانا ہے، تو یہ شخص صاحبِ نصاب ہو گا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اس لیے کہ ۱۰۰ م (چار سو روپے) کی رقم ساڑھے چھپتیں (۱۰۶) تو لے چاندی کی قیمت سے تباہہ ہے۔

(۹) کسی شخص کو عطیے میں یا انعام میں کوئی مال ملا اگر وہ بقدر نصاب ہے تو سال گزرنے پر اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔

(۱۰) بنیکوں میں رکھی ہوئی امانتوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔

(۱۱) ایک شخص سال بھر مختلف طریقوں سے صدقہ اور خیرات کرتا رہا لیکن اس نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی سال گزرنے پر وہ اس خیرات کیے ہوئے مال کو زکوٰۃ میں مصوب نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ زکوٰۃ فکالتے کے لیے زکوٰۃ کی

نیت کرنا شرط ہے۔

(۱۱) زکوٰۃ کی رقم منی آرڈر کے ذریعے بھی جا سکتی ہے۔ اور زکوٰۃ کی مدد سے ہی منی آرڈر کی فیس ادا کرنا بھی جائز ہے۔

عُشْرَةِ بَيْان

عُشْرَه کے معنی

عُشْرَه کے لغوی معنی ہیں دسوال حصہ لیکن اصطلاح میں عُشْرَه سے مراد پیداوار کی زکوٰۃ ہے جو بعض زینتوں میں پیداوار کا دسوال حصہ ہوتی ہے اور بعض زینتوں میں پیداوار کا بیسوال حصہ۔

عُشْرَه کا شرعی حکم

قرآن پاک کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُقُوا مِنْ طِبَابٍ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا مَا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَسْرِارِ۔ (البقرہ: ۲۴۴)

”ایمان والواراء خدا میں بہتر حصہ خرچ کرو۔ اپنی گماں میں سے اور اس میں جو سبم نے تمہارے لیے زمین سے مکالا ہے۔“
دوسرے مقام پر ارشاد ہے۔

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادٍ۔ (الانعام: ۱۷۱)

”ادرالله کا حق ادا کر د، جس دن تم ان کی فصل کاٹو۔“
تفسیر کا اس پرتفاق ہے کہ اس سے مراد پیداوار کی زکوٰۃ یعنی عُشْر ہے۔

قرآن پاک کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیداوار میں عشر فرض ہے اور حدیث رسول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے۔

"بوزین بارش یا پھٹے کے پانی کے سیراب ہوتی ہے یا جو خود بخود دردیا

کر رہی ہونے کی وجہ سے) سیراب ہواں میں عشر داجب ہے اور جو کنیں

(وغیرہ) سے پانی کھینچ کر سیراب کی جاتی ہواں میں نصف عشر داجب ہے"

عشر کی رشح

جن کھیت یا باغ کو بارش کا پانی، پھٹے، دریا، ندی اور قدرتی نالوں کا پانی سیراب کرتا ہو یا دریا کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر نہم اور سیراب رہتی ہو اس میں پیداوار کا دسوال حصہ عشر میں نکالتا داجب ہے اور جو کھیت یا باغ آب پاشی کے صنوعی ذرائع مثلاً ٹیوب دل، رہٹ وغیرہ سے سیراب کیے جاتے ہوں انہیں پیداوار کا بیسوال حصہ لینی نصف عشر نکالنا داجب ہوتا ہے۔

عشر خدا کا حق ہے اور یہ کل پیداوار کا داقعی دسوال حصہ یا بیسوال حصہ ہوتا ہے، لہذا غلمہ یا کھل جب قابل استعمال ہو جائیں تو پہلے عشر نکال لیا جائے پھر وہ فلمہ یا کھل استعمال کیے جائیں۔ عشر نکال لے بغیر استعمال کرنا حرام نہیں ورنہ داقعی دسوال یا بیسوال حصہ خدا کی راہ میں نہ جائے گا۔

کن چیزوں میں عشر داجب ہے

زمین کی ہر پیداوار میں عشر داجب ہے۔ اس پیداوار میں بھی جو ذخیرہ کر کے کھی سکتی ہے مثلاً غلمہ، سرسوں، تلی، مونگ پیلی، گن، کھجور، خشک یہوے وغیرہ اور اس پیداوار میں بھی جو ذخیرہ کر کے جا سکتے، مثلاً سبزی، ترکاری، لکڑی کھیرا

گا بجر، مولی، شلجم، تربوز، خرچوڑہ، لیمو، سنگتھ، امروہ، مالٹا، آس، جامن وغیرہ۔
شہد پر بھی عشرہ اجنبی ہے، علماء الحدیث بھی شہد میں عُشر کے قائل ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اذ والعُتَّر فِي العُسْل۔

”شہد میں عُشر ادا کرو۔“

پیر شہد کی نثر دانخ کرتے ہوئے فرمایا۔

فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَذْقَانٍ سِنَاقٌ

”ہر دی شک شہد میں ایک شک عُشرہ اجنبی ہے۔“

اور حضرت ابو سیادہ رضی کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا،
پار رسول اللہ امیرے پاس شہد کی مکھیاں رپلی ہوئی، ہیں تو آپ نے حکم دیا پھر اس کا
عُشرہ ادا کرو۔

لہ بعین فقہا کے نزدیک سبزی، ترکاری، پھول بھی وغیرہ جو ذخیرہ کر کے نہیں رکھے جاتے ان
پر عُشرہ اجنبی نہیں ہے، البتہ کاشنڈ کار اگر انہیں مارکٹ میں فروخت کرتا ہے تو اس پر تجارتی زکوہ
واجنب ہوگی جبکہ وہ بقدر نصاب ہو یعنی کاروبار کا تجارتی سرمایہ سال کے آغاز اور انتظام پر
دو سو درہم یا اس سے زائد ہو۔

لہ بیہقی۔

لہ جامع ترددی۔

لہ امام مالک اور حضرت سفیانؓ کے نزدیک شہد میں عُشر نہیں ہے، امام شافعیؓ کا مشہور فعل
(بائی بر مٹا)

انہی روایات کی بناء پر حنفیہ اہل حدیث، احمد بن حنبل، عمر بن عبد العزیز وغیرہ شہد کو محل عشر مانتے ہیں اور امام شافعی رحمہ کا ایک قول یہی اس کے حق میں ہے، صحابہ میں سے ابن عمر، اور ابن عباس بھی اسی کے قائل تھے۔

شہر کے مسان

(۱) عشر کل پیداوار کا وصول کیا جائے گا اور عشر اوکرنے کے بعد باقی پیداوار سے ہل بیل اور سنچائی، نگرانی وغیرہ کے مصارف ادا کیے جائیں گے مثلاً کسی کھیت میں ہل بیل

(بقبیہ حاشیہ ص ۱۲۴) بھی یہی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہد کی زکوٰۃ کے معلمه میں کوئی حدیث صحیح نہ ہے۔

بیہقی میں ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شہد کا عذر لایا اور درخواست کی کہ سبلہ جنگل کی حفاظت کا انتظام فراز دیجئے۔ آپ نے اس جنگل کی حفاظت کا انتظام فرمادیا۔ پھر حب عمر رضا کا دور خلافت آیا تو سپیان بن دربب نے عمر رضا سے اس بارے میں تحقیق چاہی۔ آپ نے لکھ دیجا کہ وہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ تمہیں بھی دیں تو لے لو اور سبلہ جنگل کی حفاظت کا بندوبست کر دو۔ ورنہ وہ تو کمی رسم سے پیدا ہوئے دالی چیز را آسمانی بارش کے ماندہ ہے جو چاہے اسے استعمال کرے۔

مودودی صاحب کی رائے یہ ہے کہ شہد کی پیداوار پر تو زکوٰۃ نہ ہو البتہ اس کی تجارت پر فرمی زکوٰۃ ماند جو دوسرے ابواللہ تجارت پر عائد ہوتی ہے۔

کو نٹل فلم پیدا ہوا ہے تو پہلے دو کو نٹل فلم عُشر میں ادا کیا جاتے پھر باقی ماندہ اٹھارہ کو نٹل فلم سے کمیتی بارہی کے دوسرا سے صارف ادا کیے جائیں گے۔

(۴) پیداوار جس وقت سے قابل استعمال ہو جائے اسی وقت اس پر عُشر دا جب ہو جاتا ہے، مثلاً چنا، مکنی اور آم وغیرہ کپنے سے پہلے ہی استعمال ہونے لگتے ہیں لہذا اسی وقت جتنی پیداوار ہے اس کا عُشر نکالنا ہو گا۔ عُشر نکالنے سے پہلے اس کو استعمال میں لانا درست نہیں۔

(۵) اگر کوئی شخص اپنی کمیتی یا باع جس میں چل آچکے ہیں فروخت کر دالے تو کپنے سے پہلے فروخت کرنے کی صورت میں عُشر فریدار پر دا جب ہو گا اور اگر کپنے کے بعد فروخت کیا ہے تو عُشر بچنے والے کے ذمے ہو گا۔

(۶) زمین میں بخشش کاشت کر رہا ہے عُشر اسی پر دا جب ہو گا خواہ وہ کرایہ پر زمین لے کر کاشت کر رہا ہے اسی پر دا جب ہو گا خواہ وہ کرایہ پر۔

(۷) اگر دو فراؤ شرکت میں کمیتی بارہی کر رہے ہوں تو عُشر دلوں شرکاء پر ہو گا۔ خواہ یعنی ایک ہی شرکیک کا ہو۔

(۸) عُشر فرض ہونے کے لیے کسی نصاب کی شرط نہیں ہے لہ پیداوار

لہ یہ امام امنظم کا سلک ہے صاحبین اور امام شافعیؒ کے تزدیک پانچ وسق سے کم ہی عُشر فرض نہیں ہوتا۔ اہل حدیث کے تزدیک یہی پانچ وسق سے کم ہی عُشر فرض نہیں ہے، اور عُشر کی فضیلت کے لیے یہی ایک شرط ہے کہ پیداوار کم از کم پانچ وسق ہو۔ ان کی بیانی میں اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔

لیں فی ما دون خمسة اد سن صدقة۔ (بخاری)

”پانچ وسق سے کم پیداوار میں صدقہ (عُشر) دا جب نہیں۔“

تحوڑی ہو یا کم عُشر بھر حال فرض ہو گا۔ البتہ ایک صارع یعنی دو ڈھانی کلو سے کم پیداوار قابل لحاظ نہیں ہے۔

(۷) عُشر میں سال گز نے کی قید نہیں ہے بلکہ جن زمینوں میں سال کے اندر دوبار کاشت کی جاتی ہے ان میں فصل پہلے عُشر واجب ہے۔

(۸) نابالغ بچے اور کم عقل دیوالے کی پیداوار میں بھی عُشر واجب ہے۔

(۹) وقف کی زمین اگر کوئی کاشت کرے تو اس کاشت کا در پر بھی عُشر واجب ہے۔

(۱۰) جو زمین بارانی ہو اس میں اگر مصنوعی ذرائع سے بھی آب پاشی کی جائے تو عُشر نکالنے میں اس کا الحافظ ہو گا کہ وہ زمین قدر تی ذرائع سے زیادہ سیراب ہوئی ہے یا مصنوعی ذرائع سے۔

(۱۱) عُشر ادا کرنے میں یہ اختیار ہے کہ چاہے وہی پیداوار عُشر میں ادا کرے یا اس کی قیمت ادا کرے۔

(۱۲) ہندوستان میں جو زمینیں مسلمانوں کی ملکیت میں ہیں ان کو عُشری کھانا چاہیئے۔ اور مسلمانوں کو عُشر ادا کرنا چاہیئے۔ لہ

(۱۳) عُشری کی زمین کی مال گزاری دینے سے عُشر ساقط نہیں ہوتا ہے

(۱۴) عُشر کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔

لہ ہندوستان میں جو اراضی ملکوں مسلمین ہیں وہ عُشری میں، کیونکہ اصل وظیفہ مسلمان کی زمین کا عُشر ہے لہ بحال اشتباہ احوط عُشر نکالنے ہے (فتاویٰ دارالعلوم جلد سوم ص ۶۷)

لہ فتاویٰ دارالعلوم سوم ص ۶۷۔

رکاز کے مسائل

- رکاز سے مراد و فیض اور معدنیات ہیں۔ زمین میں پوشیدہ ہونے کی وجہ سے ان کو رکاز کہتے ہیں۔
- (۱) برآمد شدہ فیضے میں پانچواں حصہ بیت المال کا ہے حدیث میں ہے فی الرکاز الخمس بعضی فیضے میں پانچواں حصہ داجب ہے۔
- (۲) کالوں سے نکلنے والی چیزوں میں خواہ وہ دھاتیں ہوں جیسے لوما، چاندی، سونا، رانچا وغیرہ یا جامد چیزوں ہوں جیسے گندھک وغیرہ ان میں پانچواں حصہ بیت المال کا ہے۔ اور چار حصے کا نولے کے۔
- (۳) زمین سے نکلنے والی ان چیزوں میں بیت المال کا کوئی حصہ نہیں جو آگ میں ڈالنے سے نرم نہ ہوتی ہوں، جیسے جواہرات وغیرہ، اور قیق چیزوں میں بھی بیت المال کا کچھ داجب نہیں جیسے تبل اور پپروں وغیرہ ۔۔۔

لئے امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ معدنیات خواہ وہ دھاتیں ہوں یا جامد اگر دھک وغیرہ یا پانچات اپڑوں، پارہ وغیرہ سب پر ڈھائی فیصدی رکودہ داجب ہوگی اگر ان کی قیمت بعد رنصاب ہو، اور یہ پر ایک بیٹ ملکیت میں ہوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں اس مسلک پر عمل بھی تھا۔
 (المغني جلد دوم ص ۵۵)

صدقة فطر کا بیان

صدقہ فطر کے معنی

فطر کے لغوی معنی ہیں روزہ کھولنا۔ اور صدقہ فطر کے معنی ہیں روزہ کھوئے کا صدقہ۔ اصطلاح میں صدقہ فطر سے مراد وہ واجب صدقہ ہے جو رمضان ختم ہونے پر اور روزہ کھلنے پر دیا جاتا ہے۔

جس سال مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہونے اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم بھی دیا۔ صدقہ فطر کی حکمت اور فوائد۔

رمضان المبارک میں روزے رکھنے والے اپنی حد تک پہنچ کر تے ہیں کہ رمضان کا احترام کریں اور ان حدود اور آداب و شرائط کا پورا پورا الحاظ رکھیں، جن کے اہتمام کی شریعت نے تاکید کی ہے، تاہم انسان سے بہت سی شعوری اور غیر شعوری کو تاہمیاں ہو جاتی ہیں۔ صدقہ فطر کی ایک حکمت یہ ہے کہ آدمی خدا کی راہ میں دل کی آنادگی سے اپنی کمائی خرچ کرے تاکہ ان کو تاہمیوں کی تلاشی ہو سکے اور خدا کے حضور روزہ شرف قبول پاسکے۔ اس کے علاوہ عین کے موقع پر صدقہ فطر دینے کی ایک حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ سوراںہ کے نادار اور غریب افراد بھی اطمینان

اور کشادگی کے ساتھ اپنے کھانے پینے اور سہنے اور ٹھنڈنے کی ضرورتیں پوری کر سکیں اور دوسرے سماں کے ساتھ عیدگاہ میں حاضر ہو سکیں، تاکہ عیدگاہ کا اجتماع بھی عظیم الشان ہو اور راستوں میں سماں کی کثرت سے اسلام کی شان و شوکت کا بھی اظہار ہو سکے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ”بَنِي إِسْرَائِيلَ يَدُمُ لِيَ مَدْقَةٌ فِطْرَاسٌ يَلْيَنْ قَرْدٌ فَرَمَيْلَهُ كَهْ دَهْ رَوْزَهْ دَارَ دَلَ كَوبَهُ ہُودَهْ كَامَوْنَ اُورَ بَهْ شَرْمَيْ كَلْغَزْخُونَ سَےْ پَاكَ كَرْ دَهْ سَےْ اُورَ نَادَارَ حَاجَتَ مَنْدَوْنَ کَهْ كَهَانَےْ پَلْيَنْ كَاظَمَ ہُوْ جَانَےْ لِپَسْ جَوْخَضْ عَيْدَ كَيْ نَماَزَ سَےْ پَهْلَےْ صَدَقَهْ فَطَرَادَ كَرْ دَهْ گَاتَوْدَهْ صَدَقَهْ شَرْفَ قَبُولَ پَلَكَ گَاهَ اُورَ بَحَرَ نَماَزَ کَهْ بَعْدَ اَدَارَ گَاهَ گَاتَوْدَهْ عَامِ صَدَقَهْ وَخِيرَاتَ کَيْ طَرَحَ اِيكَ صَدَقَهْ ہُوْ گَاهَ“ لَهُ

شَاهَ دَلِيَ اللَّهَ فَرَمَاتَهُ ہیں ”عِيدَ كَادَنَ، خَوْشَیَ كَادَنَ ہےْ، اُور اس دَنِ اسلامِ کَيْ شَانَ وَشُوكَتَ كَا اظْهَارِ سَمَانُوْنَ کَيْ كَثَرَتَ اور عَظِيمَ اجْتمَاعَتَ کَهْ ذَرِيعَهُ كَيْا جَانَاً ہےْ اور صَدَقَهْ فَطَرَ سَےْ اس مقصود کی تکمیل ہوتی ہے اس کے ملا دهْ صَدَقَهْ فَطَرِ رَوزَهْ سَےْ کی تکمیل کا

بھی سبب ہے“ ۲۰

صَدَقَهْ فَطَرَ کا حُکْمٌ

صَدَقَهْ فَطَرَ ہر لَیْسَ خَوْشَ مَالِ مُسْلَمٍ مَرْدًا وَعَورَتَ پَرْ بَالِغٍ، نَاهَانِغَ پَرْ وَاجِبٌ ہے۔ جِبْ

لَهُ الْوَادَوْدُ، اِبْنُ مَاجَهٍ۔

لَهُ جَعْلَةُ اللَّهِ الْبَالِغَهُ۔

لَهُ اہلِ حدیث کے تزدیک صَدَقَهْ فَطَرَ کَوَافَہ کی طرح فرض ہے۔ اور ہر امیر اغْرِب (مرد اعورت) آزاد، فلام اور چپوٹے ٹڑے پر فرض ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ تبی مصلی اللہ علیہ وسلم نے سکتے کے (باتیں بر مبتدا)

کے پاس اس کی اصلی ضرورت توں سے زیادہ اُتنی قیمت کا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، خواہ اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو یا نہیں۔ مثلاً کسی کے پاس اپنی رہائش گاہ کے علاوہ بھی مکان ہے جو غالباً پڑا ہے یا کرایہ پر اٹھا ہوا ہے، اگر اس مکان کی قیمت نصاب کے بقدر ہو تو اس مالک پر صدقہ فطر واجب ہے اگرچہ اس مکان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے ہاں اگر اسی مکان کے کرنے پر اس کا گزارہ ہے تو پھر یہ مکان اصلی ضرورت میں شمار نہ ہو گا اور اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہو گا۔ یا کسی کے گھر میں استعمال ہونے والے سامان کے علاوہ کچھ سامان ہے، مثلاً تابنے کے برتن، یا قیمتی فرش پر دغیرہ جس کی مالیت نصاب کے بقدر ہاں سے زائد ہے تو صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اگرچہ اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ردیقیہ حاشیہ (۱۷۲) میں کوچوں میں اپنا آدنی بھیج کر یہ اعلان کرایا تھا۔

”اگاہ رہو احمد قدر فطر ہر سماں مرد، خورت، آزاد، غلام اور جپوٹے بڑے پر واجب ہے“ (ترمذی)
نیز ابن عمر مارد دایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض فرمایا ہے ایک صاع کھور، یا ایک صاع بجو ہر غلام، آزاد، مرد، خورت، چھوٹے بڑے سماں پر اور یہ حکم فرمایا ہے کہ عبیدگاہ جلنے سے پہلے ادا کریں ۔۔ (بخاری)

لہ اہل حدیث کے نزدیک صدقہ فطر کے لیے نصاب کے بقدر مال ہونا ضروری نہیں۔ جس شخص کے پاس بھی ایک روز کی خوارک سے زائد غلم اور کھانے کا سامان ہو اس پر صدقہ فطر فرض ہے۔ (اسلامی تعلیم نجم ۱۵۳)

”آگاہ رہو اصدقہ فطرہ ہر سالان پر واجب ہے وہ مرد ہو یا عورت آگاہ رہو یا نہ لام“

چھوٹا ہو یا بڑا ۷۴ لہ

صدقہ فطرہ واجب ہونے کے لیے اور بیان کیے ہوئے نصایب کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے۔ نہ آزادی شرط ہے نہ بلوغ اور نہ ہوش و خرد۔ غلام پر بھی واجب ہے لیکن اس کا آقا ادا کرے گا۔ نابالغ اور دیوانے پر بھی واجب ہے لیکن اس کا باپ اور والی ادا کرے گا۔ صدقہ فطرہ واجب ہونے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مال پر سال گزر جائے بلکہ طلوع فجر سے چند لمحہ پہلے بھی اگر کسی کو خدا مال و دولت سے نوازدے تو اس پر صدقہ فطرہ واجب ہو جائے گا۔

صدقہ فطرہ واجب ہونے کا وقت

صدقہ فطرہ واجب ہونے کا وقت عید کے دن طلوع فجر ہے۔ لہذا جو شخص طلوع فجر سے پہلے فوت ہو جائے یادولت میں محرم ہو کر نادار ہو جائے تو اس پر واجب نہ ہو گا۔ اور اس بچے پر بھی واجب نہ ہو گا۔ جو طلوع فجر کے بعد پیدا ہو، ہاں جو بھی طلوع فجر سے پہلے عید کی شب میں پیدا ہو، اس پر صدقہ فطرہ واجب ہے اسی طرح جو شخص طلوع فجر سے پہلے اسلام کی سعادت پالے یا دولت مند ہو جائے تو اس پر صدقہ فطرہ واجب ہے۔

لہ ترمذی۔

لہ اہل حدیث کے نزدیک صدقہ فطرہ واجب ہونے کا وقت رمضان کے آخری دن غروب آفتاب سے شروع ہو کر عید کی نماز کے پہلے تک رہتا ہے اس کو فطرہ کا صدقہ کہتے ہیں۔ لہذا رمضان کا آخری روزہ انقطاع کرنے کے بعد سے ہی یہ واجب ہو ظاہر ہے اگرچہ اس کی ادائیگی بھی بھی درست ہے۔

صدقہ فطرادا کرنے کا وقت

صدقہ فطرادا جب ہونے کا وقت تو عید کے دن ملکی غیرہ ہے لیکن اس کے دو بھی
کی حکمت اور مقصد کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عید سے چند یوم پہلے ہی ضرورت مندوں کو پہنچا دیا
جائے تاکہ غریب اور نادار لوگ بھی اپنے کمائے پہنچے اور پہنچنے کی ضرورت کا سامان
المیمنان کے ساتھ فراہم کر سکے سب کے ساتھ عید گاہ جا سکیں۔ بخاری میں ہے کہ صحابہ
کرام عَزِیْد الفطر سے ایک دو دن پہلے ہی صدقہ فطرادا کر دیا کرتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے
دو چار یوم پہلے ادا نہ کر سکے تو عید کی نماز سے پہلے تو بہر حال ادا کر دینا چاہیئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا در شاد ہے۔

ذَمِنُ أَذَّاهَا تَبَيَّنَ الصَّلَاةُ فِيَّ كَوَافِرُ مَقْبُولَةٍ وَمَنْ أَذَّاهَا
بَعْدَ الصَّلَاةِ فِيَّ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَاقَاتِ۔

”جس شخص نے صدقہ فطر نماز سے پہلے ادا کر دیا تو وہ عید کے حضور مقبول صدقہ
ہے اور جو شخص نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقہ دخیرات کی طرح ایک صدقہ
ہے“

عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ فطرادا کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ
سے یا کامی کی بنا پر عید سے پہلے ادا نہ کر سکے تو وہ عید کے بعد ادا کر دے یہ سمجھئے کہ اب
معاف ہو گیا ہے۔

کس کی طرف سے صدقہ فطرادا کرنا واجب ہے

(۱) خوش حال مرد پر اپنے علاوہ نایا لغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے۔
اگر نایا لغ اولاد دولت مند ہے تو اس کے مال میں سے ادا کرے ورنہ اپنے پاس سے

ادا کرے۔

- (۱) بالغ اولاد کی طرف سے اس صورت میں واجب ہے جب وہ نادار اور غریب ہوا مال دار ہونے کی صورت میں واجب نہیں۔
- (۲) جو اولاد ہوش دخڑے مخدوم ہو، ان کے پاس مال ہو یا نہ ہو ہر صورت میں ان کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے خواہ وہ بالغ ہوں۔
- (۳) ان خادموں کی طرف سے بھی واجب ہے جو اس کی سرپرستی میں رہتے ہوں اور جن کے کھانے کپڑے کا کیفیل ہو۔
- (۴) بیوی کی طرف سے داجب تو نہیں ہے، لیکن اگر بطورِ احسان ادا کر دیا جائے تو جائز ہے، بیوی کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔
- (۵) باپ اگر قوت ہو جائے تو دادا کے لیے وہی سارے احکام ہیں جو باپ کئے لیے بیان ہوئے۔
- (۶) خاتون اگر خوشحال ہو تو اس پر صرف اپنی طرف سے صدقہ فطرہ ادا کرنا واجب ہے اپنے علاوہ کسی طرف سے داجب نہیں نہ اولاد کی طرف سے نہ مان باپ کی طرف سے اور نہ شوہر کی طرف سے۔

صدقہ فطر کی مقدار

صدقہ فطر کی مقدار اسی روپے والے بیر کے حساب سے ایک سیرین چٹانک گیہوں یا گیہوں کا آٹا ہے اور یہ وزن ایک کلو ایک سو دس گرام (۱۰۱۰) بتا ہے۔

لئے علم الغوث جلد چہارم ص ۲۷۔ لیکن مولانا اشرون علی صاحبؒ کے تذکرہ کی ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک سیر سارہ ہے بارہ چٹانک ہے ایک لکھ احتیاطاً دیہر پا اور زائد دینا بہتر ہے۔ (بہشتی زیور بیر احتصہ ص ۲۷)۔

اور اگر بجو کا آٹا یا چبوہار لئے یا منشی دینا ہو تو گیہوں کے وزن سے دو گن یعنی
دو سیر چھپ چٹانک دینا ہو گا۔

صدقة فطر کے متعلق مسائل

(۱) جس شخص نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں صدقہ فطر اس پر بھی داجب ہے، صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔

(۲) صدقہ فطر میں غلہ بھی دے سکتے ہیں اور غلہ کی قیمت بھی، مناسب یہ ہے کہ غلہ یا قیمت دینے میں فقرار اور مالکین کا فائدہ پیش نظر ہے۔

(۳) اگر گیہوں یا بجو کے عادہ کوئی دوسرا غلہ بجوار، باجرا، چنا، مکی وغیرہ دینے کا پروگرام ہو تو وہ گیہوں یا بجو کی قیمت کے بقدر ہونا چاہیے۔

(۴) ایک شخص کا صدقہ فطر ایک فقیر کو دینا بھی جائز ہے اور چند فقیروں کو دینا بھی جائز ہے، اسی طرح چند افراد کا صدقہ فطر ایک فقیر کو بھی دینا درست ہے اور چند فقیروں کو بھی۔

(۵) اگر کسی کے پاس کچھ گیہوں ہوں اور کچھ بجو تزوہ حساب لگا کر صدقہ فطر کی مقدار پوری کر کے ادا کرے۔

(۶) اگر ضرورت ہو تو صدقہ فطر کی رقم دوسرے مقامات پر بھی بھی جاسکتی ہے، لیکن کسی شدید اور معقول ضرورت کے بغیر ایسا نہ کرنا چاہیے۔

(۷) صدقہ فطر کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔

128

Blank

36



روز کے کا بیان

رمضان کا روزہ اسلام کا تیسرا ہم مرکن ہے، قرآن میں نہ صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کے روزے رکھو بلکہ اس کے آداب و احکام بھی بیان گئے ہیں۔ اور رمضان کی عظمت و برکت کے درجہ پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ پہلے ہم اس مہینے کے فضائل و برکات بیان کرتے ہیں جس کے روزے شریعت نے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں۔

رمضان المبارک کے فضائل

رمضان کی عظمت و فضیلت قرآن میں

قرآن پاک میں رمضان کی عظمت و فضیلت کے عین درجہ بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) نَزَلَ قُرْآنٌ يَعْنِي أَسَى مُهِينَ مِنْ قُرْآنٍ پَاكٍ نَازِلٍ هُوَ.

(۲) لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَعْنِي أَسَى مُهِينَ مِنْ أَيْكُلْ رَاتٍ أَيْمَ مَبَارِكٍ ہے کہ وہ خبر و برکت میں ایک ہزار ہمینوں سے زیادہ بہتر ہے۔

(۳) فَرَضَتْ هُنَوْمٌ يَعْنِي أَسَى مُهِينَ کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔

اہمی فضائل کی بنابری میں اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ راللہ کا ہدیۃ کہہ کر خدا کی

طرف نسبت کا شرف بخشش ہے، اور اس کو تمام مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، ذیل میں ان وجوہ کی مختصر و صافت کی جاتی ہے۔

فضیلتِ رمضان کے وجوہ

(۱) نزولِ قرآن۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے۔

**شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلْعَالَمَاتِ
وَبُشِّرَتِ الْمُهَدَّدَاتِ إِنَّ الْفُرْقَانَ طَ (البقرة: ۱۸۵)**

”رمضان کا مہینہ وہ ہمینہ ہے جس میں القرآن نازل کیا گیا۔ جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اجڑاہ حق دکھانے والی واضح تعلیمات پرستی ہے اور حق و باطل کا فرق کھوں کر کر کر دینے والی کتاب ہے۔“

رمضان کی عظمت و فضیلت کے لیے صرف یہ بات کیا کہ اس میں خدا نے ہدایت کی آخری کتاب نازل فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانیت اگر سرچشمہ ہدایت سے محروم ہوتی تو یہ پورا کارخانہ ہستی سورج کی تاب ناکی اور چاند تاروں کی دلاؤیز مرثی کے باوجود تیرہ رتاء ہوتا، اور ساری صناعی اور حسن و حمال کے باوجود کائنات نہ صرف بے رونق بلکہ ناممکن اور بے مقصد ہوتی، اور کفر و المجاد اور شرک و معصیت میں سمجھنے کے ہوتے انسان جنگل کے درندوں سے زیادہ بدتر ہوتے۔ قرآن اس سر زمین پر ہدایت اور روشنی کا ایک ہی سرچشمہ ہے جو اس سے محمود ہے وہ یقیناً ہدایت اور خیر سے محروم ہے۔

(۲) لیلۃ القدر۔ قرآن پاک میں صراحت ہے کہ قرآنِ رمضان میں نازل کیا گیا، اور یہ کہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِذَا أَذْنَكَ مَا يَلِهَ الْقَدْرُ
 لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفٍ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا
 يَوْمَ ذِي الْحِجَّةِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ لَهُ سَلَامٌ قَرْهَى حَتَّى مَطْلَعَ الْفَجْرِ (القدر: ۱-۴)
 ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں نادل (گرنا شروع) کیا، اور تم کیا جاؤ کہ شب
 کیا ہے؟ شب قدر بہزار ہمیں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الائیں اپنے رب
 کے حکم سے ہر ایک کام کے انتظام کے لیے اُترتے ہیں۔ سلامتی ہی سلامتی! یہاں تک
 کہ صحیح ہو جائے ॥

اس کے لازمی صحنی یہ ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان ہی کی کوئی رات ہے، اور حدیث میں
 وضاحت ہے۔

”اس میں ایک رات ہے جو بہزار ہمیں سے زیادہ بہتر ہے“ ॥

اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری دس راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو ۷۹
 (۲۳) فرضیت صوم اور خدا نے روزے جبیسی اہم عبادت کے لیے اس مہینے کو
 مقرر فرمایا اور اس پرے مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے قرآن میں ہے۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلَيَصُمِّمْهُ ۚ - (المیرہ: ۱۸۵)

”پس جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس پرے

ہمینے کے روزے رکھے ۔^۲

رمضان کی عظمت و فضیلت حدیث میں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی عظمت و برکت بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

* «جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات بگڑ دیئے جاتے ہیں اور دوسرخ کے سارے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ اور جنت کے تمام دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا اور خدا کا منادی پکارتا ہے کہ اے بھلائی اور خیر کے طالب آگے بڑھ! اور اے برائی اور بد عملی کے شایق رُک! اور خدا کی طرف سے بہت سے نافرمان بندوں کو دوسرخ سے رہائی بخشی جاتی ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔»^۱

* اور یہ وہ چیز ہے جس میں ہمون کی روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔^۲
* رمضان تمام ہمینوں کا سردار ہے۔^۳

* اس ہمینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آخری جہنم سے رہائی اور بخات ہے۔^۴

۱۔ مسلم، جامع ترمذی، ابن ماجہ۔

۲۔ مشکوہ۔

۳۔ علم الفقہ جلد ۲، بحوالہ مرقاۃ المذاہج۔

۴۔ مشکوہ۔

اس مہینے میں جو شخص خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنی خوشی سے کوئی
لطف نیکی کرے گا وہ دوسرا مہینوں کے فرض کے برابر اجر و ثواب پائے گا اور
جو کوئی ایک فرض ادا کرے گا وہ دوسرا مہینوں کے نتھ فرضوں کے برابر اجر و
ثواب کا مستحق ہو گا۔ ۱۵

رمضان کی عظمت و اہمیت تاریخ میں

تاریخ کی شہادت ہے کہ حق دیا طل کی پہلی فیصلہ کن جنگ (غزوہ بدرب) اسی مہینے
میں ہوتی اور حق کو باطل سے ممتاز کر دینے والا مبارک دن جس کو قرآن نے "یوم الفرقان"
کہا ہے رمضان ہی کا ایک مبارک دن تھا، اسی دن حق کو پہلی فتح حاصل ہوتی اور باطل
سرنگوں ہوا۔ پھر تاریخ کی شہادت یہ ہی ہے کہ رمضان ہی میں مکہ بھی فتح ہوا۔ ان معلومات
کو مرتب کر کے غور کیجئے۔

★
حق کی بذایت اسی مہینے میں نازل ہوتی۔

★
اسلام کو ابتدائی غلبہ اسی مہینے میں حاصل ہوا۔

★
اور اسلام کو مکمل غلبہ بھی اسی مہینے میں نصیب ہوا۔

رمضان کا ہمینہ ہر سال انہی حقیقتوں کی یادداہی کے لیے آتا ہے شریعت نے اس
مہینے میں روزے فرض کیے اور قیام لیں اور تلاوت قرآن کا تنظیم فرمایا، تاکہ مونین میں روح
چہاد مردہ نہ ہونے پائے اور وہ سال میں کم از کم ایک بار رمضان میں قرآن سُن کر یا پڑھ
کر اپنا منصب اور فریضہ شور کے ساتھ ذہنوں میں تازہ کر سکیں۔ قرآن کا نزل اور اس

کی تلاوت اور روزے کی مجاہد ان ترتیت اسی لیے ہے کہ فرزندانِ اسلام دین کو غالب اور قائم کرنے ہی کے لیے زندہ ہیں اور کسی وقت بھی اس منصبی فریضے سے غافل نہ ہوں۔

روزے کی تعریف

روزے کو عربی میں صوم یا سیام کہتے ہیں جس کے معنی ہیں کسی چیز سے رُک جانا اور اس کو ترک کر دینا۔ شریعت کی اصطلاح میں صوم سے مراد یہ ہے کہ آدمی صبح صادق سے خود بآفتاب تک کھانے پینے اور غبی ضرورت پر ہدای کرنے سے باز رہے۔

روزے کی فرضیت کا حکم
بھرتوں کے دیڑھ سال بعد الحمار دینی مہینے میں رمضان کے روڑے مسلمانوں پر فرض کیے گئے اور حرم دیا گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْعِصَمَارُ۔ (آل بقرہ: ۱۸۲)

”اے ایمان والوں! تم پر روڑہ فرض کیا گیا۔“

روڑہ فرض عین ہے جو شخص اس کا انکار کرے وہ کافر ہے اور جو کسی عذر کے بغیر روڑ کے وہ فاسق اور سخت گنہگار ہے۔

روزے کی اہمیت
قرآن حکیم کی شہادت ہے کہ روڑہ تمام آسمانی شریعتوں میں فرض رہا ہے اور ہر امت کے نظامِ عبادت میں اس کو ایک لازمی جزو کی حیثیت حاصل رہی ہے۔

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ (آل بقرہ: ۱۸۳)

”جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے ہو گز دے ہیں۔“

یہ آیت معرفت ایک تاریخی واقعہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس اہم حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ روزے کے نفس انسانی کی ترتیب سے خصوصی تعلق ہے اور ترتیب کیہر قلوب میں اس کو ایک فطری دخل ہے۔ بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب و ترتیب کا کوئی اس کے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی دوسری عبادت اس کا بدل نہیں بن سکتی، یہی وجہ ہے کہ یہ تمام انبیاء کی سابقہ شریعتوں میں فرض رہا ہے۔

اس کی اہمیت واضح فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

”جو شخص کسی (شرعی) عذر اور مرض کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھپوڑا

دے دے اگر عمر بھر بھی روزے رکھے تب بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔“¹

یعنی رمضان کے روزے کی خیر و برکت اور فضیلت و اہمیت یہ ہے کہ اگر کوئی غافل دانتہ رمضان کا کوئی روزہ ترک کر دے تو اس محرومی اور خساران کی تلافی عمر بھر روزے رکھنے سے بھی نہیں ہو سکتی ہاں اس کی قانونی قضا ہو سکتی ہے۔

روزے کا مقصد

روزے کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ آدمی میں تقویٰ پیدا ہو۔

لَعَلَّكُمْ تَشَتَّتُونَ - (البقرہ: ۱۸۳)

”تاکہ تم میری مذہبی پیدا ہو۔“

تقویٰ دراصل اس ”اخلاقی جوہر“ کا نام ہے جو خدا کی محبت اور خوف سے پیدا

ہوتا ہے خدا کی ذات پر ایمان اور اس کی صفت رحمت و کرم اور فضل و احسان کے لگپرے احساس سے جذبہ محبت حنفیت ملتا ہے اور اس کی صفت قہر و غضب اور عذاب دعتاب کے شعوری تصور سے جذبہ خوف ابھرتا ہے اور محبت و خوف کی یہ قلبی کیفیت ہی تعلوی ہے جو تمام اعمال خیر کا اصل سرچشمہ اور نام اعمال بد سے روکنے کا حقیقی فعل ہے۔

روزہ خدا کی ذات پر بخوبی تلقین اور اس کی دو گونہ صفات، رحمت و کرم اور قہر و غضب کا گھبرا احساس پیدا کرتا ہے۔ دن بھر سلسہ کی گھنٹے اپنے انتہائی بیانی اور صدری خواہشات سے رکارہنا آدمی پر یہ اثر چھپوڑتا ہے کہ وہ انتہائی عاجز درمانہ اور واقعی مجبور و محتاج ہے، وہ زندگی کی ایک ایک سانش کے لیے خدا کے فضل و کرم کا حاجتمند ہے اور پھر وہ زندگی کو خدا کی نعمتوں مے مالا مال دیکھ کر جذبات محبت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اور دلی ذوق دشوق کے ساتھ خدا کی اطاعت و بندگی میں سرگرم ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنی انتہائی پُر زور اور سیجانی خواہشات سے تنهائی کے ان گوشوں میں بھی رکارہتا ہے، جہاں اس پر خدا کے سوا کسی کی نظر نہیں پڑتی تو اس سے خدا کے خون اور بیبیت کا اساس گھرے سے گھرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے دل پر خدا کی عظمت و جبروت کا سایہ اس طرح سچا جاتا ہے کہ وہ پھر گناہ کے تصور سے بھی کانپنے لگتا ہے۔

حقیقی روزہ

لیکن روزے کا یہیم مقصد اُسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب روزہ پورے احساس و شعور کے ساتھ رکھا جاتے اور ان تمام مکر و بات سے اس کی حفاظت کی جائے

جن کے اثر سے روزہ بے جان ہو جاتا ہے۔ ختنی روزہ دراصل وہی ہے جس میں آدمی قلب و روح ان کی ساری صلاحیتوں کو خدا کی نافرمانی سے بچائے اور نفس کی ہر رُنگ خواہش کو روند دالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

* «جب تر روزہ رکھے تو لازم ہے کہ تو پنے کافوں، اپنی آنکھوں، اپنی زبان، لپنے ہاتھ اور لپنے سارے اعضا نے جسم کو خدا کی ناپسندیدہ باتوں سے روک رکھے ۔۔۔ ۱۰

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

* «جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے باز نہ رہا تو خدا کو اس کے بھوک کے پیاس کے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ۔۔۔ ۱۱

اور آپ نے متنبہ فرمایا۔

* «وکتنے ہی روزے دارالیے ہوتے ہیں کہ روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا ان کے پئے کچھ نہیں ٹرتتا ۔۔۔ ۱۲

روزے کی فضیلت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

«آدمی کے ہر عمل خیر کا اجر دس گئے سات سو گئے تک ٹھہرایا جاتا ہے۔ مگر خدا کا ارشاد ہے کہ روزہ کا معاملہ اور ہے، وہ تو خالص نیز ہے لیے ہے اور میں خود

۱۰ کشف المحبوب۔

۱۱ صحیح بخاری۔

ہی اس کا اجر دوں گا۔ بندہ میری ہی خاطر اپنی خواہشات اور اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے، روزے دار کے لیے دوسری ہیں۔

ایک افطار کے وقت (جب وہ اس جذبے سے سرشار ہو کر خدا کی نعمتوں سے لذت اندوز ہوتا ہے کہ خدا نے اس کو ایک فریقہ پورا کرنے کی توفیقی بخشی۔ دوسری صرتہ اپنے پروردگار سے ملنے کے وقت (جب وہ خدا کے حضور یا ربانی پائے گا اور اس کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کرے گا)۔

اور روزے دار کے منزہ کی بُوندھا کے تزدیک شک کی خوبیوں سے بھی زیادہ پسند ہے اور روزہ رکنا ہوں سے بچنے کی) ڈھال ہے اور حبیب تم میں کے کسی کارروزہ ہو تو وہ بے حیاتی کی باتوں اور شور دہنگلے میں سے دور رہے اور اگر کوئی گالی گلوچ کرنے لگے یا لڑنے جگہ رونے پر اُتر آئے تو اس کو سوچنا چاہیئے کہ میں روزہ دار ہوں ॥ (جب لا میرے لیے لڑنے جگہ رونے کی کیا گنجائش؟)

نیز ارشاد فرمایا۔

”جس شخص نے ایمانی شعور اور اختاب کے ساتھ روزے رکھنے اس کے ہر سارے ٹھنڈے معاف کر دیئے ہائیں گے جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں“ ۲۷
ایمانی شعور کے ساتھ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے وجود پر قیمی ہو، اس کے دندوں پر قیمی ہو اور یہ قیمی ہو کہ عمل کا اجر لازماً آخرت میں ملے گا اور خدا ہی اپنے علم و حکمت اور عدل و کرم کی بنیاد پر اجر دے گا۔

لئے بخاری مسلم۔

لئے بخاری مسلم

بہاں احتساب کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی رضا اور اجر آخوندت ہی کے لیے روزہ رکھا
جانے نیز ان تمام چیزوں سے روزے کی حفاظت کی جائے جو خدا کو ناپسند ہیں اور جن سے
خدائی نے منع فرمایا ہے۔

روبت مہال کے حکماں

(۱) شعبان کی انتیں تاریخ کو رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنا مسلمانوں پر واجب کفایہ ہے۔ جنتزی یا نجوم وغیرہ سے چاند کا حساب لگا کر روزہ رکھنا اور چاند دیکھنے سے بے نیاز ہو جانا ہرگز جائز نہیں۔ حدیہ ہے کہ جو لوگ خود اس فن کے ماہر ہوں اور وہ نیک اور پرہیزگار بھی ہوں ان کو خود بھی اپنے حساب پر عمل کرنا جائز نہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”چاند دیکھ کر روزے رکھو، اور چاند دیکھ کر روزے ختم کر دو اگر ۲۹“

شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے ۲۰ دن کی گنتی پوری کر دی۔“

(۲) چاند کی رویت کو کسی تجربہ کی بنیاد پر مانتا اور روزہ رکھنا جائز نہیں مثلاً عوام میں مشہور ہے کہ ”جس دن رحیب کی چوتھی ہے اسی دن رمضان کی پہلی ہوتی ہے۔

لہ۔ یعنی بھیت اجتماعی مسائلوں پر واجب ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کا اتفاق کریں اور اس کے لیے مناسب انتظام کریں۔ اور اگر پرے معاشرے نے اس کی اہمیت محسوس نہ کی اور غلط برتری تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔

لہ۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔

اور بارہا اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے ॥ شریعت میں چاند کے ثبوت کے لیے اس طرح کے تجربوں کا کوئی اختصار نہیں ۔

(۲) رجب کی انتیسویں تاریخ کو چاند دیکھنے کی کوشش اور اہتمام کرنا مستحب ہے۔ اس لیے کہ رمضان کی پہلی تاریخ معلوم کرنے کے لیے شعبان کی تاریخوں کا معلوم رکھنا ضروری ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ:-

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے ایام اور اس کی تاریخیں جس بکرداہتماً سے یاد رکھتے تھے کسی دوسرے ہمینے کی تاریخیں اس اہتمام سے پادر رکھتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھتے تھے۔ اور اگر ۲۹ ر شعبان کو چاند نظر نہ آتا تو شعبان کے ۳۰ ر دن پورے گر کے رمضان کا روزہ رکھتے ۔ ۲

(۳) جو شخص رمضان کا چاند اپنی آنکھ سے دیکھ لے اس پر واجب ہے کہ وہ بستی کے لوگوں یا مسلمانوں کے ذمہ دار افراد یا اداروں کو اس کی خبر ہمینچاٹے چاہئے وہ مرد ہمیا مجوزت ۔

۱۔ مثلاً رجب کی انتیسویں تاریخ کو چاند نکل آیا لیکن لوگوں نے اس کے دیکھنے کا کوئی اہتمام نہ کیا۔ اور کیم شعبان کو ۳۰ ر رجب سمجھ کر حساب لگاتے رہے یہاں تک ۳۰ ر شعبان ہو گئی لیکن گردد غہار پاہادل دغیرہ کی وجہ سے چاند نظر نہ آیا، اور چونکہ ۲۹ ر تاریخ شعبان کی سمجھی جاتی ہی لئی اس لیے کیم رمضان کو لوگ ۳۰ ر شعبان سمجھتے رہے، اور رمضان کا ایک روزہ اپنی غفلت سے جاتا رہا۔

۲۔ ابو راؤد۔

(۵) مطلع صاف ہونے کی صورت میں صرف دو دیندار افراد کی گواہی سے نہ رمضان کے چاند کا ثبوت ہو سکتا ہے اور نہ عید کے چاند کا۔ ایسی صورت میں کم از کم اتنے افراد کی گواہی ضروری ہے جن کی گواہی سے چاند کا یقین یا گان غالب ہو جائے۔

(۶) مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں ہلال رمضان کے ثبوت کے لیے صرف ایک آدمی کی خبر بھی کافی ہے۔ چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اگر دو شرطیں پائیں جائیں۔

۱ - گواہی دیئے والا عاقل و بالغ اور دین دار مسلمان ہو۔

۲ - وہ یہ خبر دے کر میں نے خود چاند دیکھا ہے۔

(۷) اور مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں ہلال عید کے ثبوت کے لیے ایک آدمی کی گواہی مستحب نہیں ہے چاہے وہ کیسا ہی معتبر اور ثقہ ہو، ہلال عید کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ دو دین دار اور مستحق مرد گواہی دیں یا ایک دیندار مرد اور دو دیندار عورتیں گواہی دیں، اگر چار عورتیں گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تب بھی عید کے چاند کا ثبوت نہ ہو گا۔

(۸) جن مقامات پر کوئی مسلمان قاضی اور حاکم نہیں ہے وہاں کے مسلمانوں کو خود اپنے طور پر چاند دیکھنے اور اس کا اعلان کرنے کا نظم کرنا چاہیئے اور اسی کے طبق عمل کرنا چاہیئے۔

(۹) اگر شہر بھر میں یہ خبر مشہور ہو جائے کہ چاند ہو گیا، لیکن انتہائی تلاش اور تحقیق کے باوجود بھی کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہو اقرار کرے کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے۔ تو اس صورت میں چاند کا ثبوت نہ ہو گا۔

(۱۰) اگر کسی ایسے شخص نہ چاند رکھنا بھی گواہی شریعت میں قائم نہیں ہے اور اس کے سوا شہر میں کسی نے چاند نہیں دیکھا تو اس کی گواہی سے شہر والے روزہ نہ رکھیں البتہ یہ شخص خود روزہ رکھنے والا جب ہے فرض نہیں ہے پھر اگر اس کے تینگ روزے پر ہو جائیں اور عید کا چاند نہ دیکھا جائے تو یہ شخص اکٹیسوں روزہ بھی رکھے اور عید لستی والوں کے ساتھ منائے۔

(۱۱) اگر کسی نے تنہا عید کا چاند خود اپنی آنکھ سے دیکھا لیکن چونکہ وہ اکیدا ہے اور شریعت میں عید کے چاند کے ثبوت کے لیے ایک آدمی کی گواہی معتبر نہیں ہے اس لیے اس کی گواہی کا انتبار نہیں کیا گی۔ تو ایسے شخص کے لیے تہار روزہ نہ رکھنا جائز نہیں اس کو چاہیئے کہ روزہ رکھے اور اپنے چاند دیکھ لیئے کی وجہ سے بغیر روزہ کے نہ رہے۔

(۱۲) کسی بستی میں کسی وجہ سے چاند نہ دیکھا گی اور دوسرے مقامات سے چاند ہو جانے کی خبریں آئیں۔ اگر یہ شہریں شریعت کی رو سے قابل قبول ہوں تو ان سے رمضان کے چاند کا ثابت بھی ہو گا اور خبر دے کے چاند کا ثبوت بھی مسلمانوں کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی اسلامیات کا جائزہ لیں اور اگر وہ شرعی اعتبار سے قابل قبول ہوں تو ان کے مطابق شہر میں اعلان کرنے کا ہتھا مکریں۔

(۱۳) اگر دو معتبر اور ثقہ افراد کی ثبوთ سے روایت ہال ثابت ہو جائے اور اسی حساب سے لوگ روزہ رکھیں لیکن تینگ روزے پر ہو جانے پر عید کا چاند نظر نہ آئے تو اکٹیسوں دن بھر حاضر ہو جائیں اس دن روزہ رکھنا درست نہیں۔

نیا چاند دیکھنے کی دعا
 حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے کہا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رات کا چاند
 دیکھنے تو فرماتے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالآمِنِ وَالْإِيمَانِ
 وَالسَّلَامَةَ وَالْإِسْلَامَ وَالْتَّوْفِيقَ لِمَا تُحِبُّ وَتُرْضِي رَبَّنَا
 وَرَبِّنَا اللَّهُمَّ ا

اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ ایہ چاند ہمارے لیے امن و ایمان
 سلامتی اور اسلام کا چاند بنائیں گے ہم پر طلوع فرمادی ان کاموں کی توفیق کے ساتھ
 جو تجھے پسند اور محبوب ہیں اسے چاند ہمارا پروردگار اور تیرا پروردگار اللہ
 ہے۔

روزے کی فسیل اور ان کا حکم

روزے کی چھ فسیل ہیں جن کی تفسیل اور احکام جاننا نہایت ضروری ہے۔

(۱) فرض۔

(۲) واجب۔

(۳) صفت۔

(۴) نفل۔

(۵) مکروہ۔

(۶) حرام۔

(۱) فرض روزے۔ سال بھر میں صرف رمضان المبارک کے تینیں روزے مسلمانوں پر فرض ہیں، رمضان کے روزوں کا فرض ہونا قرآن و حدیث سے صراحتاً ثابت ہے اور امت اپنی پوری تاریخ میں تواتر کے ساتھ اس پڑھل کرتی رہی ہے، جو شخص لوزہ رمضان کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر اور خارج از اسلام ہے، اور جو شخص بغیر کسی عذر کے زکر کرے وہ فاسق اور سخت گہرگاہ ہے رمضان کے روزے اگر کسی عذر کے باعث غفلت سے رہ جائیں تو ان کی قضاۓ کھنی بھی فرض ہے۔ یہ غیر معمین فرض ہیں لیکن یعنی جب واقع ہو رکھ لیں لیکن بہتر تر یہی ہے کہ جلد از جلد رکھ لیں۔

(۲) فوایجہب روزے

نند کے روزے، کفار سے کے روزے رواجہب ہیں، اگر کسی شعیین دن کے روزے کی تدریماں ہے تو اسی دن رکھنا ضروری ہے اور اگر دن شعیین نہیں کیا ہے تو پھر جب چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن بلا و بھر تاخیر نہ کرنا چاہیے۔

(۳) مسنون روزے

جو روزے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے یا جن کے رکھنے کی آپ نے زغیب دی ہے یہ روزے سنت ہیں اور ان کے رکھنے کا بڑا اجر دُلاب ہے۔ لیکن انہیں سے کوئی روزہ سنت نوکرہ نہیں، کہ جن کے نہ رکھنے سے آدمی گنہگار ہو، مسنون روزے یہ ہیں۔

* عاشورے کے روزے، یعنی محرم کی نویں اور دسویں تاریخ کے دو روزے۔

* پیغم عرفہ کا روزہ یعنی ذوالحجہ کی نویں تاریخ کا روزہ۔

* نیام بیض کے روزے یعنی، ہر چھٹیے کی، ۱۳، ۲۰، ۲۷، ۳۴، ۴۱ تاریخ کے روزے۔

(۴) نفلی روزے

فرض، واجہب اور مسنون روزوں کے علاوہ تمام روزے ستحب ہیں، البتہ بعض ستحب روزے ایسے بھی ہیں جن کے اہتمام کا اجر دُلاب زیادہ ہے، مثلاً۔

(۱) ماہ شوال کے چھٹے روزے، ان کو غریت عام میں شش عید کے روزے کہتے ہیں۔

(۲) پیر اور گجرات کے دن کا روزہ۔

(۳) ماه شعبان کی پندر صویں تاریخ کا روزہ۔

(۴) ذی الحجه کے ابتدائی عشرين کے آٹھ روزے

(۵) مگر روزہ روزے

صرف سینچر یا اتوار کے دن کا روزہ رکھنا۔ *

صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ *

کسی خاتون کا شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا۔ *

یچھے میں نامہ کیے بغیر مسلسل روزے، جس کو صوم و صالح کہتے ہیں۔ *

(۶) حرام روزے

سال بھر میں چھٹے روزے حرام ہیں۔

(۱) عید الفطر کے دن کا روزہ۔

(۲) عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ۔

(۳) آیام تشریق۔

(۴) اول روز الحجہ۔

(۵) دوسری روز الحجہ۔

(۶) سارے روزے الحجہ کا روزہ۔

روزے کی شرطیں

روزے کی شرطیں دو قسم کی ہیں۔

شرطی صحت۔ *

شرطی وجوب۔ *

روزہ صحیح ہونے کے لیے جن باتوں کا پایا جانا ضروری ہے ان کو شرائط صحت کہتے ہیں اور روزہ واجب ہونے کے لیے جن باتوں کا پایا جانا ضروری ہے ان کو شرائط وجوب کہتے ہیں۔

روزے کے شرائط وجوہ

روزہ واجب ہونے کی چار شرطیں ہیں۔

(۱) اسلام - کافر پر روزہ واجب نہیں۔

(۲) بلوغ - نابالغ بچے پر روزہ واجب نہیں۔^۱

(۳) صوم رمضان کی فرضیت سے واقع ہونا۔

(۴) معدود رہنا یعنی کوئی ایسا عذر نہ ہو جس میں شریعت نے روزہ نہ کہتے کی اجازت دی ہے، مثلًا سفر، بڑھا پا، مرض، رجہاد وغیرہ۔

روزے کے شرائط صحت

روزہ صحیح ہونے کی تین شرطیں ہیں۔

(۱) اسلام - کافر کا روزہ صحیح نہیں۔

(۲) خواتین کا حین و نفاس سے پاک ہونا۔

لہ البتہ عادت ڈلوانے کے لیے نابالغ بچوں سے بھی روزہ رکھوانا چاہیئے۔ جس طرح نماز پڑھوانے کا اہتمام کرنے کی حدیث ہیں تاکید ہے اسی طرح روزہ رکھوانے کی بھی ترغیب دی گئی ہے، لیکن انہیں بچوں سے رکھوا یا جائے جو روزے کی بھوک پیاس کو برداشت کرنے کی قوت رکھتے ہوں، غلو سے پرہیز کرنا چاہیئے۔

(۳) نیت کرنا۔ یعنی دل میں روزہ رکھنے کا ارادہ کرنا، روزہ رکھنے کا ارادہ یکے بغیر اگر کوئی شخص دن بھر ان چیزوں سے رکارہا جن سے روزے میں رکا جاتا ہے تو اس کا روزہ صحیح نہ ہوگا۔

روزے کے فرائض

روزے میں صحیح صادق نوادر ہونے سے غریب آفتاب تک تین باتوں سے رکارہنا فرض ہے۔

(۱) صحیح صادق سے غریب آفتاب تک کچھ نہ کھانا۔

(۲) صحیح صادق سے غریب آفتاب تک کچھ نہ پینا۔

(۳) صحیح صادق سے غریب آفتاب تک عجیبی لذت کے حصول سے پرہیز کرنا۔ اس میں عجیبی لذت کی وہ تمام صورتیں شامل ہیں جن میں عادتاً منی کا اخراج ہوتا ہے، خواہ وہ صنعت نازک کے علاوہ کسی اور انسان یا بہائم سے حصول لذت ہو یا جلق وغیرہ ہو، سب سے بچنا فرض ہے، البتہ اپنی خاتون کو دیکھنے، یا چمنا نے یا پیار کرنے سے بچنا فرض نہیں ہے اس لیے کہ اس سے عادتاً منی کا اخراج نہیں ہوتا۔

روزے کے شفیع و مشتبیات

(۱) سحری کا اہتمام کرنا، سندت ہے۔ پاہے وہ چند کھجوریں یا چند گھونٹ پانی ہی ہو۔

(۲) سحری انہر وقت میں کھانا ستحب ہے، جب کہ صحیح صادق ہونے میں کچھی دیر باقی ہو۔

(۳) روزے کی نیت رات ہی سے کر لینا ستحب ہے۔

- (۴۳) افطار جلد کرنا یعنی سورج ڈوب جانے کے بعد نخواہ نخواہ دیر نہ کرنا مستحب ہے۔
- (۴۴) چھوہارے کی محور یا پانی سے افطار کرنا مستحب ہے۔
- (۴۵) نیجت، چنی، غلط بیانی، شور و ہنگامہ، غصہ اور زیادتی سے بچنے کا اہتمام کرنا مسنون ہے، یہ کام یوں بھی غلط ہیں لیکن ورنہ میں ان سے بچنے کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔

روزے کے فسادات

روزے میں تین چیزوں سے بچنا فرض ہے۔

(۱) کچھ کھانے سے۔

(۲) کچھ پینے سے۔

(۳) جنسی لذت حاصل کرنے سے۔

لہذا اہر اس فعل سے روزہ فاسد ہو جائے گا جو ان تینوں فرضوں کے خلاف ہو، البتہ روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں اپنی نوعیت کے لحاظے دو قسم کی ہیں ایک وہ جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے اور ایک وہ جن سے قضا اور کفارہ دردوں واجب ہوتے ہیں۔

وجوب کفارہ متعلق کچھ اصولی یاتمیں

(۱) اگر کوئی چیز قصد اپنی میں پہنچائی جائے اور اس کو نفع بخش ہونے کا خیال بھی ہو، چاہے وہ تھذا ہو یا دایا کوئی ایسا فعل کیا جائے جس کی لذت جنسی فعل جسی ہو تو ان صورتوں میں روزے کی قضا بھی واجب ہو گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔

(۲) اگر کوئی چیز خود بخود پہنچ میں ہمچ جائے، یا اس کے نفع بخش ہونے کا خیال نہ ہو یا کوئی ایسا فعل کیا جائے جس کی لذت جنسی فعل جسی نہ ہو

تو صرف روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ لازم نہ آئے گا۔

(۲۴) کفارہ صرف رمضان کا روزہ فاسد ہونے سے واجب ہوتا ہے رمضان کے سوا کوئی اور روزہ فاسد ہونے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا چاہے غلطی سے فاسد ہو جائے یا قصدًا فاسد کر دیا جائے۔

(۲۵) رمضان کا قضا روزہ فاسد ہونے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا صرف اداروزہ فاسد ہونے سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔

(۲۶) جن لوگوں میں روزے کے شرائط وجوب نہ پائے جائیں ان کا روزہ فاسد ہونے سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا، مثلاً مسافر کا روزہ، نابالغ بچے کا روزہ۔ حیث و نفاس والی خواتین کا روزہ۔ اگرچہ مسافر اور حیث و نفاس والی خواتین نے روزے کی نیت، سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اور حیث و نفاس آنے سے پہلے ہی کی ہو۔

(۲۷) ہر دفعہ فعل جس میں لپٹے قصد اور ارادہ کو دخل نہ ہو، مثلاً کھو لے سے کچھ کھا لیا، یا جنسی لذت حاصل کر لی، یا کھلی کرتے میں غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا۔ یا کسی نے زبردستی کسی سے جنسی لذت حاصل کر لی تو ان تمام صورتوں میں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔

(۲۸) جنسی فعل میں فاعل و مفعول دونوں کا عاقل ہونا شرط نہیں۔ دونوں میں سے جو عاقل ہو اور قصدًا یہ فعل کرے اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ اگر عورت عاقل ہے تو اس پر کفارہ لازم ہے مرد پر نہیں اور اگر مرد عاقل ہے تو مرد پر کفارہ واجب ہے دیوانی عورت پر نہیں۔

(۲۹) کوئی خاتون چاہے نابالغ بچے سے جنسی فعل کرائے یا کسی دیوانے درجہ بند

سے ہر حال میں قضائی وجہب ہے اور کفارہ بھی۔

(۹) رمضان میں روزے کی نیت کیے بغیر کوئی کھانے پینے تو اس پر کفارہ وجہب نہیں صرف قضادا جب ہے، کفارہ اُسی صورت میں وجہب ہوگا جب روزے کی نیت کر لینے کے بعد روزہ توڑے۔

(۱۰) کسی شہر کی بنیاد پر اگر کوئی اپنا روزہ فاسد کر دے تو کفارہ وجہب نہ ہوگا۔ وہ صورتیں جن میں صرف روزے کی قضادا جب ہوتی ہے

(۱۱) کسی کی انکھ درپیں کھلی اور یہ سمجھ دکر کہ الجی سحری کا وقت یاتی ہے کچھ کھا پیا یا پھر معلوم ہوا کہ صحیح ہو چکی تھی، تو اس روزے کی قضا رکھنا وجہب ہے۔

(۱۲) کسی نے سورج ڈوبنے سے پہلے ہی یہ سمجھ دکر کہ سورج ڈوب گیا ہے افطا کر لیا۔ تو قضادا جب ہے۔

(۱۳) بے ارادہ کوئی ہمیز پیٹ میں پہنچ گئی مشلاں کی کے لیے منہ میں پانی بیا اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا۔ ناک یا کان میں دوادھی اور وہ پیٹ میں پہنچ گئی۔ پیٹ یا دماغ کے زخم میں دوادھی اور وہ اس زخم کی راہ سے پیٹ پا دماغ تک پہنچ گئی تو ان موتیوں میں صرف قضادا جب ہے۔

(۱۴) کسی نے روزہ دار کو زبردستی کچھ کھلا پلا رہا تو صرف قضادا جب ہے۔

(۱۵) کسی نے زبردستی کسی خاتون کے ساتھ جنسی فعل کیا یا غافل بھورتی تھی یا بے ہوش تھی اور کسی نے اس سے جنسی لذت حاصل کی تو خاتون پر صرف قضادا جب ہوگی۔

(۱۶) کسی نادان نے مردہ عورت یا کسی بچی کے ساتھ جنسی فعل کیا یا بہائم کے

ساتھ یہ فعل کیا، یا کسی کو لپٹایا یا بوس لیا یا جلق کام تکب ہوا اور ان صورتوں میں انزال ہو گیا تو صرف قضا واجب ہے۔

(۸) کسی نے روزے کی نیت ہی نہیں کی لیکن کھانے پینے دغیرہ سے رکا رہا یا نیت کی مگر نصف النہار کے بعد کی قوان صورتوں میں روزہ نہ ہو گا اور قضا لازم ہو گی۔

(۹) روزے میں کسی کے منہ میں آنسو یا پسینے کے قطروں پلے گئے اور پورے منہ میں اس کی نمکینی محسوس ہوئی اور وہ ان قطروں کو بھل گیا تو روزہ جاتا رہا۔ قضا لازم ہے۔

(۱۰) منہ میں کوئی شخص پان دبائے سو گیا اور صحیح صادق کے بعد آنکھ کھلی تو صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔

(۱۱) کسی نے روزے میں کوئی گنکری یا لوہے کا کڑایا اور کوئی الی چیز کو لی جس کو نہ بطور فذ اکھلتے ہیں نہ باطور دا تو اس صورت میں روزہ جاتا رہا اور صرف قضا لازم ہو گی۔

(۱۲) روزے میں کسی خاتون نے اپنے مقام خاص میں کوئی دراڑاں یا تیل ڈالا تو اس صورت میں صرف قضا واجب ہے۔

(۱۳) کسی نے روزے میں بھولے سے کھاپی لیا، اور پھر یہ سمجھو کر کہ روزہ لوٹ ہی گیا ہے قصداً کچھ کھاپی لیا تو روزہ جاتا رہا اور قضا واجب ہے کفارہ نہیں۔

(۱۴) کسی نے روز سے میں کان کے اندر تیل ڈالا، یا بھلاب میں جملی یا تو روزہ جاتا رہا اور اس کی صرف قضا واجب ہے کفارہ نہیں۔

(۱۵) کسی خاتون نے علاج دغیرہ کی ضرورت سے اپنی اگلی شرمگاہ میں پنی انگلی داخل کی یا کسی دائی دغیرہ سے داخل کرائی اور پھر ساری انگلی یا انگلی کا کچھ حصہ نکالنے کے بعد دوبارہ داخل کی تو روزہ جاتا رہا اور قضا واجب ہے اور اگر دوبارہ داخل نہیں کی لیکن انگلی کسی چیز میں بھی ہوتی تھی تو ہمیں ہی بار داخل کرنے سے روزہ جاتا رہا اور قضا واجب ہے، اسی طرح اگر کوئی خاتون اپنی شرمگاہ میں روائی دغیرہ رکھے اور سب اندر غائب ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہو گی۔

(۱۶) جماع اور لواطت کے علاوہ جنسی لذت کا کوئی ایسا فعل کیا جس سے عادۃ ازال ہو جاتا ہے، اگر ازال ہو گی تو روزہ جاتا رہا اور صرف قضا لازم آئے گی، مثلاً کوئی جلت کام تکب ہڑا۔ یا کسی نے خاتون کی ناف، ران یا کولھوں میں عذر خاص گھو کر منی خارج کی، یا کسی جانور کے ساتھ یہ فعل کیا، یا کسی خاتون نے کسی دوسری خاتون کے ساتھ حصول لذت کی کوشش کی اور ازال ہو گیا تو روزہ جاتا رہے گا اور قضا لازم ہو گی، کفارہ واجب نہ ہو گا۔

(۱۷) سوک کرتے ہوئے یا یونہی مسوڑے دغیرہ سے خون نکلا اور روزہ میں تنوک کے ساتھ نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گی قضا واجب ہے، ہاں اگر خون تنوک کی مقدار سے کم ہے اور جلت میں محسوس نہیں ہو رہا ہے تو روزہ نہیں جائے گا۔

وہ صورتیں جن میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں

(۱۸) کسی نے روز سے میں جذبات سے مغلوب ہو کر جنسی فعل کا انتکاب کیا

چاہے وہ فرد پر یا عورت، یا مرد نے ایسا بھی داعجہ ہے اور کفارہ بھی و
 (۲) کسی خاتون نے مرد سے تہبیتی کی اور عضو کا سر اندر داخل ہو گیا تو چاہے
 منی کا خرد ج ہو یا نہ ہو ہر حال میں قضا بھی داعجہ ہے اور کفارہ بھی۔

(۳) کسی نادان نے عورت سے تہبیتی کی اور اس کے پچھلے حصے میں عضو کا
 سرداخی کر دیا تو دفعہ فارسہ ہو گیا۔ قضا بھی داعجہ ہے اور کفارہ بھی۔

(۴) کسی نے ایسی کوئی چیز کھاپی لی جو کھانے پینے کے استعمال میں آتی ہے
 یا ایسی چیز کھانے پینے میں استعمال نہیں کی جاتی لیکن دراکے طور پر کھاپی لی،
 کہ اس سے فائدہ ہو گا۔ تو روزہ جاتا رہا اور اس پر قضا اور کفارہ دفعوں داعجہ
 ہیں۔

(۵) خاتون غافل سورہ کی تھی یا بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور مرد نے اس سے جنسی
 لذت حاصل کی تو مرد پر قضا بھی داعجہ ہے اور کفارہ بھی۔

(۶) کوئی ایسا فعل کیا جس سے روزہ فارسہ نہیں ہوتا، لیکن اس شخص نے اپنے
 طور پر یہ کہا کہ میرا روزہ فارسہ ہو گیا اور پھر قصدًا کچھ کھاپی لیا، تو روزہ فارسہ ہو گیا
 قضا بھی داعجہ ہے اور کفارہ بھی، مثلاً کسی نے سرمه لگایا، سرمنی نیل ڈالا یا پچنے
 لگوائے یا کسی خاتون کو چٹایا یا بوسرہ لیا اور پھر یہ کہہ کر کہ میرا روزہ جاتا رہا قصدًا کچھ
 کھاپی لیا، تو روزہ فارسہ ہو گیا اس صورت میں قضا بھی داعجہ ہے اور کفارہ بھی۔
 وہ امور جن سے روزہ مکروہ ہو جاتی ہے۔

یعنی ان چیزوں کا بیان جن کے کرنے سے روزہ فارسہ تو نہیں ہوتا لیکن مکروہ
 ہو جاتا ہے، ان سب چیزوں کی کراہت تنزہ ہی ہے۔ تحریکی نہیں۔

- (۱) کسی چیز کا ذائقہ چکھنا، البتہ کوئی خاتون مجبوراً اس لیے کھانے کی چیزوں کا ذائقہ پکارتے وقت، یا بازار سے خریدتے وقت چکھنے کے اس کا شوہر بد مزاج اور سخت گیر ہے، یا اس طرح کوئی ملازمہ اپنے آقا کے خون سے چکھنے تو کر دے نہیں۔
- (۲) منہ میں کوئی چیز چیانا یا بونہی ڈالے رکھنا۔ مثلاً کوئی خاتون اپنے نخے بچے کو کھلانے کے لیے اپنے منہ میں کوئی چیز دبائے یا زم کرنے کے لیے یا ٹھنڈا کرنے کے لیے منہ میں ڈالے تو یہ کر دے ہے، البتہ مجبوری کی صورت میں جائز ہے۔ مثلاً کسی کا بچہ بھجو کا ہے۔ اور وہ صرف وہی چیز لکھاتا ہے جو منہ میں چبا کر اس کو دی جائے، اور کوئی بے روزہ آدمی بھی موجود نہ ہو تو اس صورت میں چبا کر کھلانا کر دے نہیں۔
- (۳) کسی خودت کا ہوت منہ میں نہ لینا، یا نگہ ہو کر بدن ملانا کر دے ہے۔ چاہے اڑاں ہونے اور صحبت کر لینے کا خوف ہو یا نہ ہو۔
- (۴) روزے میں کوئی ایسا کام کرنا کر دے ہے جس سے اتنی زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے کا اندر لشیہ ہو کر روزہ توڑنا پڑے گا۔
- (۵) کلی کرنے یا ناک میں پانی ڈلنے میں ضرورت سے زیادہ اہتمام ہو غلوکرنا۔
- (۶) بلا و بہر میں تھوک جمع کر کے نگہدا۔
- (۷) بے قراری، مگر امٹ، اور اضھال کا اظہار کرنا۔
- (۸) غسل کی حاجت ہوا اور موقع بھی ہو بچہ بھی کوئی شخص بلا و بہر قصد ابھی صارق کے بعد تک غسل نہ کرے تو یہ کر دے ہے۔
- (۹) منجن، پیٹ، یا کوئلہ دغیرہ چبا کر اس سے دانت مانجنا۔

(۱۰) روزے میں غیبت کرنا، بھوٹ بولنا، گالی گروچ اور شور دہنگا کرننا، مارنا پیٹنا اور کسی پر زیادتی کرنا۔

(۱۱) قصد احلى میں دھوان، یا گرد غبار پہنچانا مکروہ ہے، اور اگر لوگان دغیرہ سلیگا کر اس کو سونپھا یا حلقہ سگرٹ اور بیٹری دغیرہ پی لیا تو روزہ جاتا رہا۔ وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔

(۱۲) روزے کا خیال نہ رہا اور بھولے سے کچھ کھاپی لیا یا شرکیں حیات سے جنسی لذت حاصل کی، چاہے ایک بار ایسا کیا یا کئی بار اتفاق ہوا احمد یہ کہ اگر بھولے سے پیٹ بہر کر بھی کھاپی لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا اور نہ مکروہ ہوا۔

(۱۳) دن میں روزہ دار سوگی اور سوتے ہیں کوئی ایسا خواب جس سے خسل کی حاجت ہو گئی تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔

(۱۴) دن میں سرمه لٹھانا، سرمیں تیل ڈالنا یا بدن پر ماش کرنا، خوشبو سونگھنا سب درست ہے، اسرہ لٹھانے کے بعد اگر بلغم میں سرمه کی سیاہی محسوس ہو تو بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔

(۱۵) اپنی شرکیں حیات کے ساتھ لٹھانا، بغل گیر ہونا، بوں و کنار کرنا، سب درست ہے، ہاں اگر ازال کا اندر لشیرہ یا جذر بات کے بیجان میں صحبت کر لینے کا خطرہ ہو تو پھر یہ سب کام مکروہ ہیں۔

(۱۶) روزے میں متوکنا اور بلغم لٹھانا مکروہ نہیں۔

(۱۷) روزے میں سلیق کے اندر بکھی چلی گئی یا اسے اختیار گرد غبار یا دھوان پلا گی تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ان میں کوئی چیز قصداً ہیٹھیں پہنچائی تو

- (۱۷) روزہ بھائیار ہے گا۔
- (۱۸) کسی خاقون کے جنسی اعضا کو دیکھنے سے یا کوئی جنسی خیال دل میں لانے سے اگر انزال ہو گی تو روزہ مکروہ نہ ہو گا۔
- (۱۹) کسی جانور کے جنسی اعضا کو چھوٹنے سے اگر انزال بھی ہو جائے تو بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔
- (۲۰) مرد کے لیے اپنے عضو خاص کے سوراخ میں تیل یا پالی یاد رکاوغیرہ ڈالنا یا پچکاری سے بہنچانا، یا اسلامی وغیرہ داخل کرنا جائز ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔
- (۲۱) کوئی شخص خشک لکڑی یا خشک انگلی اپنے پچھلے حصہ میں داخل کرے لیکن لکڑی اندر غائب نہ ہو تو روزہ فاسد نہ ہو گا۔
- (۲۲) کسی نے یہ سمجھا کہ الجھی رات باتی ہے اور وہ اپنی شرکی حیات سے محبت میں مشغول ہو گیا، یا روزہ کا خیال نہ رہا، اور محبت شروع کر دی لیکن پھر جو نہیں معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو چکی ہے یا روزہ یا آیا تو فوراً علیحدہ ہو گیا اس صورت میں اگر علیحدہ ہونے کے بعد انزال ہوتبھی روزہ فاسد نہ ہو گا۔ اس انزال کا حکم وہی ہو گا جو روزے میں اختلام کا ہے۔
- (۲۳) کان میں پانی چلا جائے یا کوئی قصیداً ڈال لے تو اس سے روزہ مکروہ نہ ہو گا۔
- (۲۴) دانتوں کے درمیان غذا یا بولی یا کوئی ریشہ یا چھالیہ کا کوئی ملکڑا رہ گیا اور اس کو منہ سے نہیں مکالا بلکہ اندر ہی اندر نگل دیا اگر یہ چنے کی مقدار سے کم

ہے تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔

(۱۲) بے اختیار قے ہو گئی منہ بھر کر ہوئی یا اس سے کم یا زیادہ بھر حال روزہ مکروہ نہ ہوگا۔ اگر اس صورت میں بے اختیار کچھ حصہ پھر پیٹ میں لوٹ جائے تو بھی روزہ مکروہ نہ ہوگا۔

(۱۳) روزے میں کسی وقت بھی مسوک کرنا، چاہے خشک لکڑی سے کی جائے یا بالکل تازہ اور تر لکڑی سے، نیب کی تازہ مسوک کا کڑ دا کڑ واذا افقہ منہ میں محسوس ہو تو بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔

(۱۴) گرمی کی شدت میں کھلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، منہ ہاتھ دھونا، نہانا، کپڑا اتر کر کے بدن پر رکھنا مکروہ نہیں۔

(۱۵) اگر پان کھلنے کے بعد اچھی طرح لکھی اور غرارہ کر کے منہ صاف کر لیا۔ لیکن تھوک میں سرخی اب بھی محسوس ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں اس سے روزہ مکروہ نہ ہوگا۔

(۱۶) اگر قصداً قے کی لیکن خصوری سے کی منہ بھر نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا اور نہ مکروہ ہوا۔

(۱۷) مسوک کرنے میں یا پہنچنے سے خون سکلا اور تھوک کے ساتھ نگل لیا۔ اگر خون لئے قضا تھوک سے کم ہوا درحقیقی میں خون کا مزہ معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

روزے کی نیت کے مسائل

(۱) نیت کے معنی ہیں دل میں ارادہ کرنا، زبان سے نیت کا اظہار کرنا ضروری نہیں، صرف دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے، بلکہ سحری کھانا بھی نیت ہی کے قائم مقام ہے اس لیے کہ سحری روزے ہی کی غرض سے کھائی جاتی ہے۔

البتہ جو لوگ اس وقت کھانے کے عالم طور پر عادی ہو یا جو نادان سحری اہتمام سے کھاتے ہوں اور روزہ نہ لکھتے ہوں تو ان لوگوں کی سحری نیت کے قائم مقام نہ ہو گی، ان کے لیے ضروری ہے کہ نیت کریں۔

(۲) رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے الگ نیت کرنا ضروری ہے، رمضان کے سارے روزے کے لیے صرف ایک دن نیت کر لینا کافی نہیں ہے۔

(۳) رمضان کے اداروں میں فرض کہہ کر نیت کرنا ضروری نہیں۔ صرف روزے کی نیت کر لینا کافی ہے، البتہ کوئی مریض اگر رمضان کا روزہ رکھے تو وہ فرض کی تعیین کرے اس لیے کہ اس پر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے مریض اگر م Gunn روزے کی نیت کرے یا فنا روزے کی نیت کرے تو اس کا روزہ رمضان کا روزہ نہ ہو گا۔

(۴) سافر کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان میں کسی اور واجب روزے کی نیت نہ کرے رمضان کے فرض روزے کی نیت کرے، یا فعلی روزے کی نیت کرے

ہر طرح درست ہے۔

- (۵) رمضان کے قضا روزوں میں متعین طور پر فرض کی نیت کرنا ضروری ہے۔
- (۶) اگر کوئی شخص شب میں روزہ کی نیت کرنا بھول جائے اور دن میں اس کو یاد آئے تو ان تین قسم کے روزوں میں نصف النہار سے پہلے پہلے تک نیت کر لینا درست ہے، لیکن غروب آفتاب سے قبل نصف النہار تک کسی وقت بھی نیت کر لے درست ہے۔

(۷) رمضان کے ادار روزوں میں۔

(۸) نذر کے ان روزوں میں جن میں دن یا تاریخ کی تخصیص کرو گئی ہو۔

(۹) نفلی روزوں میں۔

- (۱۰) ان چار قسم کے روزوں میں غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک نیت کر لینا ضروری ہے، ان میں صبح صادق کے بعد نیت کرنا کافی نہیں ہے۔
- (۱۱) رمضان کے قضا روزوں میں۔

(۱۲) نذر کے ان روزوں میں جن میں دن یا تاریخ صحیح نہ ہو۔

(۱۳) کفار سے کے روزوں میں۔

- (۱۴) اور ان نفلی روزوں کی قضا میں جو شروع ہو جانے کے بعد کسی وجوہ سے فاسد ہو گئے ہوں۔

(۱۵) اگر شب میں کسی وجوہ سے روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا، پھر صبح کو بھی روزہ نہ

رکھنے ہی کا خیال رہا، پھر صفت النہار سے پہلے خیال آیا کہ رمضان کا روزہ چھوڑنا نہیں
نہیں اور نیت کر لی تو یہ روزہ درست ہے ہاں اگر صحیح میں کچھ کہا بی لیا تھا تو اب نیت
کرنے کی لگھائش نہیں رہی۔

(۹) رمضان کے ہمینے میں کسی نے فرض روزے کے بجائے نفلی روزے کی نیت کی اور یہ سوچا کہ فرض روزے کی قضاۓ کھل لوں گا۔ تب بھی وہ روزہ رمضان ہی کا
ہو گا۔ نفلی روزہ نہ ہو گا۔ اسی طرح اگر نفلی روزے کے بجائے دا جب روزے کی
نیت کی تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوا۔ اصولی بات یہ ہے کہ رمضان میں صرف
رمضان کا فرض روزہ ہی صحیح ہے کوئی ادله روزہ صحیح نہیں ہے۔

(۱۰) روزہ صحیح صادقے شروع ہوتا ہے، اس لیے صحیح صادقے پہلے
پہلے وہ سارے کام جائز ہیں، جن سے بچنا روزے میں فرض ہے، بعض لوگ سمجھتے
ہیں کہ روزے کی نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا وغیرہ جائز نہیں، یہ غلط ہے، صحیح
صادقے سے پہلے پہلے کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے چاہے غروب آفتاب کے بعد
ہی دوسرے دن کے روزے کی نیت کر لی ہو۔

(۱۱) نفلی روزہ نیت کرنے سے دا جب ہو جاتا ہے اگر صحیح کے وقت نیت
کی کہ آج میرا روزہ ہے اور پھر اس کے بعد روزہ توڑ دیا، تو اس روزے کی قضاۓ اجب
ہے۔

(۱۲) کسی نے شب یہی یہ ارادہ کیا کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن پھر صحیح
ہونے سے پہلے پہلے ارادہ بدل دیا، اور روزہ نہیں رکھا، تو اس صورت میں قضاۓ
دا جب نہیں۔

(۱۲) اگر شب میں نیت کرے تو کہے۔

بِصَوْمَرِ غَدِيرِ نُوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ -

”میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی ॥
اور دن میں نیت کرے تو کہے۔“

نُوَيْتُ بِصَوْمَرِ الْيَوْمِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ -

”میں نے ماہ رمضان کے آج کے روزے کی نیت کی ॥“

لیکن عربی میں نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں کسی بھی زبان میں کہہ سے۔

سحری اور افطار

روز رکھنے کی غرض سے صبح صادق سے پہلے جو کچھ کھایا پایا جاتا ہے اُسے سحری کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سحری کا اہتمام فرماتے اور دوسروں کو بھی سحری کھانے کی تاکید فرماتے۔

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر کے وقت مجھ سے فرماتے۔
”میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے مجھے کچھ کھلانا“

تو میں کچھ کھو ریں اور ایک برتن میں پانی پیش کر دیتا۔

اور آپ نے سحری کھانے کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

”سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں ٹھیک برکت ہے۔“

برکت سے مراد یہ ہے کہ دن کے کاموں میں اور عبادت و اطاعت میں کمزوری

محسوں نہ ہوگی اور روزے میں آسانی ہوگی۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا۔

”دن کو روزہ رکھنے میں سحری کھانے سے مدد لیا کرو۔ اور قیام لیں

کے لیے قیلو لے سے مدد لیا کرو۔“

سحری کھانا سنت ہے اور سلاماؤں اور ہبودونصاریٰ کے روزوں میں غرق یہ

بھی ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے اور مسلمان سحری کھاتے ہیں۔ اگر بھوک نہ ہو تو کچھ تھوڑا سایہ، یادو دھدیا کم از کم پانی ہی پی لینا چاہیئے۔ اس لیے کہ سحری کھانے کا بڑا اجر و ثواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”سحری کا کھانا سرا سر برکت ہے، سحری کھانا کبھی نہ چھوڑو۔“ چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی ہو، یکوں کہ سحری کھانے والوں پر خدا رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں ॥ لہ

سحری میں تاخیر

سحری اخیر وقت میں کھانا جب کہ صحیح صادقی میں تھوڑی ہی دیر باقی ہو۔ سخت ہے، بعض لوگ بنظر احتیاط بہت پہلے سحری کھائیتے ہیں، یہ بہتر نہیں ہے بلکہ تاخیر سے کھانے میں اجر و ثواب ہے۔

افطار میں تعجب

افطار میں جلدی کرنا سخت ہے، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد احتیاط کے خیال سے تاخیر کرنا مناسب نہیں بلکہ فوراً ہی افطار کر لینا چاہیے۔ اس طرح کی غیر ضروری احتیاطوں کے اہتمام سے دینی مزاج بگڑ جاتا ہے، دینداری یہ نہیں ہے کہ آدمی خواہ مخواہ اپنے کوششوں میں ڈالے، بلکہ دینداری یہ ہے کہ خدا کے حکم کی بے چون و چڑا اطاعت کی جانتے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

یکیں باقیں پیغمبر ان اخلاق کی ہیں۔

(۱) سحری تاخیر سے کھانا۔

(۲) افطار میں تعجبیں کرنا۔

(۳) نماز میں داہننا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔

حضرت ابن ابی اوفی کہتے ہیں کہ "ہم لوگ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ روزے سے تھے، جب سورج نتلودن سے اوچھیں ہو گئیا تو آپ نے کسی سے فرمایا۔

"اٹھو اور ہمارے لیے ستون گھول دو"

اس شخص نے کہا "یا رسول اللہ! کچھ دیر اور ٹھہر ہو گئیں کہ شام ہو جائے تو اچھا ہو"

ارشاد فرمایا "سواری سے اتر و اور ہمارے لیے ستون گھول دو"

اس شخص نے پھر کہا "یا رسول اللہ! ابھی دن پہلا ہوا ہے"

آپ نے پھر ارشاد فرمایا "سواری سے اتر و اور ہمارے لیے ستون گھول دو" تب وہ اتر اور اس نے سب کے لیے ستون تیار کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستونوں فرمائے اور ارشاد فرمایا "جب تم دیکھو کہ رات کی سیاہی اس طرف سے چھانا شروع ہو گئی ہے تو روزہ دار کو روزہ کھول دینا چاہیئے" لفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ خدا کا ارشاد ہے۔

”لپنے بندوں میں سب سے زیادہ مجھے دہ بندہ پسند ہے جو انطار میں تعجب کر لئے۔“ (یعنی خردب آنتاب کے بعد ہرگز تاخیر نہ کرے)

نیز آپ نے ارشاد فرمایا۔

”لوگ اچھی حالت میں رہیں گے جب تک وہ انطار میں جلدی کریں گے۔“

کس چیز سے انطار مستحب ہے

کمکجور اور چپوار سے افطار کرنا مستحب ہے اور یہ میسر نہ ہو تو پھر پانی سے انطار کمی مستحب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی انہی چیزوں سے افطار فرماتے۔

”حضرت انس[ؓ] کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے چند تر

کمکجور دل سے روزہ افطار فرماتے تھے اور اگر یہ نہ ہوں گے تو چپواروں سے افطار فرماتے تھے اور اگر یہ بھی نہ ہوتے تو چند گھونٹ پانی ہی فوش فرمائیتے تھے۔“^۱

اور انہی چیزوں سے افطار کی ترغیب آپ نے صحابہ کرام کو دی اور فرمایا۔

”جب تم میں سے کسی کارروزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے، کمکجور میسر نہ ہو۔

تو پھر پانی سے افطار کرے، فی الواقع پانی انتہائی بآک ہے۔“^۲

کمکجور عرب کی پسندیدہ غذا بھی تھی اور ہر غریب و امیر کو آسانی سے میسر بھی آجائی

۱۔ م Sahih al-Bukhari.

۲۔ م Sahih al-Bukhari.

۳۔ م Sahih al-Bukhari, al-Jawād.

۴۔ م Ahmad, Tirmidhi, al-Budā'īd.

تھی، رہ بار پانی تو وہ ہر جگہ فراوانی سے مہیا ہے، ان چیزوں سے رفڑہ افطار فرماتے اور تغیب دینے کی مصلحت یہ ہے کہ امت کسی شفت میں مبتلا نہ ہو اور بروقت سہولت کے ساتھ روزہ افطار کر سکے پھر پانی کی ایک خوبی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ اتنی پاک چیز ہے کہ ہر چیز اس سے پاک ہو جاتی ہے، ظاہر کا پاک ہونا تو محسوس امر ہے، بالآخر اس سے پاک ہو جاتا ہے، روزہ دار حب دن بھر خدا کی خوشبوی کے لیے سوری ایمان کے ساتھ پیاسا رہے گا اور شام کو ٹھنڈے سے پانی سے اپنی پیاس بجھائے گا تو بے اختیار شکر و احسان مندی کے ہندہات پیدا ہوں گے جن سے اس کے بالمن کو جلا نصیب ہوگی۔

مگر یہ خیال رہے کہ اس معاملے میں غلو کرنا، اور کسی دوسری چیز سے افطار کو غیر مستقیماً فعل سمجھنا سراسر غلط ہے اسی طرح یہ خیال بھی غلط ہے کہ نک سے افطار کرنا بڑا اجر و ثواب ہے۔

افطار کی دعا

اللَّهُمَّ لَكَ صَمْرَةٌ وَعَلَى رِحْمَتِكَ أَفْطَرْتُ - لَهُ

”اے اللہ! میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، اور تیری ہی دی ہوئی روزنی

سے افطار کیا۔“

افطار کے بعد کی دعا

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَتِ الْعَرْوَقَ وَنَكَتَ الْأَجْزُرُ

اُن شَاءَ اللَّهُ - لہ

”پیاس جاتی رہی، رگین سیراب ہو گئیں اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ضرور

ملے گا“

افطار کرنے کا اجر و ثواب

دوسرے کو افطار کرنا بھی پسندیدہ عمل ہے اور افطار کرنے والے کو بھی انسانی اجر و ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے چاہے وہ چند لمحے کملا ہے یا ایک کمبوٹھی سے افطار کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”جب شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کو روزے دار کی طرح

اجر و ثواب ملے گا۔“

بے سحری کارروزہ

شب میں سحری کھلنے کے لیے اگر آنکھوں کھلے تب بھی روزہ رکھنا چاہیئے سحری نہ کھانے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا بڑی کمیتی کی بات ہے مخصوص سحری نہ کھانے کی وجہ سے روزہ چھوڑنا گناہ ہے۔

اگر بھی آنکھ دیر سے کھلی اور یہ خیال ہوا کہ ایسی رات باقی ہے اور کچھ کھا پی لیا پھر معلوم ہوا کہ صحیح صادق کے بعد کھایا پایا ہے تو اگرچہ اس صورت میں روزہ نہ ہو گا لیکن پھر بھی دن بھر روزہ داروں کی طرح رہے اور کچھ نہ کھانے پئے۔

اگر انہی دیر سے آنکھ کھل کر صبح ہو جانے کا شہر ہے تو ایسے وقت میں کہانا پینا مکروہ ہے اور اگر شہر ہو جانے کے باوجود دکھانی لیا تو بہت برآ کیا ایسے وقت میں کھانا گناہ ہے پھر اگر بعد میں یہ معلوم ہو کہ صبح ہو چکی تو قضا داجب ہے، اور اگر شہر ہی رہے تو قضا داجب نہیں لیکن احتیاط کا تفاصیل ہی ہے کہ قضا کا روزہ کیسے۔

وہ مخذل دریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں

الیسی مخذل دریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے صرف دس ہیں ان میں سے کوئی مخذل دری بھی ہوتا روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، ان مخذل دریوں کی تفصیل یہ ہے۔

- ۱۔ سفر۔
- ۲۔ بیماری۔
- ۳۔ حمل۔
- ۴۔ ارمناسع۔ (یعنی بچپے کو دودھ سرپلانا۔)
- ۵۔ گھوک پیاس کی شدت۔
- ۶۔ ضعف اور بڑھاپا۔
- ۷۔ خوف ہلاکت۔
- ۸۔ جہاد۔
- ۹۔ بے ہوشی۔
- ۱۰۔ جنون اور دیوانگی۔

سفر

شریعت نے اپنے سارے احکام میں بندوں کی سہولت اور آسانی کا پورا پورا الحافظ کیا ہے۔ اور کسی معاملے میں بھی ان کو کسی بے چاشقت اور تنگی میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں روزے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے بھی قرآن نے مسافر اور مریض کی مدد و ری کا الحافظ کیا ہے اور ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔

فَمِنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَعْصُمْهُ وَمَنْ تَأْتَى مَرِيضًا
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَلَّمَهُمْ أَيَّامًا مِّنْ أَخْرَى (آل بقرہ: ۱۸۵)

”پس تم میں سے جو شخص اس چینی کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس چینی کے روزے رکھے۔ اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرا روزے دنوں میں (روزے رکھ کر گنتی پوری کر لے)“

سفرخواہ کسی بھی غرض کے لیے ہوا اور ہا ہے اس میں ہر طرح کی سہولتیں حاصل ہوں یا مشقیں برداشت کرنی پڑتی ہوں ہر حال میں مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ البته جس سفر میں کوئی خاص مشقت نہ ہو تو مستحب یہی ہے کہ روزہ رکھ لے، تاکہ رستگان کی فضیلت و برکت حاصل ہو سکے لیکن مشقت در پر لشائی کی صورت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔

(۲) اگر روزے کی نیت کر لیتے کے بعد یا روزہ شروع ہو جانے کے بعد کوئی شخص سفر پر روانہ ہو، تو اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے البته اگر وہ روزہ توڑے تو کفارہ لازم ڈائے گا۔

(۳) اگر کوئی مسافر نصوت النہار سے پہلے کہیں مقیم ہو جائے اور اس وقت تک اس نے روزے کو فاسد کرنے والا کوئی کام نہیں کیا ہے تو اس کے لیے بھی اس دن روزہ رکھنا ضروری ہے البتہ اگر دو روزہ فاسد کر دے گا تو کفارہ واجب نہ ہو گا۔

(۴) اگر کوئی مسافر کسی مقام پر کچھ دن قیام کا ارادہ کر لے چاہے پسندیدہ دن سے کم ہی کا ارادہ کرے، تب بھی بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے ان ایام میں روزہ نہ رکھنا مکروہ ہے اور اگر پسندیدہ دن قیام کا ارادہ کر لے تو پھر روزہ نہ رکھنا جائز نہیں۔

بیماری

(۱) اگر روزہ نہ رکھنے سے کسی بیماری کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو یا یہ خیال ہو کہ دو اندھنے کی وجہ سے یا غذا نہ ملنے کی وجہ سے بیماری ٹڑھ جائے گی یا یہ خیال ہو کہ دریں صحت حاصل ہو گی تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ ایسا خیال کرنے کی کوئی معقول وجہ ضرور ہونی چاہیئے۔ مثلاً کوئی نیک ماہر طبیب ہدایت کرے، یا اپنا بار بار کا تجربہ ہو، یا مگر ان غالباً ہو، مرض یوں ہی دہم و خیال کی بنابر روزہ ترک کر دینا جائز نہیں۔

(۲) اگر کسی نے مرض لپنے وہم و خیال سے کہ شاید روزہ رکھنے سے مرض پیدا ہو جائے یا ٹڑھ جائے نہ خود اس کا کوئی تجربہ ہے اور نہ اس نے کسی ماہر حکیم اور ڈاکٹر ہی سے مشورہ لیا، اور روزہ نہیں رکھا تو وہ گنہگار ہو گا اور اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔

(۳) کسی بے دین اور شریعت کی قدر دا اہمیت محسوس نہ کرنے والے طبیب کے مشورے پر عمل کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔
حل

(۱) اگر کسی خاتون کو گمان غالب ہو کہ اگر روزہ رکھنے کی توجیہ کو نقصان پہنچے گا یا خود اسی کو نقصان پہنچے گا تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔
(۲) اگر روزہ کی نیت کر لینے کے بعد کسی خاتون کو معلوم ہوئے کہ وہ حاملہ ہے اور اس کا گمان غالب یہ ہے کہ حمل کی صورت میں روزہ اس کے لیے نقصان ہے ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ توڑ دے اور پھر قضاہ کرے، اس پر کفارہ واجب نہ ہو گا۔

ارضاع

(۱) دودھ پلانے روزہ رکھنے سے اگر گمان غالب یہ ہو کہ بچے والی خاتون کو شدید نقصان پہنچے گا۔ مثلاً دودھ خشک ہو جائے گا اور بچہ بھوک سے تڑپے گایا خود اپنی ہی جان کا خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔
(۲) اور اگر اجرت دے کر دودھ پلوایا جاسکتا ہو اور بچہ بھی کسی دوسرے کا دودھ پی لے تو پھر روزہ نہ رکھنا درست نہیں۔ اور اگر بچہ کسی دوسری خاتون کا دودھ پینا ہی نہ ہوتا بھی روزہ چھوڑ دینا درست ہے۔

(۳) اجرت پر دودھ پلانے والے خاتون کو بھی اگر گمان غالب ہو کہ روزہ رکھنے سے بچے کو یا خود اس کو نقصان پہنچے گا تو دہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔
(۴) کسی خاتون نے میں رمضان کے دن ہی دودھ پلانے کی ملازمت

شروع کی، اس دن اگر وہ روزے کی نیت بھی کرچکی ہو تو بھی اس کے لیے روزہ توڑنا
جاائز ہے اور روزہ توڑنے سے اس پر صرف قضالازم ہو گی کفازہ واجب نہ ہو گا۔

بھوک پیاس کی شدت

اگر کوئی شخص بھوک پیاس کی شدت سے اس قدر بے تاب ہو جائے کہ
جان جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے یا عقل میں فتور آنے کا اندازہ ہو تو الیسی صورت
میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔

ضعف اور بُرھاپا

(۱) کوئی شخص اب بیمار تو نہیں ہے لیکن بیماری کی وجہ سے اتنی کمزوری
ہو گئی ہے، کہ روزہ نہ رکھنے سے دوبارہ بیمار پڑ جانے کا گمان غالب ہے تو اس کے
لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔

(۲) کوئی شخص بُرھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گیا ہے اس کے لیے بھی
اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور چونکہ ایسے ضعیف کے بارے میں یہ توقع نہیں
ہے کہ وہ کبھی تندروت ہو کر قضار کھے گا اس لیے اس پر واجب ہے کہ روزے کا فدیہ
ادا کرے، چاہے اسی وقت دسے یا بعد میں ادا کرے، فدریہ کی تعداد فرمی ہے جو صدقہ
فظر کی ہے۔

خوف ہلاکت

اگر محنت مشقت کی وجہ سے سماں ہلاک ہونے کا اندازہ ہو یا کوئی ظالم مجہود کر رہا
ہو کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو جان سے مارڈا لوں گو یا شرید مار لگاؤں گما۔ یا کوئی عضو
کاٹ لوں گا۔ تو ایسے شخص کے لیے بھی اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔

جہاد

دشمنان دین سے جہاد کی نیت ہوا اور یہ خیال ہو کہ روزہ رکھنے سے کمزوری آجائے گی تو اس صورت میں بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔

بالفعل جہاد ہو رہا ہوتا ہی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔

* بالفعل جہاد نہیں ہو رہا ہے لیکن جلد ہی تصادم کا انذار شیرہ میں تباہی اجازت ہے۔

* اور اگر روزہ رکھ لیا ہوا اور ایسا موقع پیش آجائے تو روزہ توڑ دینے کی بھی اجازت ہے، روزہ توڑ دینے سے کفارہ لازم نہ آئے گا۔

بہوشی

اگر کسی پر بے ہوشی طاری ہو جائے، اور کئی دن تک بھی صورت رہے تو اس صورت میں جو روزے رکھے جائیں گے ان کی قضا واجب ہوگی۔ البتہ جس شب میں بے ہوشی طاری ہوتی ہے، اگر اس دن بے ہوش ہونے والے سے کوئی ایسا فعل نہ رہ نہیں ہوا ہے جو روزے کو فاسد کرنے والا ہو۔ اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ بے ہوش ہونے والے نے روزے کی نیت کی تھی یا نہیں، تو اس دن اس کا روزہ بھا جائے گا اور اس دن کی قضا لازم نہ آئے گی البتہ بقیہ سارے دنوں کی قضا واجب ہوگی۔

جنون

اگر کسی پر جنون طاری ہو جائے تو اس حالت میں وہ روزے نہ رکھ سکے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔

ایک یہ کہ کسی وقت بھی جنون میں کوئی افاقت نہیں (زماء الیں) صورت میں تو روزے بالکل معاف ہیں ز قضاہی واجب ہوگی اور نہ فدیہ واجب ہوگا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کسی وقت جنون میں افاقہ ہو جاتا ہو تو اسکل میں اس پر قضا و اجنب ہوگی ۔

دہ صورتیں جن میں روزہ توڑ دینا چاہئے ہے

(۱) یکاک کوئی زبردست دردہ پڑ گیا، یا کوئی الیسی بیماری ہو گئی کہ جان پر بن آئی یا خدا نخواستہ موڑ وغیرہ سے کوئی حادثہ ہو گیا یا کسی اونچے مقام سے گر پڑنے کی وجہ سے حالت غیر ہو گئی تو ان تمام صورتوں میں روزہ توڑ دینا چاہئے ہے ۔

(۲) اگر کوئی اچانک بیمار پڑ گیا اور یہ اندیشہ تو نہیں ہے کہ جان جاتی رہے گی۔ البته یہ اندیشہ ہے کہ اگر روزہ نہ توڑا تو بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو اس صورت میں بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے ۔

(۳) اگر کسی کو ایسی شدت کی بھوک یا پیاس لگی کہ نہ کھانے پینے سے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے تب بھی روزہ توڑ دینا درست ہے ۔

(۴) کسی حاملہ خاتون کو کوئی الیسا حادثہ پیش آگیا کہ اپنی یا بچے کی جان کا ڈر سہے تو اس صورت میں بھی روزہ توڑ دینے کا اختیار ہے ۔

(۵) کسی کو سانپ وغیرہ نے کاٹ کھایا، اور فوراً دوا وغیرہ کا استعمال ضروری ہے تو روزہ توڑ دینا چاہئے ۔

(۶) کمزوری تو تھی لیکن ہر کسے روزہ رکھ لیا دن میں محسوس ہوا کہ اگر روزہ نہ کھولا تو جان پر بن آئے گی یا پھر مرض کا شدید حملہ ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے ۔

قضاروزوں کے سال

- (۱) رمضان البارک کے جو روزے کسی وہی سے رہ گئے ہوں ان کی قضائیں بلا دیر تا نیز کرنا درست نہیں، بہتر یہ ہے کہ جتنی جلد ہو سکے رکھ لے۔
- (۲) رمضان البارک کے روزے ہوں یا اور کسی قسم کے یہ ضروری نہیں کہ مسلسل ان کی قضار کمی جائے اور نہ یہ ضروری ہے کہ عذر ختم ہوتے ہی فوڑا کھلیے جائیں بلکہ جب موقع ہوتا ان کی قضار کر سکتے ہیں۔
- (۳) روزوں کی قضائیں ترتیب فرم نہیں ہے، مثلاً قضاء کے روزے رکھنے بغیر ادا روزے رکھنا درست ہے۔
- (۴) قضاء کے روزے رکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دن اور تاریخ وغیرہ مقرر کر کے چھکھے جائیں۔ بلکہ جتنے روزے قضاء ہو گئے ہیں ان کے ہم لوگ اتنے ہی روز کر کے لینا پاہیزے۔
- (۵) اگر رمضان کے دو سال کے کچھ روزے رہ گئے ہوں تو یہ تعین ضروری ہے کہ کس سال کے روزوں کی قضاء کر رہا ہے، اس لیے یہ نیت گر کے روزے رکھنے کہ میں فلاں سال کے قضاء روزے رکھ رہا ہوں۔
- (۶) قضاء روزے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ رات سے نیت کی جائے

اگر صحیح صادق کے بعد قضا کی نیت کی تو قضا درست نہیں یہ روزہ فعل ہو جائے گا اور قضا کا روزہ پھر کھانا واجب ہے۔

(۷) اگر رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہوں، اور ان کی قضایا کرنے کا موقع نہ مل سکا ہو کر دوسرا رمضان آگیا تو اب رمضان کے ادارے رکھے قضایا کے روزے رمضان کے بعد رکھے۔

(۸) کسی نے شک کے دن میں رمضان کا روزہ رکھا بعد میں معلوم ہوا کہ آج تو شعبان کی ۳۰ نتاریخ ہے تو یہ روزہ فعلی ہو جائے گا اگرچہ مکرہ ہو گا اور اگر معلوم ہونے کے بعد تو ڈے تو اس کی قضایا واجب نہ ہو گی اس لیے کہ فعل مظنوں میں قضایا واجب نہیں ہوتی اور اگر یہ معلوم ہوا کہ آج یکم رمضان ہے تو پھر وہ رمضان کا روزہ قرار پائے گا۔

کفارہ اور اُس کے مسائل

رمضان کا روزہ فاسد ہو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں درمیان میں کوئی تاغزہ کیا جائے اور اگر کسی دبر سے تاغزہ ہو جائے تو پھر نئے سرے سے پورے سالہ روزے رکھے جائیں اور نافعے سے پہلے جو روزے رکھیں تھے ان کا شمار نہ ہو گا۔

اور اگر کوئی شخص کسی دبر سے روزے نہ رکھ سکتا ہو تو پھر سالہ محتابوں کو

سبع و شام پیٹ بھر کھانا کھلانا واجب ہے۔ لہ

(۱) خواتین کے لیے کفارے میں یہ سہولت ہے کہ حیض کی وجہ سے نافذ ہو جانے سے کفارہ کا تسلسل ختم نہ ہوگا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد نافذ نہ کریں پاک ہوتے ہی پھر روزے رکھنے شروع کر دیں۔

(۲) کفارے کے روزے رکھنے کے دوران اگر نفاس کا زمانہ آجائے تو اس سے بھی کفارے کا تسلسل ختم ہو جائے گا۔ اور نئے سرے سے پھر وہ ہیئت کے پورے روزے رکھنا واجب ہوں گے۔

(۳) کفارے کے روزوں کے دوران اگر ماہ رمضان آجائے تو پہلے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد کفارے کے پورے سالہ روزے پھر نئے سرے سے رکھے۔

(۴) اگر ایک ہی رمضان کے دوران ایک سے زائد روزے فاسد ہو گئے ہوں تو سب کے لیے ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔

(۵) اگر کسی پر ایک کفارہ واجب ہرا اور وہ ابھی ادا کرنے نہیں پایا تھا کہ دوسرا واجب ہو گیا تو صرف ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے واجب ہوگا۔ چاہے یہ دونوں کفارے دور رمضان کے ہوں لیکن روزہ فاسد ہونے کی وجہ پر فعل نہ ہو، جنسی فعل کے سبب جتنے روزے فاسد ہوں ان کا کفارہ الگ الگ ادا کرنا ہو گا چاہے پہلا کفارہ ادا نہ کر پایا ہو۔

لہ جہاں غلام آزاد کرنا ممکن ہو اور استطاعت بھی ہو عام مالت میں پہلے غلام آزاد کرنا ہی واجب ہے۔

(۱۴) جنسی فعل کر لینے کی وجہ سے بختے روزے فاسد ہوں ان کا کفارہ الگ الگ ادا کرنा ہو گا چاہے پہلا کفارہ نہ ادا کیا ہو۔

(۱۵) سالم محتاجوں میں یہ الحاظ ضروری ہے کہ محتاج پوری عمر کے ہوں اگر بالکل چھوٹی عمر کے بچوں کو کھلایا، تو ان کے بدلتے ہپر پوری عمر کے محتاجوں کو کھلانا ضروری ہے۔

(۱۶) کھانا کھلانے کے بجائے غلمہ دینا بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ قیمت ادا کر دی جائے۔

(۱۷) محتاجوں کو کھانا کھلانے میں اپنے عام معیار کا الحاظ رکھنے نزدیک ہے۔

واجب ہے اور نہ یہ صحیح ہے کہ سو کمی روٹی ہی دے دی جائے۔

(۱۸) اگر مسکینوں کو کھانا کھلانے میں تسلسل نہ رہے تو کوئی مضائقہ نہیں کفارہ صحیح ہو جاتے گا۔

(۱۹) اگر ایک ہی محتاج کو سالہ دن تک صحیح و شام کھانا دیا تو کفارہ صحیح نہ ہو گا۔ اور یہی صورت غلمہ یا اس کی قیمت دینے میں بھی ہے۔

فِدیہ

بُشَّخْسُ بُرْهَانِ پَرَّ کے باعث انتہائی کمزور ہو گیا ہو یا الیسی شدید زیبادی میں

لے غلمہ صدقہ فطر کے بقدر دینا واجب ہے۔ اس سے کم دیا تو کفارہ صحیح نہ ہو گا۔ صدقہ فطر کی مقدار میں ۱۲۱ پر وہ کہیے۔

میں بتلا ہو کہ بظاہر صحت مند ہونے کی توقع جاتی رہی ہوا دردہ روزہ رکھنے کی سکت نہ رکھتا، تو شریعت نے ایسے لوگوں کو خصوصیت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور ہر روزے کے بعد ایک محتاج کو فدیہ ادا کر دیں، فدیہ میں کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے، غلہ بھی دریا ہا سکتا ہے اور غلے کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔

福德یہ کی مقدار

ایک فقیر کو صدقۃ فطر کے بقدر غلہ دینا۔ یا اتنے غلے کی قیمت ادا کر دینا۔ اور یہ بھی درست ہے کہ ہر روزے کے بعد صبح و شام دلوں وقت کسی محتاج کو کھانا کھلادیں، کھانا کھلانے میں اپنے کھانے پینے کے عام معیار کو سامنے رکھ کر اوسط درجے کا کھانا کھلائیں یادیں۔

福德یہ کے مسائل

(۱) فدیہ ادا کرنے کے باوجود اگر مریض کی صحت خدا کے فضل سے بحال ہو جائے تو روزوں کی قضا واجب ہے اور جو فدیہ ادا کیا جا چکا ہے، اس کا اجر و ثواب بھی خدا عطا فرمائے گا۔

(۲) کسی کے ذمے کچھ قضا کے روزے تھے، مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اگر ان قضا روزوں کا سارا فدیہ چھوٹے ہوئے ایک تہائی مال کے بقدر ہے تو فدیہ ادا کرنا واجب ہے اور

۱۔ صدقۃ فطر کا بیان صفحہ ۱۳۱ پر دیکھئے۔

۲۔ تحریر تکفین کے سارے عقول مصارف کیلئے ادا کر قرض ہوتا اس کو ادا کرنے کے بعد جو مال بچے اس کی تہائی مرا دتے۔

اگر فدیہ کی قیمت زیادہ بن رہی ہے اور تمہائی مال کی مقدار کم ہے تو تمہائی مال سے نہ آمد فدیہ میں ادا کرنے اسی وقت جائز ہے جب وارث برصاور غیرت اس کی اجازت دیں، لبنتہ اس صورت میں بھی نابالغ وارثوں کی اجازت کا کوئی اختصار نہ ہو گا۔

(۳) اگر فدائی دلے نے وصیت نہ کی ہو اور وارث بطور خود چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ ادا کر دیں تب بھی درست ہے اور خدا کی ذات سے توقع ہے کہ وہ فدیہ کو قبول فرمائے اور روزوں کا مو اخذہ نہ فرمائے۔

(۴) ہر وقت کی نماز کا فدیہ بھی اتنا ہی ہے جتنا ایک روز سے کام ہے اور یہ خیال رہے کہ دن میں پانچ فرض نمازوں ہیں اور ایک وقت کی واجب نماز لہذا چھ نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہو گا۔

(۵) کسی کی نمازوں چھوٹ گئی ہوں اور وہ مرتے وقت وصیت کر جائے کہ اس کے مال میں سے نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے تو اس کے احکام بھی وہی ہیں جو روزے کے فدیے کے ہیں۔

(۶) مرنے والے کی طرف سے اگر وارث روزے رکھ لیں یا اس کی قضانازوں پڑھ لیں، تو یہ درست نہیں۔

(۷) معمولی سی بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ قضایا کرنا اور یہ خیال کرنا کہ پھر قضایا کر لیں گے یا فدیہ ادا کر کے سیکھ جانا کہ روزہ کا حق ادا ہو گیا صحیح نہیں رمضان کا روزہ اسی صورت میں چھوڑے جب واقعی روزہ رکھنے کی سخت نہ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”بعض شخص نے رمضان کا کوئی ایک روزہ بھی کسی عذر اور بیماری کے بغیر چھوڑ

دیا تو عمر بھر کے روزے رکھنے سے بھی اس کی تلاشی نہیں ہو سکتی ॥ لہ

روزول کے متفرق احکام و آداب

(۱) جو لوگ کسی دن بھر سے روزہ رکھنے میں معدود رہوں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ رمضان میں کھلیم کھلانے کھائیں اور بظاہر روزہ داروں کی طرح نہیں۔

(۲) جن لوگوں میں وہ ساری شرائط موجود ہوں جن کے ہوتے روزہ رکھنا صحیح بھی ہے اور واجب بھی۔ پھر کسی دن بھر سے ان کا روزہ فاسد ہو جائے تو ان پر واجب ہے کہ دن کے باقی حصے میں روزے داروں کی طرح رہیں اور کھانے پینے اور جنسی افعال سے پرہیز کریں۔

(۳) کوئی مسافر نصف النہار کے بعد اپنے گھر پہنچ جائے یا کہیں قیام کا ارادہ کر لے تو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ دن کے باقی حصے میں روزہ داروں کی طرح رہے اور کھانے پینے وغیرہ سے پرہیز کرے۔ اسی طرح کوئی خاتون اگر نصف النہار کے بعد حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے تو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ شام تک کھانے پینے سے پرہیز کرے۔

(۴) اگر کوئی شخص قصد روزہ فاسد کر دے، یا کوئی شخص یہ سمجھد کر کہ رات باقی ہے صحیح صادق کے بعد کھانا کھائے، تو اس کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ دن کے باقی حصے میں روزے داروں کی طرح رہے اور کھانے پینے وغیرہ سے جذاب کرے۔

(۵) اگر بچہ نصف النہار کے بعد بالغ ہو جائے، یا کوئی غیر مسلم ایمان لے آئے تو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ شام تک روزہ دار کی طرح کھانے پینے غنیمہ سے رُکار ہے۔

(۶) اگر روزہ رکھنے کے بعد کسی خاتون کو حیض آجائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا لیکن اس کے لیے بھی مستحب ہی ہے کہ روزہ داروں کی طرح رہے اور کھانے پینے سے اجتناب کرے۔

نفل روزوں کی فضیلت اور مسائل

ماہ شوال کے چھوڑ روزے ان روزوں کو عرف عام میں شیش عید کے روزے کہا جاتا ہے، حدیث میں ان کی بہت فضیلت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

«جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس نے شوال میں چھوڑ روزے رکھے تو اس نے گویا ہمیشہ روزے رکھے ॥ لہ نیز آپ نے فرمایا ہے۔

«جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے چھوڑ روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا کہ آج ہی اس کی ماں

نے اس کو حتم دیا ہے" لہ

- (۱) یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ روزے عید کے بعد لگانامار رکھے جائیں لکھا تاریخ بھی رکھے جاسکتے ہیں اور یہ میں ناغز کر کے بھی رکھے جاسکتے ہیں۔
- (۲) یہ بہتر ہے کہ شوال کی دوسری تاریخ سے ان روزوں کی ابتداء کردی جائے لیکن ضروری نہیں۔ پورے صہیونی میں جس طرح بھی ہولت ہو چکر روزے رکھ دیے جائیں۔

یوم عاشورہ کا روزہ

محرم کی دسویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں اس دن مکے کے قریش بھی روزہ رکھتے تھے اور خانہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھاتے تھے، اور اس روزے کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف غسوب کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے، اس کے بعد جب آپؐ بھرت فرمادی تشریف لائے تو آپؐ نے دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں تو آپؐ نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی تاکید فرمائی کہ روزہ رکھیں۔

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے بھرت فرمادی تشریف لائے تو آپؐ نے یہود کو یوم عاشورہ (یعنی محرم کی دسویں تاریخ) کا روزہ رکھتے دیکھا، تو آپؐ نے ان سے دریافت فرمایا "تمہارے نزدیک اس دن کی کیا خاص اہمیت ہے کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو؟"

ان لوگوں نے جواب دیا، ”ہمارے ہاں یہ بڑی غلطیت والا دن ہے، اسی دن خدا نے موسیٰ (علیہ السلام) اور ان کی قوم کو نجات نجیبی کی اور فرعون اور اس کے شکر کو خرق کر دیا تھا، تو موسیٰ (علیہ السلام) نے خدا کے اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا، پس ہم بھی راسی ہیں، اس دن کا روزہ رکھتے ہیں“۔
 جی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”موسیٰ (علیہ السلام) سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حق دار ہیں (کہ اس دن روزہ رکھیں)، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔“ لہ بہتر پہ ہے کہ دسویں تاریخ کے ساتھ نویں تاریخ یا گلیار ہویں تاریخ کا روزہ بھی رکھا جائے۔ تاکہ اس دن کی فضیلت بھی حاصل رہے اور یہود کے ساتھ مشابہت بھی نہ رہے۔

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ روزہ رکھنے لگے اور صحابہ کو بھی رکھنے کی تاکید فرماتے، تو صحابہ نے آپ سے عرض کیا۔ ”یا رسول اللہ! اس دن کو تو سبود و نصاریٰ ہڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں“ (اہم روزہ رکھنے ہیں تو ان کے ساتھ اشاعت ہوتا ہے۔)

آپ نے فرمایا، ”جب اگلا سال آئے گا تو انشا راللہ سبھ نویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے“

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں مگر اگلا سال آنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ

علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔^۱

یوم عرفہ کارروزہ

حج کے مہینے کی نویں تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، حدیث میں اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

”میں خدا کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کارروزہ آنے والے سال اور گزرے ہوئے سال دنوں کے لیے کفارہ قرار پائے گا“^۲
نیز آپ نے فرمایا۔

”عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا اجر دُو اب ایک ہزار دن کے روزوں کے برابر ہے“^۳

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا بہت اہتمام فرماتے تھے، یوم عرفہ سے پہلے کے آٹھ دنوں میں روزہ رکھنے کا بھی ٹراجمدُ ثواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”دنوں میں کسی دن کی عبادت بھی خدا کو اتنی محبوب نہیں ہے جتنی ذرا محبہ کے ابتدائی عشرے میں محبوب ہے، اس عشرے کے ہر دن کارروزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس میں ہر رات کی نفل نماز شب مکمل کے نوافل جیسے ہیں“^۴

۱۔ مسلم۔

۲۔ جامع ترمذی۔

۳۔ الترغیب۔

آیام بیض کے روزے

آیام بیض سے مراد ہر ہدینے کی ۱۳۰۷ھ اور تاریخ ہے، یہ چاندنی کے خاص دن ہیں اسی سلسلے ان کو آیام بیض کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کی ٹبری تاکید فرماتے تھے۔

حضرت قادہ بن ملحان کا بیان ہے کہ «نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تاکید فرماتے تھے کہ ہم آیام بیض یعنی ہدینے کی تیر صویں، چودھویں اور پندرہ صویں تاریخ کو روزہ رکھا کریں، اور فرماتے تھے کہ یہ روزے اجر و ثواب کے لحاظ سے ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہیں۔^۱

پیر اور حجراں کا روزہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پیر اور حجراں کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی ان دنوں میں روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے تھے۔

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ «نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور حجراں کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔^۲ اور امت کو ترغیب دیتے ہوئے آپؐ نے ارشاد فرمایا۔

«اعمال کی ایک پیشی پیر اور حجراں کو ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ جب میرے محل کی پیشی ہو تو میں اسی دنی روزے سے ہوں۔^۳

^۱ ابو داؤد،نسائی۔

^۲ جامع ترمذی،نسائی۔

^۳ جامع ترمذی۔

ایک بار صحابہ نے آپ سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا
تو ارشاد فرمایا۔

”اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا شرعاً“

نقلي روزوں کے متفرق مسائل

(۱) نقلي روزہ رکھ لینے کے بعد واجب ہو جاتا ہے اگر کسی وجہ سے فاسد ہو جائے یا فاسد کر دیا جائے تو اس کی قضا کھانا واجب ہے۔

(۲) نقلي روزہ کبھی بغیر کسی حدود کے توازن ناجائز نہیں البتہ نقلي روزہ فرض روزے کے مقابلے میں معمولی خدر کی وجہ سے کبھی توازن ممکن ہے۔

(۳) اگر کسی نے روزہ دار کی دعوت کی اور یہ خیال ہے کہ مہمان کے ذکھانے سے میریان نا راضی ہو جائے گا۔ یادہ مہمان کے بغیر کھانے کے لیے آمادہ نہ ہو یا میریان کی دلشکنی کا خیال ہو تو اس صورت میں روزہ توازن ناجائز ہے۔ روزہ دار کو چاہئیے کہ اس کی قضا کھلتے۔

(۴) خواتین کے لیے رمضان کے روزوں کے سوا دوسرا کوئی بھی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنا مکروہ تحریکی ہے۔ اور اگر کسی خاتون نے رکھ دیا ہے اور شوہر روزہ توازن کا حکم دے تو تواریخ ضروری ہے پھر اس روزے کی قضا بھی شوہر کی اجازت ہی سے رکھے

(۵) اگر کوئی شخص ان دنوں کے روزوں کی نذر مانے جن میں روزے رکھنا

حرام ہیں مثلاً عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے ایام تو اس کو چاہیئے کہ ان کے بھائے دوسرے دنوں کے رکھے۔

(۶) اگر کسی نے نفسی روزہ رکھا اور اس کے لیہاں مہمان آگیا اور خیال ہے کہ اس نے ہمہان کے ساتھ کھانا نہ کھایا تو وہ خفا ہو جائے گا تو اس صورت میں کبھی نفسی روزہ توڑنا چاہزے ہے۔

(۷) کسی نے عید کے دن کے روزے کی نیت کی اور روزہ رکھ بھی لیا، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑے۔ اور اس روزے کی قضا بھی نہیں ہے (۸) رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ رکھنا درست نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”کوئی شخص رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ رکھ لے مگر ہاں جو شخص اس دن روزہ رکھتا ہو وہ رکھ لے“ ۱۷

نماز تراویح کا بیان

تراویح، ترویجہ کی جمع ہے؛ ترویجہ کے معنی ہیں آرام لینے کے لیے تھوڑی دریہ بیٹھنا، لیکن اصطلاح میں ترویجہ سے مراد وہ جلسہ استراحت ہے جو رمضان المبارک کی راتوں میں پڑھی جانے والی مسنون نماز کے دوران ہر چار رکعت کے بعد کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس میں رکعت نماز کے دوران پانچ تراویح کرتے ہیں۔ اس لیے اس مسنون نماز کو تراویح کہنے لگے۔

نماز تراویح کا حکم
 نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، تبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام فرمایا، اور صحابہ کرام نے بھی، جو شخص کسی عذر کے بغیر تراویح کی نماز ترک کرے گا گنہگار ہو گا، یہی طرح مددوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے اسی طرح خواتین کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ پھر یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نماز تراویح روزے کے تابع نہیں ہے بلکہ یہ سچھنا بالکل غلط ہے کہ تراویح پڑھنا صرف اسی کے لیے ضروری ہے جس

لئے روافض کے علاوہ ہر سلک دالے تراویح کو مسنون ملتے ہیں۔

۳۷ درختار۔

نے دن میں روزہ رکھا ہو، دنوں الگ الگ عبادتیں ہیں جو لوگ کسی عذر اور مجبوری کی دبر سے روزہ نہ رکھ سکیں، مثلاً کوئی مریض ہو یا سفر میں ہوا وہ روزہ نہ رکھے یا خواتین حیض و نفاس کی حالت میں ہوں اور تراویح کے وقت پاک صاف ہو جائیں تو ان کو نماز تراویح پڑھنا چاہیے، نہ پڑھنے کی صورت میں ترک سنت کا گناہ لازم آئے گا۔
نماز تراویح کی فضیلت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رمضان المبارک کے استقبال میں نہایت ہی مؤثر خطبہ دیا، اور فرمایا کہ ”اس ہمینے کی ایک رات اپنی ہے جو بہرہ ہمینوں سے بہتر ہے، اس ہمینے کی راتوں میں اللہ نے تراویح پڑھنا نقل کر دیا ہے۔“

جو شخص اس ہمینے میں کوئی ایک کام اپنے دل کی خوبی سے بطور خود کرے گا تو اس کا اجر و ثواب آنا ہو گا بتنا دوسرے ہمینوں میں فرض کا ہوتا ہے۔“^۱
ایک اور حدیث میں توبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مغفرت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔
ارشاد ہے۔

”جس نے رمضان کی راتوں میں ایسا لی کیفیت اور اجر آخرت کی نیت کے ساتھ نماز (تراویح) پڑھی، اللہ اس کے دوسارگناہ معاف کر دے گا جو اس سے سرزد ہو چکے ہیں۔“^۲

۱۔ یعنی فرض نہیں ہے بلکہ نہ سمجھے، اس لیے کذب کے مقابلے میں بدلنا اور صحیح سب کے لیے بولا جاتا ہے۔

۲۔ مشکلۃ روایت علمان فارسی ڈپوری روایت کافی طویل ہے یہاں اس کا سرف ایک مکمل نقل کیا گیا ہے۔

۳۔ مستحق علیہ۔

نمازہ تراویح کا وقت

جس شب میں رمضان کا چاند تظر آئے اسی شب سے تراویح شروع کی جاتے اور جب عید کا چاند تظر آ جائے تو تراویح چھوڑ دی جاتے۔ تراویح پڑھنے کا وقت عشامی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، اگر کوئی عشاہکی نمازے پہلے تراویح پڑھ لے تو وہ نماز تراویح نہ ہوگی اسی طرح اگر کسی نے نماز عشاء کے بعد تراویح پڑھی اور بعد میں کسی وجبہ سے نماز عشار کا دُہرانا ضروری ہوگی تو اس صورت میں تراویح کی نماز بھی دُہرانی چاہیئے۔ لہ

البتہ مسٹحب یہ ہے کہ تہائی رات کے بعد نصف شب سے پہلے پہلے تراویح کی نماز پڑھ لی جائے، نصف شب کے بعد پڑھنا جائز تو ہے لیکن خلاف اولیٰ ہے۔

لہ قدر مختار۔

لہ تراویح کے لیے افضل وقت کو نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مولانا ابوالاٹی صاحب ہود دری نے اول وقت کو افضل بتاتے ہوئے ٹری دینی دینی ہے۔

”اس امر میں خلاف ہے کہ تراویح کے لیے اہل وقت کو نہیں ہے؟ عشار کا وقت یا تہجید کا؟“ وہاں دونوں کے حق میں ہیں، مگر زیادہ ترجیح آخر وقت ہی کی طرف ہے، البتہ اول وقت کی ترجیح کے لیے یہ بات بہت وذلی ہے کہ مسلمان بھیثیت مجموعی اول وقت ہی کی تراویح پڑھ سکتے ہیں، آخر وقت اختیار کرنے کی صورت میں امت کے سواد علم کا اس ثواب سے محروم رہانا یک بڑا نقصان ہے اور اگرچہ صلحاء آخر وقت کی فضیلت سے مستفید ہونے کی خاطر اول وقت کی جماحت میں شرکیں نہ ہوں تو اس سے یہ اندریشہ ہے کہ سوام انس یا تو ان صلحاء سے بدگان ہوں یا ان کی عدم شرکت کی وجہ سے خود ہی تراویح چھوڑ دیں یا پھر ان صلحاء کو انہی تہجد خوانی کا دعویٰ دو را پیش نہ پر بھجو رہنا پڑے (رسائل وسائل حصہ دوم ص ۲۷۳ زیرخوان رمضان میں قیام اللہیل)۔

نماز تراویح کی جماعت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان البارک میں تین شب، یعنی ۲۵، ۲۶ اور ۲۷ ربیع الثانی کو تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی، پھر جب آپ نے صحابہ کا ذوق و شوق اور کثرت دیکھی تو آپ مسجد میں تشریف نہ لائے، صحابہ کو بھی کہ شاید آپ سو گئے اور دردناک سے پر آگر آپ کو پھکارنے لگے تو آپ نے فرمایا۔

خدایہ مارے ذوق و شوق میں اور برکت دے، میں اس احادیث کی وجہ سے باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جاتے، اور تم ہمیشہ اس کی پابندی نہ کر سکو گے، اس لیے تم اس کو اپنے گھروں میں پڑھتے رہو، کیونکہ فعلی نمازوں کا گھروں میں پڑھنا زیادہ باعث اجر و برکت ہے۔^{۱۰}

اس حدیث سے صرف اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ نماز تراویح جماعت سے پڑھنا جائز ہے اس لیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شب جماعت سے تراویح پڑھائیں اور آپ کے بعد بھی صحابہ کرام متفرق طور پر چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں تراویح باجماعت پڑھا کر تھے یہاں تک کہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی باقاعدہ جماعت قائم فرمائی۔ اور صحابہ کرام نے اس کو قبلہ کیا۔

اور بعد میں کسی خلیفہ نے اس مذمت کی مخالفت نہیں کی، اسی لیے علماء نے تراویح کی جماعت کو مذمت ملکہ و کفاریہ کہا ہے۔^{۱۱}

۱۰۔ میموجسلم۔

۱۱۔ نماز تراویح کی جماعت کے بارے میں کسی نے مولانا ابوالا علی مسودہ دی سے سوال کیا تھا، (باتی بر مصہد)

(بقيه خاشیہ ص ۱۹) اس سوال کا جواب مولانا نے بڑی وضاحت سے دیا ہے، اس سے اس
مسئلے پر بڑی اچھی روشنی پڑتی ہے، ذیل میں یہ سوال و جواب نقل کرتے ہیں۔

سوال:- علام رکن بالعلوم یہ کہتے ہیں کہ تراویح اول وقت میں (اعشار کی نماز کے متصل) پڑھنا
افضل ہے اور تراویح کی جماعت سنت مذکورہ کفایہ ہے۔ یعنی اگر کسی محلہ میں تراویح باجماعت نہ ادا
کی جائے، تو اہل محلہ گنہجگار ہوں گے اور دو آذیوں نے بھی مل کر مسجد میں تراویح پڑھنی تو سب کے
ذمے سے ترک جماعت کا گناہ ساقط ہو جائے گا کیا یہ صحیح ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو حضرت ابوکعب مددیق
کے زمانہ میں کیوں ایسا نہیں ہوا؟ اور اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہو گا؟ کیا وہ سب
تراویح باجماعت پڑھنے کی وجہ سے گناہ گا رہتے؟

جواب:- حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے زمانے سے لے کر حضرت عمرؓ کے ابتدائی زمانے
تک باقاعدہ ایک جماعت میں سب لوگوں کے تراویح پڑھنے کا طبقہ رائج رہتا، بلکہ لوگ یا تو اپنے
گھروں میں پڑھتے تھے یا مسجد میں تفرق طور پر چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں پڑھا کرتے تھے،
حضرت عمرؓ نے جو کچھ کیا وہ صرف یہ تھا کہ اس تفرق کو دور کر کے سب لوگوں کو ایک جماعت کی
شکل میں نماز پڑھنے کا حکم دے دیا اس کے لیے حضرت عمرؓ کے پاس یہ محبت موجود تھی کہ حضور
(صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس سلسلے کو یہ فرمایا کہ دیا تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اور حضور (صلی اللہ
علیہ وسلم) کے گذرا جانے کے بعد اس امر کا اندیشہ باقی نہ رہتا، کہ کسی کے لئے کہ اس سے یہ چیز فرض قرار
پاسکے گی۔ اس لیے حضرت عمرؓ کے تلقین کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے، کہ انہوں نے
شارع کے نشا کو تھیک نہیں سمجھا، اور امت میں ایک بسیح طریقے کو رائج فرمادیا، صحابہ کرام میں
کسی کا اس پر اعتراض نہ کرنا، بلکہ بسر و چشم لے قبول کرنا، یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے شارع
کے اس کو بھی تھیک نہیں پورا کی، کہ ”اسے فرض کے درجے میں نہ کر دیا جائے“ (باتی برقت)

نماز تراویح کی رکعتیں

نماز تراویح کی بینیں رکعتیں اجماع صحابہ سے ثابت ہیں، بینیں رکعتیں اس طرح

(بقیہ حاشیہ ص ۱۹۹) چنانچہ کم اذکر ایک بار تو ان کا خود تراویح میں شریک نہ ہونا ثابت ہے، جب کہ وہ عبید الرحمن بن عبد کے ساتھ ملکے اور مسجد میں لوگوں کو تراویح پڑھتے دیکھ کر اظہار ترجیں فرمایا۔ اور علماء جس بن اپریہ کہتے ہیں کہ جب یعنی یا محلے میں سرے سے نماز تراویح باجماعت ادا ہی شرکی جائے اس محلے کے سب لوگ گنہ ہرگار ہیں وہ یہ ہے کہ تراویح ایک سنت الاسلام ہے جو عبید خلافت راشدہ سے نام امت میں چاری ہے۔ ایک ایسے اسلامی طریقے کو چھوڑ دینا اور یعنی کے سارے ہم مسلمانوں کا اکل کر چھوڑ دینا، دین سے ایک عام بے پرواہی کی علامت ہے، جس کو اگر کوئی اکر لیا جائے تو فتنہ رفتہ وہاں سے عام اسلامی طریقوں کے مت ہانے کا اندیشہ ہے۔

لہ اہل حدیث کے تزویک اکٹھ رکعت پڑھنا ہی سنت ہے، ان کے تزویک بینیں رکعتیں پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ تردد ایسین اکٹھ رکعت ہی کی ہیں اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی کی جس روایت میں بینیں رکعتوں کا ذکر ہے وہ ان حدیثوں کے مقابلے میں ضعیف ہے۔

مولانا مودودی صاحب نے اس سننے کے ذیل میں جو اظہار خیال فرمایا ہے زیر یاد ہے اس کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جب باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا سلسہ شروع ہوا تو بالاتفاق صحابہ بینیں رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، اور اسی کی پیروی حضرت عثمان بن عفیؓ اور حضرت علیؓ کے زمانہ میں بھی ہوتی تھیں اس پر الفاق اور پھر صحابہ رضی کا اس میں اختلاف نہ کرنا یہ ثابت گرتا ہے کہ ترسیل اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لوگ تراویح کی بینیں ہی رکعتوں کے عادی تھے، یہی وجہ ہے کہ امام ابوحنیفہؓ امام شافعیؓ، اور امام احمدؓ تینوں بینیں ہی رکعت کے قائل ہیں اور ایک قول امام مالکؓ کا (رباتی برصلت)

پڑھی جائیں کہ ہر دور کعت کے بعد سلام پھیرا جائے اور ہر چار رکعت کے بعد تزویج ہیں اتنی
دریز بیٹھا جائے جب تک دریز میں چار رکعتیں پڑھی گئی ہیں، تو زوجہ میں اتنی دریز بیٹھنا مستحب ہے، ہاں
اگر محسوس ہو کہ مقتدی اتنی دریز تک بیٹھنے میں پریشانی محسوس کرتے ہیں تو پھر اتنی دریز تک
نہ بیٹھنا چاہیے، بلکہ مقتدیوں کے جذبات کا الحاظ رکھنا چاہیے۔

تزویج میں کیا عمل کیا جائے؟

تزویج کی حالت میں نمازی کو اختیار ہے چاہے خاموش بیٹھا رہے چاہے ذکر قرآن
پڑھے، چاہے نوافل پڑھے، مگر عذر میں لوگ بیٹھنے کے بجائے بیت اللہ کا طواف کیا
کرتے ہیں، مدینہ منورہ میں چار رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ تزویج
میں یہ دعا پڑھی جائے۔

سُبْحَانَ ذِي الْمُكْبُوتِ وَالْمَكْبُوتُ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظِمَةِ

(تفصیل حاشیہ صفت) بھی اسی کے حق میں ہے، داؤ دن ظاہریؒ نے بھی اسی کو سنت ثابتہ سلیمانیہ کیا ہے۔
حضرت عمرؓ بن عبد العزیز اور حضرت ابیان بن عثمانؓ نے میں کے بجائے ۳ رکعتیں پڑھنے کا ہو طریقہ
شروع کیا اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ ان کی تحقیق خلافتے راشدین کی تحقیق کے خلاف تھی، بلکہ ان کے پیش نظر
یہ تفاکر کہ سے باہر کے لوگ ثواب میں اہل مکہ کے برابر ہو جائیں، اہل مکہ کا قاعدہ یہ تھا،
کہ وہ تراویح کی ہر چار رکعت کے بعد کبھی کا طواف کرتے تھے، ان دونوں بزرگوں نے ہر
طواف کے بعد چار رکعتیں پڑھنی شروع کر دیں، یہ طریقہ پونکہ اہل مدینہ میں رائج تھا، اور امام
مالکؓ اہل مدینہ کے عمل کو سند سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے بعد میں ۲۰ کے نجایے ۳۶
سچے حق میں فتویٰ دے دیا۔

وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكُبْرَى وَالْجَمِيعِ فَتَسْمَعَنَ الْمَلَائِكَةُ إِذْ جَئَتْ
أَنَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ سُبُّوْحٌ قُدْرَةٌ، وَتَبَعَّا قَدْرَبِ الْمَلَائِكَةِ
ذَانِرُوْحَ اللَّهُمَّ اجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ يَا مُجِيرُ يَا مُجِيرُ.

پاک و برتر ہے حکومت و اقتدار والا، پاک و برتر ہے عزت و عظمت
ہیبت و قدرت اور بڑائی اور دید بے والا، پاک و برتر ہے وہ زندہ جا ویدا شاہ
جو نہ سوتا ہے اور نہ اس کے لیے فنا ہے، نہایت پاک عیوب سے نظر، ہمارا
بُر دردگار اور فرشتوں کا پروردگار اور جبریل کا پروردگار،
اے اللہ! ہم کو دوزش کے مذاب سے نجات دے۔ اے پناہ دینے
والے، اے پناہ دینے والے، اے پناہ دینے والے!

نماز و ترکی جماعت

صرف رمضان البارک ہی میں و ترکی نماز جماعت سے پڑھنا ثابت ہے۔ رمضان
البارک کے علاوہ دوسرے مہینوں میں و ترکی نماز جماعت سے پڑھنا حائز نہیں ہے۔ جو
لوگ تنہ نماز تراویح ادا کریں وہ بھی نماز و ترجماعت سے پڑھ سکتے ہیں لیکن جو لوگ تراویح
کی نماز جماعت سے ادا کریں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ و ترکی نماز جماعت سے
پڑھیں۔ تراویح کی سنت نماز جماعت سے پڑھ کر و ترکی واجب نماز تنہا پڑھنا درست
نہیں اور اسی طرح یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ تراویح جماعت سے پڑھ کر سوچائے اور پھر تمجد
کے وقت فرہ نماز تنہا ادا کرے۔

تزاویح میں ختم قرآن

رمضان المبارک کے پورے ہمینے میں ایک بار پورا قرآن پاک ترتیب و اختتم کرنا
سنت ہو گئے ہے، ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین کو
پورا قرآن سنایا کرتے تھے اور جس سال آپ ذہن سے خصت ہوتے اس سال آپ
نے دو بار حضرت جبریلؑ کو قرآن سنایا، آپ نے امت کو بھی اس پر ابجرا اور فرمایا۔
”روزہ اور قرآن مون کے لیے سفارش کریں گے، روزہ کہے گا لیکرے

رب امیں نے اس شخص کو دن میں کہنے (پہنچے) اور دوسرا لذتوں سے روکا تو یہ
رُکارہ، تو اے میرے رب اس شخص کے حق میں میری سفارش قبول فرم۔ اور قرآن
کہے گا، کہ میں نے اس کوشش میں سونے را اور آرام کرنے سے روکا (اور یہ اپنی
میٹھی نیند چھوڑ کر تیرے حضور کھڑا قرآن پڑھتا رہا تو اے پردد گارا) اس شخص کے
حق میں میری سفارش قبول فرم۔ پس اللہ ان دونوں ہی سفارشوں کو شرف قبول
عطافرمائے گا ۷۳

صحابہ کرام نے بھی اس سنت کا اہتمام فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نماز باجماعت اور
اس میں پورا قرآن سنانے کے لیے خاص اہتمام فرماتے تھے، دین سے عامہ پر پردازی،
لوگوں کی کاملی اور بے توجی کی دبیرے اس سنت کو چھوڑنا ہرگز صحیح نہیں۔ کم از کم ایک
بار تو تزاویح میں پورا قرآن سننے اور سنانے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے اور جہاں لوگوں میں

ذوقِ شوق اور عبادت و تلاوت سے شفقت محسوس ہو اور یہ بھی اطمینان ہو کہ قرآن پاک پوری دلستگی اور آداب کے ساتھ ظہر ٹھہر کر اس طرح پڑھا جاسکے گا کہ اس کی تلاوت کا حق ادا ہو تو پھر ایک سے زیادہ ختم کرنا بھی پسندیدہ ہے۔ البته تین دن سے کم میں پورا قرآن ختم کرنا صحیح نہیں اس لیے کہ اس صورت میں تلاوت قرآن کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی کیفیت حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ ایک ایک حرفت کو واضح اور ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے اور آپ نے امت کو تزییں اور ظہر اور کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

”قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا۔ جسیں ظہر اور
خوش الحاجات کے ساتھ تم دنیا میں بنانےوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح
قرآن پڑھو، اور ہر آیت کے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ۔ تمہارا
ٹھکانا تمہاری تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے“ ۱۱۷

ضروری بدایت

اگر کہیں نماز و قرآن سے شفقت میں غیر معمولی کمی ہو، اور مقتدریوں کی عامّستی اور غفلت کی وجہ سے یہ اندیشہ ہو کہ اگر تراویح میں پورا قرآن پڑھنے کا اہتمام ہو تو
نہ صرف یہ کہ لوگوں پر یہ بارہ ہو گا بلکہ ممکن ہے لوگ مسجد میں آنے اور حجاجت سے

نماز پڑھنے سے بھی کرتا نہ لگیں تو بہتر ہی ہے کہ ختم قرآن کا اہتمام نہ کیا جائے اور خضر سورتیں ہی سے تراویح پڑھی جائیں، تاکہ تراویح کی سنت سے لوگ محروم نہ رہیں۔ بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے تراویح میں مخفف قرآن سننے اور سنانے ہی کو اصل مقصد سمجھتے ہیں اور تراویح کی نماز ہیں سکون و اعتدال اور خشوع و خضوع کا بالکل لمحاظ نہیں کرتے حالانکہ ہی نماز کی جان ہے، اور پھر ایسے لوگ جب رواں دواں پورا قرآن تراویح میں لیتے ہیں تو پھر نہ وہ تراویح پڑھنے کا کوئی اہتمام کرتے ہیں اور نہ جماعت سے تراویح پڑھنے کے لیے مسجد آنا ضروری سمجھتے ہیں یہ طرز فکر انتہائی غلط ہے اگر پورا قرآن سننے کا موقع نہ ہو یا قرآن ختم ہو جائے تو بھی تراویح کی نماز ایک مستقل سنت منوکدہ ہے، اس کے اہتمام میں ہرگز غلطی نہ برداشتا چاہیے۔

نماز تراویح کے متفرق مسائل

- (۱) تراویح کی نیت اس طرح کرے۔ نیت کرتا ہوں کہ دور کعت سنت تراویح پڑھوں، اور پھر دور کعت کی نیت باندھ کر دس سلام کے ساتھ ہیں رکعتیں پوری کرے۔
- (۲) نمازو تراویح کے بعد پڑھنا افضل ہے لیکن کسی وجہ سے اگر کچھ تراویح پڑھنے سے پہلے یا ساری ہی تراویح پڑھنے سے پہلے نمازو تراویح پڑھ لی تو یہ بھی جائز ہے۔^۱

- (۳) اگر کوئی مقتدی دیر سے آیا اور اس کی کچھ تراویح باقی تھیں کہ امام و ترویں کے لیے کھڑا ہو گی تو اس کو چاہیئے کہ ذرا امام کے پیچے پڑھ لے اور اپنی باقی تراویح

بعد میں پوری کر لے۔

(۴) چار رکعت پڑھنے کے بعد تر دیکھ میں اتنی دیر بیٹھ کر آرام لینا مستحب ہے جتنی دیر میں چار رکعت پڑھی گئی ہیں، لیکن جہاں اتنی دیر بیٹھنا مقتولوں پر بار ہونے لگے تو وہاں تھوڑی دیر بیٹھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔

(۵) اگر کوئی شخص عشار کے فرض پڑھے بغیر تراویح کی نماز میں شرکیک ہو گیا تو اس کی تراویح درست نہیں، اس کو چاہیے کہ سپنے عشار کی نماز پڑھے پھر تراویح ادا کرے، تراویح کا وقت عشار کے فرضوں کے بعد ہے۔

(۶) اگر کسی نے عشار کے فرض جماعت سے ادا کیے اور تراویح جماعت سے نہیں پڑھیں، اس کے لیے بھی وتر کی نماز جماعت سے پڑھنا درست ہے۔

(۷) اگر کسی شخص نے عشار کے فرض جماعت سے نہ پڑھے وہ بھی نماز وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔

(۸) کسی عذر کے بغیر بیٹھ کر تراویح پڑھنا مکروہ ہے البتہ کوئی عذر ہو تو بیٹھ کر پڑھنا درست ہے۔

(۹) جو شخص عشار کے فرض جماعت سے نہ پڑھ سکا ہو اس کے لیے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا درست ہے۔

(۱۰) فرض اور وتر ایک امام پڑھائے اور تراویح دوسرا امام پڑھائے یہ بھی درست ہے، حضرت عمرؓ فرض اور وتر کی امامت خود فرماتے اور تراویح کی امامت حضرت ابی ابن کعبؓ فرمایا کرتے تھے۔

(۱۱) اگر تراویح کی کچھ رکعتیں کسی دیگر سے فائدہ ہو جائیں اور ان کا اعادہ کرنا

ضروری ہے تو پھر قرآن پاک کے اُس حجتہ کا اعادہ بھی کرنا چاہئے جو فاسد شدہ رکعتوں میں پڑھا گیا تاکہ ختم قرآن صحیح نماز ہیں ہو۔

(۱۲) تراویح میں دوسری رکعت میں عبیضہ کے سجائتے امام کھڑا ہو گیا اگر تیسرا رکعت کے سجدے سے پہلے پہلے یاد آجائے یا کوئی مقتضدی یاد دلادے تو امام کو چاہئے کہ قعدہ میں عبیضہ ہائے اور تشدید پڑھ کر سجدہ ہے ہو کرے پھر نماز پوری کر کے سلام پھیر دے۔ یہ دونوں رکعتیں صحیح ہوں گی اور اگر تیسرا رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا تو ایک رکعت اور ملا کر چار رکعتیں پوری کرے، اس صورت میں یہ چار رکعتیں دو رکعتوں کے قائم مقام ہوں گے۔

(۱۳) اگر امام دوسری رکعت میں قعدہ کے لیے عبیضہ پھر بھولے سے تیسرا رکعت کے لیے اکٹھ کھڑا ہو ادا اس صورت میں چار رکعتیں پوری کیں تو یہ چاروں رکعتیں صحیح شمار ہوں گی۔

(۱۴) جن لوگوں نے عشرات کی نماز جماعت سے نظر ڈھی ہوان کے لیے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا، درست نہیں، اس لیے کہ فرض نماز تنہا پڑھ کر نفل نماز جماعت سے پڑھنا، نفل کو فرض پر ترجیح دینا ہے اور یہ درست نہیں۔

(۱۵) جو لوگ فرض نماز جماعت سے پڑھ کر تراویح جماعت سے پڑھ رہے ہوں ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شرکیں ہو سکتے ہیں جنہوں نے فرض نماز جماعت سے نہیں ڈھی ہے، اس لیے کہ یہ لوگ ان لوگوں کے تابع سمجھے جائیں گے جو فرض نماز جماعت سے پڑھ کر تراویح باجماعت پڑھ رہے ہیں۔

(۱۶) اگر کوئی شخص سجدہ میں ایسے وقت پہنچے جب عشرات کے فرض ہو جکے ہوں تو وہ

پہلے فرض ادا کرے پھر تزادیح میں شرک ہو، اور تزادیح کی جو رکعتیں رہ گئی ہوں ان کو یا تو ان وقفتوں میں ادا کرے جب، امام تزویہ میں بیٹھا ہو، یا پھر ذر جماعت سے ادا کر کے بعد میں ٹپھے۔

(۱۷) جن لوگوں نے عشار کی نماز جماعت سے نہ پڑھی ہو، بلکہ تنہا پڑھی ہو وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ دوڑ کی جماعت میں شرک ہو سکتے ہیں جو فرض نماز جماعت سے پڑھ کر دوڑ با جماعت پڑھ رہے ہوں۔

(۱۸) آج کے دور میں شبینہ کا جس طرح روایج ہو گیا ہے یہ ہرگز درست نہیں پڑھنے والا انتہائی بے پرواہی کے ساتھ روایں دوال پڑھتا جاتا تھا ہے، مذکور اس کو صحیح اور غلط کی خفر ہوتی ہے، مذکور تلاوت کا الحافظ ہوتا ہے، اور مذکور اس سے اثر لینے اور بدایت پانے ہی کا کوئی احساس ہوتا ہے، میں کسی طرح ختم کر دینا ہی مقصود ہوتا ہے، پھر مقیدیوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ میں چند افراد تو امام کے پیچے ضرور کھڑے ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی اکثر چند رکعت ہی امام کے ساتھ پڑھتے ہیں ورنہ عام طور پر لوگ پیچے بیٹھے گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں کچھ بیٹھے بیٹھے داد دیتے رہتے ہیں، کچھ تفریحی انداز کی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ قیام میں اور تلاوت قرآن نہیں ہے جس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی اور جس کو صحابہ کرام سنت سمجھ کر اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ درحقیقت قرآن کے ساتھ صریح ظلم ہے اور قیام میں اور تلاوت قرآن کے مقصد کے ساتھ مذاق ہے (قرآن میں ہے)۔

كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْنَا مُبِينٌ لَّيْلًا بَرُّ وَالنَّهُ وَالْيَمِينُ وَلِيَتَكَذَّبَ كُلُّ

أَفْلُوَالَّلُبَابُه (ص: ۲۹)

”یہ کتاب غیر و رکت کا سر پتھر ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر خور کر جیں اور حق و غلط و لائے اس سے بحق نہیں ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ۔

”وجن شخص نے تین دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے ہرگز قرآن کو نہیں بجا ۔“
اور قرآن پاک میں ہے ۔

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَشْتَمُوا إِلَيْهِ وَلَا يَحْمِلُونَ
”اور حب قرآن پڑھا جائے تو پوری قوبہ کے ساتھ سنو ۔“

(۱۹) تراویح میں قرآن پڑھنے کی صورت میں ضروری ہے کہ کسی ایک سورت کے شروع میں بلند آواز سے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ پڑھی جائے اس لیے کہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، پورا قرآن ختم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو پڑھے اور پورا قرآن سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو سننے اس لیے ماقبل کو چاہیئے کہ وہ بلند آواز سے پڑھے۔ عالم ظور یہ لوگ قُلْ هُوَ اللّٰهُ کے شروع میں بِسْمِ اللّٰهِ
پڑھتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں، جس سورت میں شروع میں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ کبھی تو قصداً کسی دوسری محورت کے شروع پڑھنا چاہیئے تاکہ لوگ ”قُلْ هُوَ اللّٰهُ“ کے شروع میں پڑھنا ضروری نہیں ۔ البترجن لوگوں کے نزدیک یہ ہر سورت کی ایک آیت ہے ان کو تراویح میں ہر سورت کے شروع میں پڑھنا چاہیئے ۔ ۳۶

۳۶۔ جامع ترددی۔
۳۶۔ حلیفہ کا مسلک یہی ہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، البترہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اودھ کوفہ کے قرار کا مسلک یہ ہے کہ یہ ہر سورت کی ایک آیت ہے ۔

(۲۰) تراثیع میں بعض لوگ ہمین بار "تُلْ هُوَ اللَّهُ" پڑھتے ہیں، ایسا کرنامکروہ ہے۔ ۱۷

(۲۱) قرآن پاک ختم کرنے کے بعد فوراً دوسرا قرآن شروع کر دینا مستون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ خدا کو یہ بات بہت لپندا ہے کہ جب ایک بار قرآن شریف ختم ہو تو فوراً دوسرا شروع کر دیا جائے۔ اور دوسرا شروع کو **أَدْلِيلَكُمْ الْمُغْلِظُونَ تَكَبَّرُوا كَرْهًا** کو دیا جائے۔ ۲۸

۱۷ بعض فقہاء نے قل ہواللہ کو تین بار پڑھنا مستحب کہا ہے لیکن یہ اس سورت میں ہے جب قرآن تماز میں فر پڑھا جا رہا ہو بلکہ تماز کے باہر پڑھا جا رہا ہو۔
۲۸ علم الفقہ جلد ۲ ص ۳۴۱۔

شاعت قرآن کے آداب

(۱) طہارت

قرآن پاک خدا کے قدوس کا نہایت مقدس اور باعظمت کلام ہے۔ اس کو ہاتھ لگانے اور تلاوت کرنے کے لیے طہارت اور پاکی کا پورا پورا اعتماد کرنا چاہیے۔ اگر دھنوں ہو تو دھنو کر لینا چاہیے۔ اور اگر عسل کی حاجت ہو تو غسل کر لینا پڑتا ہے۔

شہزاد کا ارشاد ہے۔

لَا يَمْسِهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ (داقہ، ۹)

«اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو نہایت پاک ہیں ۹۔

جیعنی دنفاس اور جنابت کی حالت میں قرآن سخنان تو جائز ہے لیکن پڑھنا اور چھوپنا منوع ہے، دھنو کے بغیر پڑھنا تو صحیح ہے لیکن چھوپنا مناسب نہیں، حضرت عالیہ ﷺ کا بیان ہے کہ،

«بَنْيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرْ حَالٍ مِّنْ تَلَادَتْ فَرِمَّا يَكْرَتْ تَحْتَهُ، يَا وَصْنُوبِي ادْعُ بِدِنْهُو
بَحْبَي الْبَتْهَ جَنَابَتْ كَيْ حَالَتْ مِنْ كَبْحَيْ تَلَادَتْ نَهْ فَرِمَّا تَهْ، حَضْرَتْ عَزْلَهُ كَأَبِيَّ بَيَانَهُ ہے كَرْبَيْ سَلَّيْ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَرْشَادَهُ۔

«جیعنی دانی خاتون اور جنابت والا آدمی قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھے۔»

(یعنی اس طرح کی حالت میں قرآن کی تلاوت قطعاً منوع ہے)۔

(۲) اخلاص نیت

قرآن کی تلاوت کے وقت اخلاص نیت کا پورا پورا انتہام کرنا چاہیئے۔ تلاوت کا مقصود حق خدا کی رحمتاً اور طلبِ ہدایت ہونا چاہیئے۔ لوگوں کو اس کے ذریعے اپنا گردیدہ بنتا، اپنی خوش الحانی پر فخر کرنا اور اپنی دینداری کی دعائیں بھانا اور لوگوں سے تعریف کی خواہش رکھنا انتہائی لحظی مقاصد ہیں، ایسے ریا کار اور دنیا پرست قرآن خواں قرآن سے ہرگز ہدایت نہیں پاتے، یہ لوگ قرآن کی تلاوت کے باوجود قرآن سے بہت دور رہتے ہیں دراصل جو دل گندے خیالات، رکیک ہدایات اور ناپاک مقاصد سے آلو دھے ہے اس کو نہ تو قرآن کی عظمت و شان کا شعور ہی ہو سکتا ہے اور نہ دہ قرآن کے معارف و حقائق میں سے حصہ پا سکتا ہے۔

(۳) پابندی اور التزام

قرآن کی تلاوت روزانہ پابندی کے ساتھ کرنی چاہیئے۔ بلا ناغہ روزانہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا مستحب ہے، تلاوت کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے لیکن موذوں ترین وقت صحیح کا وقت ہے، اور جن خوش نصیبوں کو خدا نے حفظ قرآن کی سعادت سے نواز لے ان کے لیے کیسے تو روزانہ پڑھتے رہنا اس لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ اس کے لغیر قرآن پا نہیں رہتا اور قرآن پاک یاد کرنے کے بعد بھجوں جانا سخت گناہ ہے۔

”نَبِيٌّ مُّصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا ارشاد ہے۔“

”بُرْ شَخْصٌ نَّمَّ قُرْآنَ پَأْكَ حَفْظَ كِبِيَا اُوْرَ كَبِيرَ بِيلَادِيَا وَهَ قِيَامَتَ كَمَ دَنْ جَذَامِي“

ہو گا ۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

”قُرْآنَ کَمَ نَكْرَ كَصُورَ زَيْرَ تَهَارَ بَيْ سَيْنَوْنَ سَمَّنَ سَكَلَ جَاءَتَ گَاهَ خَدَائِيَ قَسْمَ،
جَسَ طَرَحَ وَهَ اُونَثَ بِهَأْجَ جَاتَابَهَ، جَسَ کَمَ رَسَى ڈَعِيَلَ ہُوْ گَئَ ہُوْ ٹَھِيکَ اسَيَ
طَرَحَ مَعْسُولَيِ خَفَلَتَ اُوْرَ لَآ پَرَ دَاهِيَ کَمَ باِعَثَ قُرْآنَ سَيْنَهَ سَمَّنَ سَكَلَ بِهَأْجَتَابَهَ یَهَ“

اور آپ نے پاہندِی کے ساتھ تلاوت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا۔

”بُرْ شَخْصٌ نَّمَّ قُرْآنَ پَرَهَا، اُوْرَ رَوزَانَهَ پَاہَنَدِيَ سَمَّنَ اسَيَ تَلَادَتَ کَرَتَنا
رَهَتَابَهَ اسَيَ کَمَشَالَ اِيَسِيَ ہَبَے جَسَیِيَ شَكَ سَمَّنَ بَهَرِيَ ہُوْتَيَ زَبِيلَ کَمَ اسَيَ خَوَشَنَوَ
چَارَ سُوْ ہِبَكَ رَهِيَ ہَبَے۔ اُوْرَ جَسَ نَمَّ قُرْآنَ پَرَهَا لَيْكَنَ وَهَ اسَيَ تَلَادَتَ نَهِيَنَ گَرَتَهَ،
اسَيَ کَمَشَالَ اِيَسِيَ ہَبَے جَسَیِيَ شَكَ سَمَّنَ بَهَرِيَ ہُوْتَيَ بَوَلَ کَمَ اسَيَ کَوَذَاثَ لَحَّاكَرَ بَهَنَدَ
کَرَوَيَگَيَ ہَبَے ۔“

اور آپ نے فرمایا کہ خدا کا ارشاد ہے۔

”بُوْ بَنَدَهَ قُرْآنَ کَتَلَادَتَ بَيْسَ اسَ قَدَرَ مَشْغُولَ ہُوْ کَرَهَ وَهَ بَحَرَ سَمَّ دَعَامَنَگَنَهَ
کَامَقَعَ ذَهَابَسَکَهَ، توْبَيَسَکَهَ اسَ کَوَلَنَگَنَهَ بَغِيرَهِيَ مَنْجَنَهَ دَالَوَنَ سَمَّ زَيَادَهَ دَوَنَ گَاهَ ۔“

لَهَ صَحْيَحُ الْبَخَارِيَ -

لَهَ صَحْيَحُ الْمُسْلِمَ -

لَهَ تَرْمِذِيَ -

لَهَ تَرْمِذِيَ -

(۴) تجدید و خوشحالی

ذوق و شوق، خوش الحانی اور دلستگی کے ساتھ تجوید کا لحاظ کرتے ہوئے مٹھر مٹھر کر پڑھنا چاہیے۔ اس سے پڑھنے والے کے دل پر بھی اثر پڑتا ہے اور سننے والے کو بھی روحانی سر درملتا اور جذبہ عمل بیدار ہوتا ہے۔ بے دلی کے ساتھ روایں دوان پڑھنا اور صحیت حروف کا لحاظ نہ رکھنا کروہ ہے، اور صحیح صحیح قرآن پڑھنا واجب ہے، ش، ق، اور ح، خ، ع، غ، وغیرہ حروف کو صحیح مخارج سے ادا کرنا، اور دقت کرنے اور ملانے کے مواقع کو جائز اور صاف صاف ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سکون کے ساتھ ایک ایک حرف کو واضح اور ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے۔

”اپنے لہجہ اور حسن آفال سے قرآن کو آراستہ کر دیا۔“
درآم نے فرمایا۔

”بُو شُخْصٍ خوشِ الحافی کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کرنا وہ بہم میں سے
نہیں چلتا۔

سے (بوداوار)

لیکن اس کا محاذاہ ہے کہ تصنیع اور بنادٹ نہ ہونے لگے بلکہ فطری انداز میں سادگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ دل خدا کی طرف متوجہ رہے اور نکودن ماش کا جذبہ نہ پیدا ہونے پائے۔

لئے دارمی -

ادر خوش الحانی کے ساتھ تلاوت قرآن کے بے پایاں اجر و انعام کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا۔

”قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کے کہا جائے گا۔ جس شہر اور اور جس خوش الحانی کے ساتھ تم دنیا میں قرآن کو بنا سنوار کر پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن پڑھو، اور ہر آیت کے صلیبے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ، تمہارا ملکہ کا نامہ اسی تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے۔“^{۱۶}

البته پڑھنے میں گانے کی طرح زیر و بم پیدا کرنا، اور راگ کا سائز اختیار کرنا مکروہ تحریکی ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔

(۵) قرآن سنتے کا اہتمام۔

قرآن پاک ذوق و شوق کے ساتھ سنتے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے حضرت خالد رضی بن معدان کی روایت ہے کہ قرآن سنتے کا اجر و ثواب قرآن پڑھنے سے دُھرا ہے۔^{۱۷} نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں سے قرآن پڑھوا کر سنتے کا بہت شوق تھا ایک بار حضرت عبد اللہ بن مسعود سے آپ نے فرمایا ”مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ“^{۱۸} حضرت عبد اللہ بن مسعود نے کہا ”حضرت! میں آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے؟“ ارشاد فرمایا ”ہاں سناؤ“ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا پڑھے اور میں سنوں^{۱۹}

^{۱۶} دارمی۔

^{۱۷} دارمی۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فی سورۃ نار پڑھنا شروع کی جب آپ اس آیت پر

جھینچے۔

کَيْفَ إِذَا حِنْتَنَا مِنْ كُلِّ أَمْلَأٍ بِشَهْيْدٍ وَّ حِنْتَنَا بِكَ عَلَى هُولَادَوْ
غَرَبَهْيَدَ اَهْدَا (النساء : ۱۴)

پھر سوچوں اس وقت کیا حال ہو گا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے
اور ان لوگوں پر آئیں کو گواہ کی یقینیت کے لئے اکٹھا کریں گے؟

تو حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا بیں، بیں، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، میں
نے آپ کو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ابتداء قرآن پڑھتے تھے، حضرت عمرؓ کی ملاقات جب
کبھی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ابتداء قرآن پڑھتے تو فرماتے ابو موسیٰ ابھیں اپنے پردگار کی یاد دلاو۔
اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت شروع فرمادیتے، تھے
(۱۴) خود و تدبیر

قرآن پاک کو سوچ سمجھ کر پڑھتے، اس کی آیات پر خور و فکر کرنے اور اس کی
دھوکت و حکمت کو جذب کرنے کی عادت ڈالنی پاہیئے۔ اور اسی عزم و جذبے کے
سامنہ تلاوت کرنی چاہیئے کہ اس کے ادامر کو بجا لانا ہے اور اس کی فواہی سے بپناہے
خدا کی کتاب اسی سیئے نازل ہوئی ہے کہ اس کو سوچ سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کے

لے سیمح بخاری۔

لے مسنون فارمی۔

احکام پر محل کیا جائے۔ خدا کا ارشاد ہے۔

**کتب اُنزَلْنَاكُ أَنَّكَ مُبَرَّكٌ لَيْدَأَ بَرُّ ذَا مِيَتِهِ وَلِيَتَدَكَّرَ
أَدْلُو الْأَلْمَبَابَه** (ص: ۲۹)

«کتاب جو ہم نے آپ کی طرف پہنچی ہے ٹھیک برکت والی ہے تاکہ وہ
اس کی آیات پر خود فکر کریں اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں ॥

قرآن پاک کا تھوڑا سا حصہ سورج سمجھ کر پڑھنا، اور اس کے حقائق و معارف
پر خود فکر کرنا اس سے بہتر ہے کہ آدمی غفلت کے ساتھ فرفکنی کی سوتیں پڑھ جائے۔

حضرت عبد اللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے، «میں "القارعة" اور "القدر"
بسی چھوٹی چھوٹی سورتوں کو سورج سمجھ کر پڑھنا اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ "المقررة"
اوہ "الہمن" بسی ٹھیک سوتیں فرفروڑھ جاؤں اور کچھ نہ سمجھوں ॥

نقل نمازوں میں رسمی جائز ہے کہ آدمی ایک ہی سورت یا ایک ہی آیت بار بار
ڈھراستے اس کی حقیقت و حکمت پر خود کرے، اس سے اثر لے، اور والہانہ انداز میں
بار بار اس کی تلاوت کرے، بنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات

**إِنْ تَعْذِيزَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيَّادُكَ قَرَآنْ لَغْفِرُوا لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُه** (الملائکہ: ۱۱۸)

«اسے خدا اگر قوان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر قوان
کو بخشن دے تو انتہائی ذرودست اور نہایت حکمت دا اے ہے ॥

ایک ہی آیت کو ڈھراستے رہے، بیباں تک کہ صحیح ہو گئی۔

بلاشبہ قرآن کے معافی اور معالب ہانتے بغیر تلاوت کا بھی ٹڑا اجر و ثواب

ہے لیکن دہ تلاوت جس سے قلب و روح کا ترکیہ ہو اور جذبہ عمل میں بیداری پیدا ہو، وہی ہے جو تم سمجھو کر کی جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

”یہ قلوب زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جس طرح لوہا پانی سے زنگ آلود

ہو جاتا ہے۔

صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اپر اس زنگ کو دور کرنے کی تدبیر کیا

ہے؟

فرمایا (ا) کثرت سے موت کو یاد کرنا اور (۲) قرآن کی تلاوت کرنا۔
تورات میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

”میرے بندے مجھے شرم نہیں آتی کہ اگر سفر کے درانِ تیرے بھائی کا خط تیرے پاس سراہ پہنچتا ہے تو توٹھہر جاتا ہے، یا راستے سے الگ ہو بیٹھتا ہے، اور اس کے ایک ایک حرفت کو پڑھتا اور اس میں غور و فکر کرتا ہے، اور یہ کتاب (تورات) میرا فرمان ہے جو میں نے مجھے لکھا ہے کہ تو اس میں برابر غور و فکر کرتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرے، لیکن تو اس سے انکار کرتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرنے سے جی چڑتا ہے، اور اگر پڑھنا بھی ہے تو غور و فکر نہیں کرتا یہ حضرت حسن بصریؓ فرماتے ہیں۔

”اسلاف کو پورا پورا یقین تھا کہ قرآن خدا کا فرمان ہے اور اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے، چنانچہ وہ راتوں کو غور و فکر کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے اور دن کو اس کے احکام پر عمل کرتے، تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ بین اس کے الفاظ پڑھتے ہو، اس کے حروف کے زیر دلہ برد درست کرتے ہو اور رہا عمل تو اس میں نہایت سست اور کوتاہ ہو۔ لہ

(۷) یکسوئی اور عاجزی

تلاوت نہایت توجہ، آمادگی، عاجزی اور یکسوئی کے ساتھ قبلہ رُخ بلیخ کرنا چاہیے۔ تلاوت کے وقت غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنا، یا کسی سے بات چیت کرنا یا کسی اور الیے کام میں مشغول ہونا جس سے یکسوئی میں عمل پڑتا ہو مکروہ ہے۔

(۸) تَعْوِذُ وَتَسْمِيَةٍ

تلاوت شروع کرتے وقت پہلے

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ -

پڑھنی چاہیے۔ اور اگر درمیان میں کسی دوسرے کام کی طرف توجہ کرنی پڑ جائے یا کسی سے بات چیت کرنی پڑ جائے تو پھر أَعُوذُ بِاللَّهِ دُبَرِ الْيَمِنِ چاہیے۔ نماز سے باہر ہر سورت کے شروع میں بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ استحب ہے اور سورہ ”بِرَاءَةٌ“ کے شروع میں بِسْمِ اللَّهِ

لہ کہیا نے سعادت۔

لہ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ سُولِهِ دسویں پارے کی دوسری سورت ہے جس کو سورہ توجہ بھی کہتے ہیں۔

ن پڑھنی چاہئے۔

(۹) اثر پذیری

تلاوت کے دوران قرآن پاک کے مضمون سے اثر لینا اور اس اثر کا اظہار کرنا مستحب ہے، جب انعام و اکرام اور جنت کی لازموں نعمتوں کا ذکر ہوا درمیانوں کو رحمت و مغفرت، فلاح و کامرانی اور خدا کی رضا اور دیدار کی بشارت دی جا رہی ہو تو سرت اور سرور کا اظہار کرنا چاہئے اور جب خدا کے غیظ و غضب، جہنم کے ہولناک عذاب، اہل جہنم کی چیخ پکار کا تذکرہ اور انذار و عید کی آیتیں پڑھی جا رہی ہوں، تو اس پر غمزدہ ہو کر رونا چاہئے، اور اگر اپنی غفلت اور سکدوں کی دھمکے سے رونا نہ آئے تو پہنچلت روئے اور غمزدہ ہونے کی کوشش کرنی چاہئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کے وقت جب عذاب کی آیت پڑھتے تو حق تعالیٰ سے رحمت کی دعافمانی اور جب تحریرہ کی آیت پڑھتے تو تسبیح پڑھتے یہ

(۱۰) آواز میں اعتدال

تلاوت نہ تو انتہائی بلند آواز سے کیجئے اور نہ نہایت پست آواز سے بلکہ اعتدال کے ساتھ ایسی درمیانی آواز سے پڑھیے کہ آپ کا دل کبھی متوجہ رہے اور سننے والوں کے شوق میں کبھی اضافہ ہو اور غور و فکر کی طرف بھی طبیعتِ توبہ ہو، قرآن کی ہدایت ہے۔

لے لیکن اس معاملہ میں آدمی کو انتہائی ہوشیار اور حچکنا رہنا چاہئے اس لیے ریا کاری آدمی کے اچھے سے اچھے محل کو تباہ و برباد کر دالتی ہے۔

لے کیا یہ سعادت ہے۔

وَلَا تَنْجِهُرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُثُ بِهَا وَأَبْتَغِ بَيْنَ ذَانِكَ

سَمِيلَاه (بني اسرائیل: ۱۰)

”اور اپنی نماز میں نہ تو زیادہ زور سے پڑھئے اور نہ بالکل ہی دھیر سے

دھیر سے، بلکہ دونوں کے درمیان کا انداز اندازیار کیجئے۔“

(۱۱) تہجد میں تلاوت کا اہتمام

تلاوت جب بھی کی جائے، باعث اجر و ثواب ہے اور موجب رشد و ہدایت ہے۔ لیکن خاص طور پر تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت، تلاوت قرآن کی فضیلت کا سب سے اوپر جا درج ہے اور مومن کی تمنا ہونی ہی چاہیئے کہ وہ فضیلت کا اوپر جے سے اونچا درج ہے اور مومن کی تمنا ہونی ہی چاہیئے کہ وہ فضیلت کا اوپر جے سے اونچا درج ہے اور توجہ الی اللہ کا موزوں ترین وقت ہے بالخصوص جب آدمی خدا کے حضور کھڑے ہو کر کیسوئی اور طبیعت کی آمادگی کے ساتھ کتاب اللہ کی تلاوت کر رہا ہو، بنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد میں طویل تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔

(۱۲) قرآن میں دیکھ کر تلاوت کا اہتمام

نماز کے باہر تلاوت کرتے وقت قرآن پاک میں دیکھ کر تلاوت کر نمازیادہ موجب اجر و ثواب ہے، ایک تو تلاوت کا اجر اور دوسرے کلام اللہ کو ہاتھ میں لینے اور اس کی زیارت سے شرف ہونے کا اجر و ثواب ہے، لہ

(۱۳) ترتیب کا الحافظ

قرآن پاک کی سورتوں کو اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیئے جسی ترتیب سے قرآن میں ہیں۔

البنتہ چھوٹے بچوں کی سہولت کے پیش نظر اس ترتیب کے خلاف پڑھنا، جیسا کہ آج کل پارہ فَمَّا مَأْتَنَا لَوْنَ پڑھایا جاتا ہے، کسی کراہت کے بغیر حائز ہے یہ البنتہ آئیتوں کو قرآن کی ترتیب کے خلاف پڑھنا بالاتفاق منوع ہے یہ۔

(۱۷) دبستگی اور انہماں

بعض لوگ دوسرے وظائف اور اذکار تو ٹھی دل شگی اور انہماں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور گھنٹوں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت اس دبستگی اور انہماں کے ساتھ نہیں کرتے، درا نحایکہ قرآن سے بڑھ کر نہ کوئی ذکر و خلیفہ ہو سکتا ہے اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسری عبادت ہو سکتی ہے، قرآن پر دوسرے اذکار و وظائف کو ترجیح دینا فہم دین کی کوتاہی بھی ہے اور گناہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بندہ تلاوت قرآن ہی کے ذریعہ خدا کے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے یہ۔

اور آئندہ نے فرمایا

”میری امت کے لیے سبے برتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔“

(۱۸) تلاوت کے بعد دُعا

تلاوت سے فارغ ہو کر ذیل کی دُعا پڑھنا مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔

۱۔ رد المحتار۔

۲۔ الاتقان۔

۳۔ کیمپسٹے معاودت۔ تلاوت قرآن کا بیان۔

أَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُوْسَأً وَ
 هُدًى وَرَحْمَةً اللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِي مِثْهُ مَا تَسْبِّحُ وَعَلِمْنِي مِنْهُ مَا
 جَهَلْتُ وَاشْرِقْنِي تَلَاوَتَهُ أَنَا عَالَمٌ بِالْكِبِيلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ
 وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً تَهَارِبُ الْعُلَمَاءُ

«اے اللہ! تو مجھ پر اس قرآن کے طفیل میں رحم فرم، اور اس کو میرا پیشووا،
 میرے لیے فور وہ دایت اور حجت بنادے، اے اللہ! میں اس میں سے جو کچھ
 بھول چاؤں وہ مجھ کو باد کر دے، اور جو کچھ میں نہیں چانتا وہ سکھا دے اور
 مجھے توفیق دے کہ میں شب کے کچھ حصے میں اور زیح و شام اس کی تلاوت کروں
 اور ابے رب العالمین تو اس کو میرے حق میں حجت بنادے»

سجدہ تلاوت کا حکم

سجدہ تلاوت کا حکم

قرآن مجید میں چوڑہ آتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے پوری آیت پڑھی جائے یا سجدہ والے فقط کو لگانے پھپٹے الفاظ کے ساتھ پڑھ لیا جائے، سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اس سجدہ کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”وجب آدمی سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک گوشے میں بیٹھ کر آہ دیکھا کرنے لگتا ہے، اور کہتا ہے ہائے افسوس! آدم کی اولاد کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا اور حنف کا مستحق ہو گیا، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گی تو میں نے اخخار کر دیا اور میں ناہر ہنہم کا مستحق ہوا ہے۔“

لئے اہل حدیث کے تزوییک پندرہ آتیں ہیں وہ مورہ الحج آیت، پڑھی سجدہ کرتے ہیں۔ (اسلامی تعلیم دھرم)

لئے امام ابوحنیفہ کے علاوہ بعض دوسرے علماء کے تزوییک سجدہ تلاوت سنت ہے۔

لئے ایسے الفاظ کو نامیاں کرنے کے لیے ان پر خط کپیسخ دیا گیا ہے، دیکھئے سجدہ تلاوت کے مقامات صفحہ ۴۲۵

لئے سعیج سلم، ابن ماہر۔

سجدہ تلاوت کے مقامات

قرآن پاک میں ایسی آیتیں ہیں جن کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہوتا ہے کل پھر وہ ہیں جن کی تفضیل حسب ذیل نہ ہے۔

(۱) سورہ الاعراف آیت ۲۰۶۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يُشْتَكِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ
وَلَمْ يُسْتَحْوَنَّهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ هُوَ

” بلا شہ بوفرشتے آپ کے رب کے حضور تقریب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے غرور میں آگراں کی بندگی بجا لانے سے منہ تھیں موڑتے، وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں ۔“

(۲) سورہ الرعد آیت ۱۵۔

وَلَلَّهُ يَسْبُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ طَوْعًا وَكُرْهًا
وَظِيلَ اللَّهُمْ بِالْعَدُوِّ وَالْأَصَارِ هُوَ

” اور اللہ ہی ہے جس کو انسانوں اور زمین کی ہر چیز پر چار دن چار سجدہ کر رہی ہے، اور ان سب چیزوں کے سایہ سچ و شام اس کے آگے جھکتے ہیں ۔“

(۳) سورہ النحل آیت ۴۹، ۵۰۔

وَلَلَّهُ يَسْبُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ
وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يُشَكِّرُونَ هُنَّا فُؤُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فُوْرِئِنَ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ -

” اور اللہ ہی کے حضور سجدہ ریز ہیں انسانوں اور زمین کے سارے

جان دار اور فرشتے، اور وہ ہرگز راس کی بندگی سے) سرتالی نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے جوان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں، اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے ۔

(۴) سورہ یونی اسرائیل آیت ۱۰۹ -

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

”ادروہ (قرآن سن کر) روتنے ہوئے مرنے کے میں گر جاتے ہیں اور ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے ۔“

(۵) سورہ مریم آیت ۵۸ -

إِذَا أَشْتَلَى عَلَيْهِمْ أَيْتُ الرَّحْمَنِ خَرُودَ تَبَعَّدًا وَيَبْكِيَاهُ

”جب ان کو رحمٰن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتیں تو وہ روتنے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے ۔“

(۶) سورہ الحج آیت ۱۸ -

أَلْحَرَثَرَأَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ مِنْ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجْوَفُ وَالْجِيَالُ وَالشَّجَرُ وَ
الْدَّارَ وَابْنُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَدَا بَلْ وَ
مَنْ يُرِهِنَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِرٍ وَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

”کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے حصنوں دہ ساری مخلوق رہ ہے، جو

آسمانوں میں ہے اور جوزین میں ہے، اور سورج اور چاند اور تارے، اور پہاڑ، اور درخت، اور جانور اور بہت سے انسان، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جن پر

خدا کا عذاب لا دم ہو چکا ہے اور جس کو خدا ذلیں و خوار کر دے اُسے پھر کوئی
عزم دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو پاہتا ہے کرتا ہے ॥
(۷) سورہ الفرقان آیت ۶۰۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَسْجُدُوا إِلَّا لِرَحْمَنِ قَالُوا إِنَّمَا الْرَّحْمَنُ
أَسْجُدُوا لِمَا أَنْتُمْ أَوْسَأُّ أَدْهُمُ نَفُوسًا ۔

«اور سبب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس رحمن کو سجدہ کرو، تو جواب
دیتے ہیں یہ رحمن کیا ہوتا ہے؟ کیا اسی جسے تم کہہ دو اسی کو ہم سجدہ کرنے لگ
جائیں، اور یہ دعوت ان کی نفرت اور بیڑا رمی میں اکٹا اور اضافہ کر دیتی ہے ॥

(۸) سورہ النحل آیت ۲۴ - ۲۵

أَلَا يَسْتَجِدُ فَإِنَّهُ إِلَّا ذُي مُّخْرِجِ الْحَمَّةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ هُنَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۔

مکروہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو انسانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکال
ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم پھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اللہ جس کے سوا
کوئی عبادت کا مستحق نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔

(۹) سورہ الہم السجدہ آیت ۱۵

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِالْيَقِنَّ إِنَّمَا إِذَا دُكَرُوا إِلَّا خَرُوا سَجَدًا وَ
سَبَبَ حُوا مُحَمَّدًا رَّبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۔

”ہماری آیات پر تو بس وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آئیں گے اگر جب

یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو سجدے میں گر جلتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور غور میں آگر راس کی بندگی سے، سرتاسری نہیں کرتے۔

(۱۰) سورہ حم آیت ۲۵ - ۲۶

وَخَرَّ سَرَاكِعًا وَأَنَابَهُ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِيلَ طَرَانَ لَهُ عِنْدَكَ
كَزْلُفَنِي وَحُشْنَ مَالِبَهُ

«اور (داود علیہ السلام) سجدہ میں گر گئے اور رجوع کر لیا، تب ہم نے ان کا وہ قصور معاوف کر دیا، اور یقیناً ہمارے ہاں ان کے لیے تقرب کا مقام اور سبتر الجما

ہے۔»

(۱۱) سورہ الحم السجدہ آیت ۳۸ -

فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَأَنَّا دِيْنَنَا عِنْدَنَا رِبُّكَ يُسَتِّحُونَ لَهُ بِاللَّهِ بِلِلَّهِ
وَالنَّهَارَ وَهُنَّ لَا يَسْتَهُونَهُ

«اگر یہ لوگ غور میں دین سے بے نیازی دکھائیں تو (کوئی پرواہ نہیں) جو فرشتے آپ کے رب کے حضور مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔»

(۱۲) سورہ النجم آیت ۶۲ -

فَاسْجُدْنَا لِلَّهِ وَأَغْبُدْنَا فُؤَاهُ

«پس اللہ ہی کو سجدہ کر دا اور (راسی کی) عبادت کرو۔»

(۱۳) سورہ الشقاق آیت ۲۰ - ۲۱

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَهُ وَرَأَذَا قَرَأَ مَعْلَيْهِمُ الْقُرْآنَ لَا يَسْتَجِدُونَهُ

”تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔

(۱۷) سورہ العلق، آیت ۱۹

وَاسْجُدْ وَاشْتَرِبْ۔

”اور سجدہ کرو اور (خدا کا) قرب حاصل کرو“

سجدہ تلاوت کی شرطیں

سجدہ تلاوت کی چار شرطیں ہیں یعنی

طہارت

* جسم کا پاک ہونا، یعنی جسم نجاست غلیظہ سے بھی پاک ہو اور نجاست حکیم سے بھی اگر وضو نہ ہو تو وضو کر لینا اور اگر غسل کی حاجت ہو تو غسل کر لینا ضروری ہے۔

* لباس کا پاک ہونا۔

* جائے نماز کا پاک ہونا۔

● ستر چھپانا

● قبلے کی طرف مُنذکرنا۔

● سجدہ تلاوت کی نیت کرنا۔

لہ یعنی جو شرطیں نماز کی ہیں وہی سجدہ تلاوت کی ہیں اور جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے انہیں پہنچزوں سے سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے۔

لہ جمہور کا مسلک تو یہی ہے، لیکن یعنی علماء کے نزدیک سجدہ تلاوت کے لیے (ہاتھ پرست) ۳

لیکن یہ نیت کرنا شرط نہیں ہے کہ یہ سجدہ فلاح آیت کا ہے اور اگر خواز میں آیت سجدہ پڑھ کر کیا جائے تو نیت بھی شرط نہیں ہے۔

سجدہ تلاوت کا طریقہ

قبلہ روکھڑے ہو کر سجدہ تلاوت کی نیت کرے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائے

(الباقیہ حاشیہ ص ۲۲۹) با وضو ہونا ضروری نہیں۔ علماء اہل حدیث کے تزوییک با وضو سجدہ تلاوت کرنا افضل تو۔ لیکن بغیر وضو کیسے بھی جائز ہے (اسلامی تعلیم حصہ دوم)
علامہ مودودی سجدہ تلاوت کی شرطیں گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اس سجدے کے لیے جہو را ہتھی شرط کے قائل ہیں جوناز کی شرطیں ہیں، یعنی با وضو ہوتا، قبلہ رُخ ہونا، اور خواز کی طرح سجدے میں سر زمین پر رکھنا۔ لیکن جتنی احادیث سجدہ تلاوت کے باب میں ہم کو ملی ہیں ان میں کہیں ان شرطیوں کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آیت سجدہ کی کوشش شخص جہاں جسیں حال میں ہو جبک جائے۔ خواہ با وضو ہو یا نہ ہو، خواہ استقبال قبلہ ممکن ہو یا نہ ہو، خواہ زمین پر سر رکھنے کا موقع ہو یا نہ ہو۔ سلفت میں بھی ہم کو ایسی شخصیتیں ملتی ہیں جن کا محل اس طریقے پر تھا۔ چنانچہ امام بخاری نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے متعلق کہا ہے کہ وہ وضو کے بغیر سجدہ تلاوت کرنے تھے۔ اور ابو عبد الرحمن سلمی کے متعلق فتح الباری میں لکھا ہے کہ ذہ راستہ چلتے ہوئے قرآن مجید پڑھتے جاتے تھے اور اگر کہیں آیت سجدہ آجائی تو اس سر جبکا لیتے تھے۔ خواہ با وضو ہوں یا نہ ہوں اور خواہ قبلہ رُخ بھی ہوں یا نہ ہوں ان دو جوہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جہو ر کے سلک کے خلاف عمل کرے تو اسے ملامت نہیں کی جاسکتی کیونکہ جہو ر کی تائید میں کوئی سنت ثابتہ موجود نہیں ہے اور سلفت میں ایسے لوگ پائے گئے ہیں جن کا محل جہو ر کے سلک کے خلاف تھا۔ (تفہیم القرآن جلد دم الاعراف ساشریہ، ۱۵۰)۔

اد رسم جدہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے اُنہ کھڑا ہو، نہ تشدید میں بیٹھنے کی ضرورت ہے اور نہ سلام پھیرنے کی۔

حضرت عبد اللہ بن سعید رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے جب تم سجدہ کی آیت پڑھو تو اللہ اکبر کرہ کر سجدہ میں جاؤ اور جب سجدہ سے سراٹھا تو اللہ اکبر کہو۔ سجدہ تلاوت بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں لیکن کھڑے ہو کر سجدے میں جانا استحب ہے۔

سجدہ تلاوت میں سُبْحَانَ رَبِّ الْأَنْعَمْ کے علاوہ دوسری مسنون تسبیحیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نمازوں میں سجدہ تلاوت کیا جاتے تو سُبْحَانَ رَبِّ الْأَهْمَلْ۔

پڑھنا بہتر ہے۔

البنت نوائل میں اور نماز کے باہر آیت سجدہ پڑھئے تو سجدہ تلاوت میں جو تسبیحیں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہلائی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَيَصُوَّرُهُ حَوْلِهِ
وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

”سیرا پھرہ اس کے عضور سجدہ ریز ہے جس نے اُسے میں پیدا کیا، اور اس میں کان اور آنکھ دفع کیے۔ یہ سب اسی کی طاقت و قوت کے ہے۔ اللہ رفت درگت کا سرچشمہ ہے، جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔“

لہ ابو داؤد۔

لہ ابو داؤد، ترمذی و غیرہ۔

مسجدہ تلاوت کے مسائل

(۱) سجدہ تلاوت انہیں لوگوں پر واجب ہے جن پر نماز واجب ہے حیثیت دنیا اور خاتون اور نابالغ بچے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں، اور لیے مددوں پر بھی واجب نہیں ہے جس کی مددوں پر ایک دن رات سے زیادہ گزر چکا ہو۔

(۲) اگر سجدہ کی آیت نماز میں پڑھی ہے تو فوراً سجدہ کرنا واجب ہے تاخیر کرنے کی امارات نہیں اور اگر نماز کے باہر سجدہ کی آیت پڑھی تو بہتر یہ ہے کہ فوراً سجدہ کر دیا جائے، لیکن تاخیر میں بھی کوئی حرج نہیں۔ البتہ بلا وجهہ زیادہ تاخیر کرنا مکروہ تشریف ہے۔

(۳) اگر نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو یہ سجدہ اسی نماز میں ادا کرنا واجب ہے، نہ نماز کے باہر ادا کرنا جائز ہے اور نہ کسی دوسری نماز میں یہ سجدہ ادا کرنا جائز ہے، اگر کوئی آیت سجدہ پڑھ کر اس نماز میں سجدہ کرنا بھول جائے تو اس کی تلافی کی شکل اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو یہ واستغفار کرے ہاں اگر یہ نماز فاسد ہو جائے تو یہ سجدہ نماز کے باہر ادا کیا جا سکتا ہے۔

(۴) اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو یا پڑھا رہا ہو اور کسی دوسرے سے آیت سننے چاہے وہ دوسری آدمی نماز میں پڑھ رہا ہو یا نماز کے باہر تو اس سننے والے نمازی یا امام پر نماز کی عالت میں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، نماز سے فارغ ہو کر سجدہ تلاوت ادا کرے اور اگر نمازی میں یہ سجدہ ادا کر لیا، تو سجدہ بھی ادا نہ ہو گا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔

(۵) ہمومقتدی نے سجدہ کی آیت پڑھی تو نہ امام پر سجدہ واجب ہے اور نہ مقتدی پر۔

(۶) کسی نے امام سے سجدہ کی آیت سنی لیکن وہ اس وقت جماعت میں شامل ہوا جب امام سجدہ ادا کر چکا تھا۔ اب اگر اس کو وہ رکعت مل گئی جس میں امام نے سجدہ تلاوت ادا کیا ہے تو گویا اس کا سجدہ بھی ادا ہو گیا۔ اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے تو پھر نمازوں کے بعد اس کو سجدہ ادا کرنا چاہیے۔

(۷) اگر کوئی شخص دل میں سجدہ کی آیت پڑھے، زبان سے نہ پڑھے یا صرف پڑھنے، یا ایک ایک حروف الگ الگ کر کے پڑھے تو سجدہ واجب نہ ہو گا۔

(۸) اگر ایک ہی جگہ پر سجدہ کی ایک ہی آیت بار بار پڑھی تو ایک ہی سجدہ واجب ہو گا۔ اور اگر کئی آیتیں پڑھیں تو جتنی آیتیں پڑھیں اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے اور ایک ہی آیت کئی مجلسوں میں پڑھی تو جتنی مجلسوں میں پڑھی اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے۔

(۹) تلاوت کے وقت اگر سننے والے سب باوضو ہیٹھے ہوں اور سجدہ کر سکتے ہوں تو سجدہ کی آیت زور سے پڑھنی بہتر ہے لیکن بے وضو ہیٹھے ہوں یا سجدہ کرنے کی گنجائش نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ سجدہ کی آیت آہستہ پڑھی جانے ہو سکتا ہے کہ دوسرے وقت یہ لوگ سجدہ کرنا بھول جائیں اور گنہ گار ہوں۔

(۱۰) سجدہ کی آیت سے پہلے اور بعد کی آیتوں کو پڑھنا، اور سجدہ کی آیت کو چھپوڑ دینا، یا پوری سورت پڑھنا اور سجدہ کی آخری آیت کو چھپوڑ دینا مکروہ ہے۔

(۱۱) سری نمازوں میں ایسی سورت نہ پڑھنی چاہیے جس میں سجدہ ہو اور اسی طرح جحمد، عیدین یا کسی اور ایسی نمازوں میں جہاں غیر معمولی مجمع ہو۔ اس لیے کہ مقتدیوں

کو اشتبہ ہو گا اور نماز میں غسل پڑے گا۔ لہ

(۱۷) بعض نادائقت لوگ قرآن پڑھتے پڑھتے آیت سجدہ پر پہنچتے ہیں تو اسی قرآن پر سجدہ کر لیتے ہیں، اس طرح سجدہ مارا نہیں ہوتا، سجدہ تلاوت اسی طریقہ سے ادا کرنا چاہیئے جو اور پر بتایا گیا ہے۔



جب آدمی کوئی اچھی خبر سنے، یا خدا کی رحمت سے کوئی بڑی نعمت پائے یا کسی معاملہ میں کامیابی حاصل ہو، یا کوئی تمنا اور آرزو پوری ہو جائے، یا کوئی آفت اور صیبت مل جائے تو خدا کے اس فضل و کرم پر سجدہ شکرا دا کرنا مستحب ہے لیکن یہ سجدہ نماز کے قرآن بعد نہ کرنا چاہیے ورنہ ناواقف لੋگ یا تو اس کو نماز کا حصہ تصور کرنے لگیں گے یا اس کو سنت قرار دے کر اہتمام کرنے لگیں گے۔ یہ نماز سے الگ ایک سجدہ ہے اس لیے اس کو اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ کسی کو کوئی شبہ نہ ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قسم کی خوشی حاصل ہوتی، یا کوئی خوش خبری ملتی تو آپ خدا کا شکرا دا کرتے ہوئے سجدہ فرماتے۔

بعض ناواقف لੋگ و ترکی نماز کے بعد دو سجدے کرتے ہیں اور اس کو سنت سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اس کو سنت سمجھد کر ادا کرنا مکروہ ہے اور چونکہ اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اس لیے اس کو ترک کرنا بہتر ہے۔



اعتناف کے معنی

لغت میں کسی جگہ میں بند ہونے یا کسی مقام پر ٹھہر نے کو اعتناف کہتے ہیں اور شرعاً
کی اصطلاح میں اعتناف سے مراد یہ ہے کہ آدمی دینی تعلقات و مصروفیات اور
بینوی بچپوں سے الگ ہو کر مسجد میں قیام کے۔

اعتناف کی حکمت

اعتناف یہی تو ہے کہ آدمی دینی کار و بار اور تعلقات سے کٹ کر، اور گھر میں
مصروفیات اور نفسانی خواہشات سے بے تعلق ہو کر، فکر و عمل کی ساری قوتیں کو خدا
کی یاد اور عبادت میں لگا دے، اور سب سے الگ تنگ ہو کر خدا کے پردہ میں
جا بے، اس عمل سے ایک طرف تو آدمی ہر طرح کی لغویاتوں اور براجموں سے محفوظ
 رہے گا، دوسری طرف خدا سے اس کا تعلق مضبوط ہو گا۔ اس کا قرب حاصل ہو گا اور
اس کی یاد اور عبادت سے قلب و روح کو سکون اور سرو محسوس ہو گا اور چند دن کی
تریتیت کا یہ عمل اس کے دل پر یہ گہرائیز بچپوں نے گا کہ دنیا میں اپنے چاروں طرف
ہر طرح کی زنگینیاں اور دل کشیاں دیکھنے کے باوجود خدا سے تعلق مضبوط رکھے،
خدا کی نافرمانی سے بچے اور اس کی اطاعت میں قلب و روح کا سکون و سرور

تلائش کرے۔ اور پوری زندگی خدا کی بندگی میں گزارے۔

اعتناف کی قسمیں

اعتناف کی تین قسمیں ہیں۔ واجب، مستحب، سنت مذکورہ۔

اعتناف واجب

نذر کا اعتناف واجب ہے کسی نے یونہی اعتناف کی نذر مانی یا کسی شرط کے ساتھ مانی مثلاً یہ کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا یا میرا فلاں کام پورا ہوا تو میں اعتناف کروں گا تو یہ اعتناف واجب ہے اور اس کا پورا اکرنا ضروری ہے۔

اعتناف مستحب

رمضان کے اخیر عشرے کے علاوہ جو بھی اعتناف کیا جاتا ہے وہ مستحب ہے چاہے رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے میں کیا جائے یا کسی اولہ ہدیتیہ میں۔

اعتناف سنت مذکورہ

رمضان کے اخیر عشرے میں اعتناف کرنا سنت مذکورہ کفایہ ہے یعنی مسلمانوں کو بحیثیت اجتماعی اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیئے کیونکہ احادیث میں اس کی انتہائی تاکید کی گئی ہے، خود قرآن بھی اس کا ذکر ہے۔

وَلَا تُبَاشِرُ رُهْنَّا دَأَنْتُمْ هَذَا كَفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ (البقرة: ١٨٤)

”اور اپنی عورتوں سے نہ طویل تم سجدوں میں اعتناف میں ہو۔“

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ہر سال اعتناف فرماتے تھے وفات ہنگ آپ کا یہی معمول رہا اور ایک سال کسی وجہ سے آپ اعتناف نہ کر سکتے تھے تو

دوسرے سال آپ نے بیس دن تک اعکاف فرمایا۔ اس لیے اگر مسلمان اس سنت کو اجتماعی طور پر چھوڑ دیں گے تو سب ہی گنہگار ہوں گے اور اگر بتنی کے کچھ افراد بھی اس سنت کا اہتمام کر لیں تو وہ کہ یہ سنت کفایہ ہے اس لیے چند افراد کا اعکاف سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا لیکن یہ بات انتہائی تشونش کی ہو گی کہ پورا مسلمان معاشرہ اس سے بے پرواہی برستے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محظوظ سنت بالکل ہی مٹ جائے۔

حضرت حافظہؓ کا بیان ہے کہ:-

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضوان کے آخری عشرے میں اعکاف فرمایا کرتے تھے۔ وفات تک آپ کا یہی معمول رہا، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج اعکاف کا اہتمام کرتی رہیں ۔۔۔“

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ:-

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضوان کے آخری عشرے میں اعکاف فرمایا کرتے تھے، ایک سال آپ اعکاف نہ فرماسکے، تو اگلے سال آپ نے بیس دن کا اعکاف فرمایا ۔۔۔“

فضل ترین اعکاف

سب سے فضل اعکاف وہ ہے جو خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام میں کیا جائے اس

لہ بخاری مسلم۔

۔۔۔ سانح ترمذی۔

کے بعد وہ اعتماد فوج مسجد نبوی میں کیا جائے۔ اور اس کے بعد اس اعتماد فوج کا درجہ ہے جو بیت المقدس میں کیا جائے، اس کے بعد وہ اعتماد فوج افضل ہے جو کسی جامع مسجد میں کیا جائے جہاں باقاعدہ جماعت سے نماز ہوتی ہو، اور اگر جامع مسجد میں نماز باجماعت کا نظم نہ ہو تو محلہ کی مسجد میں جہاں نماز باجماعت کا اہتمام ہو، اور اس کے بعد ہر اس مسجد میں اعتماد فوج افضل ہے جہاں نماز پا جماعت میں زیادہ لوگ شریک ہوتے ہوں۔

إِعْتِكَافُ كَثُرَ طَبِيعٍ

اعتكاف کی چار شرطیں ہیں، جن کے بغیر اعتماد صحیح نہیں۔

(۱) مسجد میں قیام

مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتماد فوج کریں۔ چاہے اس مسجد میں پنجوقتہ نماز باجماعت کا اہتمام ہو یا نہ ہو۔ مسجد میں قیام کے بغیر مردوں کا اعتماد صحیح نہیں۔

(۲) نیت

نیت جیسی طرح دوسری عبادات کے لیے شرط ہے اسی طرح اعتماد فوج کے لیے بھی شرط ہے، نیت کے بغیر اعتماد فوج نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہی نیت کرے بغیر مسجد

لے امام ابوحنیفہؓ کے نزدیک تو یہ ضروری ہے کہ جماعت والی مسجد میں اعتماد فوج کیا جائے لیکن امام محمدؓ اور امام ابویوسفؓ کے نزدیک ہر مسجد میں اعتماد درست ہے اور اس زمانے میں سی پرتوںی ہے۔ (رد المحتار)

میں نہ ہر ادا، تو یہ نہ ہر نا اعتماد کاف نہ ہو گا۔ پھر یہ ظاہر ہی ہے کہ عبادت کی نیت اُسی وقت صحیح ہے جب نیت کرنے والا مسلمان ہو اور ہوشمند بھی ہو، دیوار اُنے اور محبوون کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔

(۳) حدث اکبر سے پاک ہونا

یعنی مرد اور خواتین حالت جنابت سے پاک ہوں اور خواتین جبیض و نفاس سے پاک ہوں۔

(۴) روزہ

اعتكاف میں روزے سے سے رہنا بھی شرط ہے، البتہ یہ صرف اعتماد کاف دا جب کے لیے شرط ہے، اعتماد مستحب میں روزہ شرط نہیں اور اعتماد سنون میں روزہ اس لیے شرط نہیں ہے کہ وہ تور رمضان میں ہوتا ہی ہے۔

اعتكاف کے احکام

(۱) اعتماد واجب کس سے کم ایک دن بھر کا ہو سکتا ہے، اس سے کم کا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اعتماد واجب میں روزے سے رہنا ضروری ہے۔

(۲) اعتماد واجب میں روزے سے ہونا ضروری تو ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ روزہ خاص اعتماد کی غرض سے ہی رکھا گیا ہو، مثلاً کوئی شخص رمضان میں اعتماد کی نذر مانے تو یہ اعتماد صحیح ہو گا اور رمضان کا روزہ اعتماد کے لیے کافی ہو گا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اعتماد میں جو روزہ رکھا ہے وہ واجب ہو نفلی روزہ نہ ہو۔

- (۳) اعتکاف واجب میں کم سے کم مدت ایک دن ہے اور زیادہ کی کوئی قید نہیں جتنے دن کی چاہے نیت کر لے۔
- (۴) اعتکاف مستحب کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں، چند منٹ کا اعتکاف بھی صحیح ہے۔
- (۵) اعتکاف واجب کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے اس لیے اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھنے کی نیت کر لے تب بھی اس کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے، اور اسی لیے اگر کوئی شخص صرف شب کے اعتکاف کی نیت کرے گا تو وہ لغو بھی جائے گی۔
- (۶) اگر کوئی شخص شب و روز کے اعتکاف کی نیت کرے یا انہی دن کے اعتکاف کی نیت کرے تو اس میں شب داخل بھی جائے گی اور شب میں بھی اعتکاف کرنا ضروری ہو گا۔ ہاں اگر ایک ہی دن کے اعتکاف کی نہ رہے تو تو پھر صرف دن بھر کا اعتکاف ہی واجب ہو گا۔ شب کا اعتکاف واجب نہ ہو گا۔
- (۷) خواتین کو پہنچرہ میں اعتکاف کرنا چاہیئے، خواتین کے لیے کسی مسجد میں اعتکاف کرنا مکررہ تنزیہ ہے، خواتین گھر میں عام طور پر جس جگہ نماز پڑھتی ہوں اسی مقام پر پرده دغیرہ ڈال کر اعتکاف کے لیے مخصوص کر لینا چاہیئے۔
- (۸) رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف چونکہ سنت مولودہ کفایہ ہے اس لیے کوشش کرنی چاہیئے کہ بستی میں کچھ لوگ ضرور اس کا اہتمام کریں، اگر اس سنت کے اہتمام سے ایسی غفلت برلنگی کہ بستی میں کسی نے ابھی اعتکاف نہ کیا تو بستی کے سارے ہی لوگ گنہ گار ہوں گے۔
- (۹) اگر اعتکاف واجب کسی وجہ سے فاسد ہو جائے تو اس کی قضا واجب

ہے، البتہ احتکاف مسنون اور احتکاف ستحب کی قضاداً جب نہیں۔

احتکاف مسنون کا وقت

احتکاف مسنون کا وقت رمضان کی بیس تاریخ کو غرہب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آتے ہی ختم ہو جاتا ہے، چاہے چاند ۲۹ رمضان کو نظر آتے ہے اور عید کا چاند نظر آتے ہی ختم ہو جائے گا۔

یا ۰ سحر رمضان کو ہر حال میں احتکاف مسنون پورا ہو جائے گا۔
احتکاف کرنے والا، ۰ سحر رمضان کو غرہب آفتاب سے ذرا پہلے مسجد میں ہنپھے جائے اور اگر کوئی خاتون ہوتواسی وقت گھر میں اُس خاص جگہ پر ہنپھے جائے جو اس نے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے بنارکھی ہو اور عید کا چاند نظر آنے تک اپنے معتکف پاہر نہ نکلے، البتہ کسی طبعی ضرورت مثلاً پیشایاب پاٹلے یا غسل جنابت دغیرہ یا ثرعی ضرورت مثلاً نماز جمعہ وغیرہ کے لیے معتکف کے باہر جانا جائز ہے۔ لیکن ضرورت پوری ہونے کے بعد فوراً واپس اپنے معتکف میں ہنپھے جانا ضروری ہے۔

احتکاف واجب کا وقت

احتکاف واجب کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے اس لیے اس کا کم سے کم وقت ایک دن ہے، ایک دن سے کم چند گھنٹے کے لیے احتکاف کی نذر ماننا لے عین سے اس لیے کہ روزے کا وقت طلوع آفتاب سے غرہب آفتاب تک ہے۔

احتکاف مستحب کا وقت

لفلی احتکاف کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، نہ اس کے لیے روزہ شرط ہے، اور نہ کوئی خاص چینہ اور وقت جب بھی آدمی مسجد میں ہو، احتکاف مستحب کی نیت کر سکتا ہے اور مسجد میں چاہے چند لمحے ہی قیام رہے احتکاف کا اجر و ثواب ملتے ہا۔

حالتِ احتجاجات میں مستحب امور
ذکر و فکر کرنا، دینی مسائل اور معلومات پر غور کرنا، تسبیح و تہلیل میں میں
مشغول رہنا۔

(۱) قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن میں تدبیر کرنا۔

(۲) درود شریعت یادوں سے اذکار کا انتظام کرنا۔

(۳) دینی علوم پڑھنا پڑھانا۔

(۴) وعظ و تبییغ اور تسبیح و تلقین میں صروف ہونا۔

(۵) دینی تصنیف و تالیف کے کام میں صروف ہونا۔

وہ امور جو احتجاجات میں جائز ہیں

(۱) پیشیاب اور قضاۓ حاجت کے لیے اپنے معتقدت سے باہر جانا جائز ہے، مگر یہ لحاظہ ہے کہ یہ ضرورتیں اس بجگہ پوری کی جائیں جو معتقدت سے قریب ہو، اگر مسجد سے قرب ہو تو کوئی بجگہ نہ ہو یا بجگہ تو ہو لیکن بے پر دگی یا گندگی کی وجہ سے ضرورت رفع نہ ہو تو پھر اپنے گھر رفع حاجت کے لیے جانے کے اجازت ہے۔

(۲) غسل جنابت کے لیے بھی معتقدت سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ ہاں اگر مسجد میں غسل کا استظام ہو تو پھر مسجد ہی میں غسل کرنا چاہیے۔

(۳) کھانے کے لیے بھی مسجد سے باہر جانا جائز ہے اگر کوئی کھانا لانے والا نہ ہو۔ اور اگر کھانا لانے والا ہو تو پھر مسجد ہی میں کھانا ضروری ہے۔

(۴) جمعہ اور عیدین کی نماز کے لیے بھی معتقدت سے باہر جانا جائز ہے اور اسی مسجد میں اعتماد کیا ہو جہاں جماعت نہ ہوتی ہو تو بخوبی نماز کے لیے جانا بھی

جاائز ہے۔

(۵) کہیں آگ لگ جائے یا کوئی شخص کنٹیں میں ڈوب رہا ہو یا کوئی کسی کو قتل کر رہا ہو یا مسجد گر جانے کا خوف ہوتا ان صورتوں میں معتکف سے باہر آنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے، لیکن احکام بہر حال ٹوٹ جائے گا۔

(۶) اگر کوئی شخص کسی طبیعی ضرورت مثلاً قضاۓ حاجت کے لیے معتکف سے نکلا یا اشرعی ضرورت مثلاً نماز جمعہ کے لیے نکلا اور اس دوران اس نے کسی ملیخ کی عیادت کی یا نماز جنازہ میں شریک ہو گیا تو کوئی ہرج نہیں۔

(۷) کسی بھی شرعی یا طبیعی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے لیکن ضرورت پوری کر لینے کے بعد فوراً معتکف میں واپس آجائے۔

(۸) جمعہ کی نماز کے لیے اتنی دیر پہلے جانا کہ اطمینان سے تجیہ المسجد اور جمعہ کی سنتیں پڑھ لی جائیں اور جمعہ کی نماز کے بعد اتنی دیر پھر ناجانا کہ اطمینان سے بعد کی سنتیں ادا کر لی جائیں جائز ہے اور اس وقت کا اندازہ معتکف کی راستے پر ہے۔

(۹) اگر کوئی شخص زبردستی معتکف سے باہر نکال دیا جائے یا کوئی زبردستی معتکف سے باہر روک لیا جائے تب بھی احتکاف ختم ہو جائے گا۔

(۱۰) اگر کسی کو کوئی قرض خواہ باہر روک دے یا وہ شخص خود بیمار ہو جائے اور معتکف تک پہنچنے میں تاخیر ہو جائے تب بھی احتکاف فاسد ہو جائے گا۔

(۱۱) اگر کوئی خرید فروخت کرنے والانہ ہو اور گھر میں کھانے کونہ ہو تو یہ جائز ہے کہ معتکف بقدر ضرورت خرید فروخت کر لے۔

(۱۲) اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا بھی جائز ہے۔

(۱۳) اگر کسی مسکنف نے احتکاف کی ثیت کرتے وقت یہ نیت کرنی تھی کہ نماز جنازہ کے لیے جاؤں گا تو نماز جنازہ کے لیے نکلنا جائز ہے اور نیت نہیں کی تھی تو جائز نہیں۔

(۱۴) حالت احتکاف میں کسی کوئی دینی یا طبی شورہ دینا، تکمای کرنا، سونا، اور آرام کرنا جائز ہے۔

وہ امور بھروسہ احتکاف میں ناجائز ہیں

(۱) حالت احتکاف میں خبی لذت حاصل کرنا، یا عورت سے بوس و کنار کرنا، ناجائز ہے، البتہ بوس و کنار وغیرہ سے اگر ازالہ نہ ہو تو احتکاف فاسد نہ ہو گا۔

(۲) حالت احتکاف میں کسی ذیوری کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریکی ہے۔ البتہ مجیوری کی حالت میں جائز ہے۔

(۳) حالت احتکاف میں بالکل غاموش بیٹھنا مکروہ تحریکی ہے، ذکر و فکر یا تلاوت وغیرہ میں مشغول رہنا چاہیے۔

(۴) مسجد میں خرد و فرودخت کرنا، یا لڑنا جمگڑنا، غیبت کرنا یا اور کسی طرح کی بے ہودہ باتوں میں مصروف ہونا سب مکروہ ہے۔

(۵) کسی طبی اور شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر جانا یا طبی اور شرعی ضرورت سے باہر نکلنا اور پھر باہر ہی ٹھہر جانا جائز نہیں ہے اور اس سے احتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔

لیلۃ القدر

رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ہے جس کو قرآن نے "لیلۃ القدر" اور "لیلۃ مبارکۃ" کہا ہے اور اس کو ہزار ہمینوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے، قرآن کا ارشاد ہے۔

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَّكَةً - (الدُّخْن: ۳)

"بے شک ہم نے اس (قرآن) کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔"

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَذْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفٍ شَهْرٍ (القدر: ۱)

"بے شک ہم نے اس (قرآن) کو قدر دعالت والی رات میں نازل کیا ہے،
جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ ایک لیسی رات ہے جو ہزار ہمینوں سے زیادہ
بہتر ہے۔"

لیلۃ القدر کے معنی
قدر کے دو معنی ہیں۔

(۱) اندازہ کرنا، وقت سنجن کرنا اور فحیلہ کرنا، یعنی لیلۃ القدر وہ رات

ہے جس میں خدا ہر چیز کا صحیح اندازہ فرماتا ہے اس کا وقت تعین کرتا ہے۔ احکام نازل فرماتا ہے، اور ہر چیز کی تقدیر مقرر فرماتا ہے۔

فِيهَا يُقْرَأُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ أَمْرًا قَنْ عِنْدِنَا۔ (الدخان: ۵۱)

”اس رات میں تمام معاملات کے نہایت محکم فیصلے صادر کیے جاتے

ہیں ہمارے یہاں سے حکم ہو کر“
دوسری جگہ ارشاد ہے۔

تَنَزَّلُ الْمَلِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ

امیر۔ (القدر: ۳)

”اس میں ملائکہ اور روح (یعنی جبریل ایمن) کا تزویل ہوتا ہے جو اپنے

رب کے حکم سے تمام امور انجام دینے کے لیے آتتے ہیں۔“

(۲) قدر کے دوسرے معنی ہیں عظمت اور بزرگی۔ یعنی لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کو خدا کے نزدیک بڑی عظمت اور فضیلت حاصل ہے اور اس کی تدریج عظمت کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ خدا نے اس میں قرآن جلیل عظیم نعمت نازل فرمائی۔ اس سے زیادہ عظیم تر نعمت کا نہ انسان تصور کر سکتا ہے نہ آرزو۔ اسی خبر و برکت اور عظمت و فضیلت کی بنابر قرآن نے اس کو ایک ہزار مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔

لیلۃ القدر کی تعیین

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے، یعنی الکسویں، تکیسویں، پھیسویں، ستائیسویں، اور انتیسویں

راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

”لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری دس راتوں میں سے طاق راتوں میں

تلائش کرو۔“^۱

اس رات کی واضح تسبیح نہ کرنے کے بارے میں حکمت یہ ہے کہ رمضان کے اس پورے عشرے میں خاص طور سے ذکر و عبادت کا زیادہ اہتمام کیا جائے چنانچہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ:-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت و ذکر کا وہ اہتمام فرماتے تھے جو دوسرے ایام میں نہ فرماتے تھے۔^۲“
اس شب میں زیادہ سے زیادہ قیام و سجود اور ذکر و تسبیح کی ترغیب دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”جب لیلۃ القدر آتی ہے تو حیری ملائکہ کے گھر میں نہیں پرکارتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا شد اگی یاد اور عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔“^۳
اور ارشاد فرمایا۔

۱۔ صحیح بخاری۔

۲۔ صحیح مسلم۔

۳۔ شعب الایمان ہمہقی۔

دو گو اتم پر ایک ہبہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار ہبہوں
کے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، وہ سارے کے سارے
نیبے سے محروم رہ گیا۔ اور اس شب کی خیر و برکت سے دھی محروم رہتا ہے جو دفعی
محروم ہے ॥ لہ

لیلۃ القدر کی خاص دعا

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا،
یا رسول اللہ اگر کسی طرح مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر
ہے، تو بتائیجے میں اس رات میں خدا سے کیا دعا کروں؟ ارشاد فرمایا۔ یہ پڑھو۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ عَفْوَكَ كَمَا يُحِبُّ تَحْبِيبُ الْعَفْوِ فَاغْفِرْ عَنِّي۔ لہ

”لے اللہ تو بہت ہی معاف فرمائے والا اور ٹھہرے ہی کرم والا ہے،
معاف کر دینا تجوہ پسند ہے، پس تو میری خطاؤں کو معاف فرمادے“

صدقہ فطر کے حکماں

مسلمانوں پر جس سال روزے فرض ہوتے اُسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ صدقہ فطر بھی ادا کریں خدا کی فرض کی ہوئی عبادتوں کو بندہ تمام آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام توکرنا ہے لیکن بھرپوری شعوری یا غیر شعوری طور پر بہت سی کوتاہبیاں ہو جاتی ہیں، روزے میں انسان سے جو کوتاہبیاں ہو جاتی ہیں ان کی تلافی کے لیے شریعت نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے کہ وہ رمضان کے آخر میں صدقہ فطر ادا کریں۔ اس سے ان کی کوتاہبیوں اور لغزشوں کی تلافی بھی ہو گی اور نادار مسلمان فراخی اور اطمینان کے ساتھ اپنے کھانے پینے اور سپنہ کی چیزوں کی فراہم کر کے نام مسلمانوں کے ساتھ عید کی نماز میں شریک ہو سکیں گے۔

ہر خوشحال مسلمان جس کے پاس اپنی ضرورتوں سے زیادہ اتنا مال ہو جس کی قیمت بقدر نصاب ہو جائے خواہ اس مال پر زکوٰۃ واجب ہو یا نہ ہو، اس کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔

صدقہ فطر عید سے دو ایک روز پہلے ہی ادا کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ نماز عید سے پہلے تو ادا کر ہی دینا چاہیے۔ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہے۔

اگر گیہوں دینا ہو تو ایک سیر تین چھٹانک دے۔
 اور جو یاد کا آٹا دینا ہو تو دو سیر جو چھٹانک دے۔
 چھپو ہارے یا منقے دینا چاہے تو وہ بھی دو سیر جو چھٹانک دینا ہوں گے۔
 صدقہ فطرانہی لوگوں کو دینا چاہیئے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ لہ



حج کا بیان

جمع اسلام کا پانچواں اہم رکن ہے۔ حج کا ایک ایجاد افراد تاریخی میں متظر ہے، جس کو نگاہوں میں رکھے بغیر حج کی عظمت و حکمت اور اصل مقصد کو سمجھنا ممکن نہیں، کفر و شرک کے طاقتوں ماحول میں گھرے ہوئے ایک بندہ مومن نے توحید خالص کا اعلان کیا اور باطل کی چھائی ہوئی ظالم طاقتوں اور حوناگوں رکاوٹوں کے باوجود، ایمان و تقویٰ، خلوص و للہیت، عشق و محبت جاں نشاری اور فدا کاری، ایثار و قربانی، بے آمیز اطاعت اور کامل سپردگی کے بے مثال جذبات و اعمال سے اسلام کی مکمل تاریخ تیار کی اور توحید و اخلاص کا ایک ایسا مرکز تعمیر کیا کہ رہنمی زندگی تک انسانیت کو اس سے توحید کا پیغام ملتا رہے۔

اسی تاریخ کو تازہ کرنے اور انہی جذبات سے دلوں کو گرانے کے لیے ہر سال دور دراز سے توحید کے پروانے اس مرکز پر جمع ہو کر وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کے پیشووا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، ذوکپڑوں میں ملبوس کبھی بیت اللہ کا والہانہ طواف کرتے ہیں، کبھی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑتے نظر آتے ہیں، کبھی عرفات میں کھڑے اپنے خدا سے مناجات کرتے

ہیں، کبھی قربان گاہ میں جا تو رملے کے نگلے پر حجہری پھیر کر اپنے خدا سے
سہید محبت استوار کرتے ہیں، اول بخشتے بخشتے: صبح دشام ایک ہی صداسے
حزم کی پوری فضائیونجتی ہے،

”اے اللہ تیرتے دربار میں تیرے غلام حافظہ میں، تعریف و محمد تیرا ہی
حق ہے، احسان کرنا تیرا ہی کام ہے، تیرے اقتدار میں کوئی دوسرا شریک
نہیں“^{۱۰}

در اصل انہی کیفیات کو پیدا کرنے اور پورے طور پر خود کو اللہ کے حوالے
کرنے ہی کا نام حج ہے۔

حج کے معنی

حج کے لغوی معنی ہیں، زیارت کا ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح
میں حج سے مراد وہ جامع عبادت ہے جس میں مسلمان بیت اللہ پہنچ کر کچھ شخصوں
اعمال اور عبادات کرتا ہے چونکہ حج میں مسلمان بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتا
ہے اس لیے اس کو حج کہتے ہیں۔

حج ایک جامع عبادت

اسلامی عبادات دو طرح کی ہیں، ایک بدنسی عبادات جیسے نمازوں، اور ایک
مالی عبادات جیسے صدقہ ذکر، دغیرہ حج کا امتیاز یہ ہے کہ وہ مالی عبادت بھی
ہے اور بدنسی عبادت بھی۔ دوسری مستقل عبادات سے، خلوص و تقویٰ، عجز و انتباخ
بندگی اور اطاعت، قربانی اور ایثار، فدائیت اور پردگی، انا بت اور عبادت کے
جو مذہبات الگ الگ نشوونما پاتے ہیں، حج کی جامعیت یہ ہے کہ اس میں

بیک وقت دیر سارے بند بات۔ دریفیات پیدا ہوتی اور پروان چڑھتی ہیں۔

ناز جو دین کا سرچشمہ ہے اس کی اقامت کے لیے روئے زمین پر جو سب سے پہلی مسجد تعمیر ہوئی، حج میں مومن اسی مسجد کے گرد والہانہ طواف کرتا ہے، اور عمر بھر دور دراز سے جس کھڑکی طرف رُخ کر کے مومن نماز پڑھتا رہا ہے، حج میں مومن کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ عین اس مسجد میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے۔

روزہ جو نفس و اخلاق کے تزکیہ کا موثر اور لازمی ذریعہ ہے، اور جس میں مومن مرغوبات نفس سے دودره کر صبر و ثبات کی قوتیں کو پروان چڑھاتا ہے اور خدا کی راہ کا سپاہی اور مجاہد بننے کی مشق بہم پہنچاتا ہے، حج میں الحرام پاندھنے کے وقت سے لے کر الحرام کھولنے کے وقت تک اسی مجاہد میں شب و روز بسر کرتا ہے، اور قلب و روح سے ایک ایک نقش کھڑ کر صرف خدا کی محبت کا نقش بٹھاتا ہے، اور شب و روز توحید کی صدائگا کر صرف توحید کا علمبردار منتاثا ہے۔

صد فہرزوں میں اپنا دل پسند مال دے کر بندہ مومن اپنے دل سے ذریعتی کے ریکیک بند بات دھوتا اور خدا کی محبت کے بیچ بوتا ہے، حج میں بھی آدمی عمر بھر کا جمع کیا ہوا مال، محس خدا کی محبت میں دل کھول کر خرچ کرتا اور اس کی راہ میں قربانی کر کے اس سے عہد و فا استوار کرتا ہے، غرض یہ کہ حج کے ذریعے خدا سے والہانہ تعلق، نفس و اخلاق کا تزکیہ اور رُوحانی ارتقا کے سارے مقاصد بیک وقت حاصل ہوتے ہیں پس طیکہ حج واقعی حج ہو، محس ارکان

حج ادا کرنے کا عمل نہ ہو۔

حج کی حقیقت

حج کی حقیقت دراصل یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کامل طور پر اپنے رب کے حوالے کر دے اور مسلم عذیت بن جائے سچ کی سعادت درحقیقت خدا کی طرف سے اس بات کی توفیق ہے، کہ اصلاح حال کی تمام منند کوششوں کے باوجود
بندے کی زندگی میں جو بھی کھوٹ اور نقص رہ جائے وہ ارکان حج اور مقامات
حج کی برکت سے دور ہو جائے اور وہ حج سے ایسا پاک صاف ہو کر لوٹے کہ
گویا اس نے آج ہی جنم لیا ہے، ساتھ ہی حج حقیقت حال کی ایک کسری بھی ہے
کہ کس نے خدا کی اس توفیق سے واقعی فائدہ اٹھایا ہے اور کون موقع پانے کے
باوجود محروم رہ گیا ہے، حج کے بعد کی زندگی اور اس کی سرگرمیاں واضح کر دیتی ہیں
کہ کس کا حج واقعی حج ہے اور کون حج کے سارے ارکان ادا کرنے اور بہت
اللہ کی زیارت کرنے کے باوجود حج کی سعادت سے محروم رہ گیا ہے۔ اور یہ بھی
ایک حقیقت ہے کہ حج کی توفیق پانے کے باوجود جو شخص اصلاح حال سے
محروم رہ جائے، اس کے پارے میں بہت ہی کم موقع رہ جاتی ہے کہ کسی اور
تدبیر سے اس کی اصلاح حال ہو سکے گی۔ اس لیے حج کا فریضہ ادا کرنے والے
کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے جذبات و احساسات اور ارادوں کا
اچھی طرح چائزہ لے اور حج کے ایک ایک رکن اور عمل کو پورے اخلاص اور
شعور کے ساتھ ادا کر کے حج سے وہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر جس کے
لیے حج فرض کیا گیا ہے۔

حضرت بنیدر الغدادی رجی خدمت میں ایک شخص حاضر، واجوبیت اللہ سے
والپس آیا تھا لیکن اس کی زندگی پر حجج کی چھاپ نہیں پڑ سکی تھی، آپ نے اس سے
دریافت فرمایا، "تم کہاں سے آ رہے ہے جب؟"

"حضرت، حجج بیت اللہ سے والپس آ رہا ہوں" "مسافرنے جواب دیا۔
"کیا تم حج کر چکے ہو؟" حضرت نے حیرت سے دریافت کیا،
"جی ہاں، میں حج کر چکا ہوں" "مسافرنے جواب دیا۔

حضرت نے پوچھا "جب تم حج کے ارادے سے گھر پار چھوڑ کر نکلے تھے
اس وقت تم نے گناہوں سے بھی کنارہ کر لیا تھا یا نہیں؟"

"حضرت! میں نے اس طرح تو نہیں سوچا تھا" "مسافرنے جواب دیا۔

"تو پھر تم حج کے لیے نکلے ہی نہیں" پھر دریافت فرمایا "اس مبارک سفر
میں تم نے جو جو منزليں طے کیں اور جہاں جہاں راتوں کو مقام کیے تو کیا تم نے اس
دو ران قرب الہی کی منزليں بھی طے کیں اور اس راہ کے مقامات بھی طے کیے؟"

"حضرت، اس کا تو مجھے دھیان بھی نہ تھا" "مسافرنے سادگی سے جواب دیا۔

"تو پھر تم نے نہیت اللہ کی طرف سفر کیا، اور نہ اس کی طرف کوئی منزل طے
کی" پھر دریافت فرمایا "جب تم نے الحرام باندھا، اور اپنے روزمرہ کے کٹھے
اتارے، تو کیا تم نے اس کے ساتھ ہی اپنی گرمی عادتوں اور خصلتوں کو بھی اپنی
زندگی سے اتار کچینکا تھا؟"

"حضرت اس طرح تو میں نے غور نہیں کیا تھا" "مسافرنے صاف جواب دیا۔

"پھر تم نے الحرام بھی کہاں باندھا؟" حضرت نے پر سوزن لہجے میں فرمایا "پھر پوچھا

جب تم میدان عرفات میں کھڑے ہوئے تو تمہیں شاہد کا گشٹ بھی حاصل ہوا یا نہیں؟
”حضرت میں سمجھا نہیں گی مطلب؟“ مسافرنے کہا۔

”مطلب یہ ہے کہ تم نے میدان عرفات میں خدا سے مناجات کرتے وقت اپنے اندر یہ کیفیت بھی محسوس کی کہ گویا تمہارا رب تمہارے سامنے ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو؟“
”حضرت یہ کیفیت تو نہیں تھی“ مسافرنے وضاحت کی۔

”پھر تو گویا تم عرفات میں پہنچے ہی نہیں“ حضرت نے پر جوش لہجے میں کہا اور پھر دریافت فرمایا۔ ”اچھا یہ بتاؤ جب تم مزدلفہ میں پہنچے تو وہاں تمہرے انہی نفاسی خواہشات کو بھی چھوڑا یا نہیں؟“

”حضرت میں نے اس پر قوکوئی توجہ نہیں کی“ مسافرنے جواب دیا۔
”تو پھر تم مزدلفے بھی نہیں گئے یہ حضرت نے فرمایا۔ اس کے بعد پوچھا۔ ”اچھا یہ بتاؤ جب تم نے بہت اللہ کا طوات کیا تو اس دوران تم جمالِ الہی کے جلوے اور کرشمے بھی دیکھے؟“

”حضرت اس سے تو میں محروم رہا“ مسافرنے کہا۔

”تو پھر تم نے طوات کیا ہی نہیں؟“ اور پھر دریافت فرمایا۔ ”جب تم نے صفا اور مرود کے درمیان سعی کی تو کیا اس وقت تم نے صفا اور مرود اور ایس کے درمیان سعی کی حکمت و حقیقت اور اس کے مقصود کو بھی پایا؟“

”حضرت اس کا تو مجھے شعرو نہیں“ مسافرنے کہا۔

”تو پھر تم نے الہی سعی بھی نہیں کی ہے، لپر دریافت فرمایا جب تم۔“

قریان گاہ میں پہنچ کر قربانی کے چالوڑ کو قربان کیا، اس وقت تم نے اپنے نفس اور
اور اس کی خواہشات کو بھی رہا و خدا ہیں قربان کیا یا نہیں؟ ॥

حضرت اس طرف تو سیرا دھیان نہیں گیا اس سافرنے کہا۔

”تو پھر تم نے قربانی بھی کہا کی؟“ اس کے بعد حضرت جنبدؓ نے پوچھا ”اچھا
یہ کہو جب تم نے جمادات پر سنگریزے پھنسکے تو اس وقت تم نے اپنے بُرے سُمُشیں
اور بُرے ساقیوں، اور بُری خواہشات کو بھی اپنے سے دور کھینکا کیا یا نہیں؟“

”حضرت ایسا تو نہیں کیا“ سافرنے سادگی سے جواب دیا۔

”تو پھر تم نےرمی بھی نہیں کی؟“ حضرت نے افسوس کے ساتھ کہا اور فرمایا
”جاؤ، واپس جاؤ، اور ان یقیانیات کے ساتھ ایک ہار پھر حج کرو۔ تاکہ حضرت
ابراهیمؑ کے ساتھ نسبت پیدا کر سکو، جن کے ایمان و دقا کا اعتراف کرتے ہوئے
قرآن نے شہادت دی ہے

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي دَفَّىٰ۔ (النجم: ۲۰)

”اور وہ ابراہیمؑ جس نے رائی نے رب سے) وفاداری کا حق ادا کر دیا“

حج کی عظمت و اہمیت

قرآن و سنت میں حج کی حکمت، دین میں حج کا مقام اور اس کی عظمت و
اہمیت پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے، قرآن پاک کا ارشاد ہے۔

**وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجْمٌ الْبَيْتُ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ لَهُ**

”لُوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم سے انکار و کفر کی روشن اختیار کرے تو وہ جان لے کر خدا جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔“

اس آیت میں دو حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے،

(۱) حج بندوں پر خدا کا حق ہے، جو لوگ بھی بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر فرض ہے کہ وہ خدا کا یہ حق ادا کریں۔ جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے وہ ظالم خدا کا حق مانتے ہیں، آیت کے اسی فقرے سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کی فرضیت کا اعلان اسی وقت ہوا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی، اور صحیح مسلم میں اسی مفہوم کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”۱۷۔ لَوْلَوْلَوْلَمْ پَرْ حَجَ فَرِضْ كَرْ دِيَأْيَا هَيْ، پَسْ حَجَ اَدَكْرْ وَ“

(۲) دوسری اہم حقیقت جس کی طرف یہ آیت متوجہ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا کافرانہ ردش ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَمَنْ كَفَرَ، جس طرح قرآن میں ترک صلوٰۃ کو ایک مقام پر مشتمل کا نہ عمل قرار دیا گیا ہے، اسی طرح س فقرے میں ترک حج کو کافرانہ ردیہ قرار دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

لَهُ حَاسِنَ تَرْمِدِی کتاب الحج۔

۱۷) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُو مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الرعد آیت ۳۱)
”دُنماز قائم کر دا اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔“

”جس شخص کے پاس حج کا ضروری سامان موجود ہو اور سواری فہیما
ہو جو اس کو خاتمہ خدا تک پہنچا سکے، اور پھر وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق
نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصاریٰ ہو کر اور یہ اس یہسے کہ خدا کا ارشاد
ہے، دَلِلُهُ عَلَى النَّاسِ حِجْمُ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَعَ آتَهُ مَيْلًا“ (آل عمران: ۹۷)
راوی کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی استطاعت رکھنے
کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو یہود و نصاریٰ کے مانند قرار دیا ہے تو یہ ایک
ایسی مسلم حقیقت ہے کہ خود قرآن میں بھی ایسے لوگوں کو یہی دعید سنائی گئی، بطور
حوالہ راوی نے آیت کا صرف ابتداءٰ حصرہ پڑھا دیا جس دعید کی طرف توجہ
دلانا مقصود ہے وہ آیت کے اس فقرے میں ہے،

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ - (آل عمران: ۹۲)

”اور جو لوگ استطاعت کے باوجود کفر و انکار کی روشن اختیار کریں وہ

جان لیں کہ خدا کو سارے جہاں کی پردا نہیں۔“

یعنی ترک حج کی کافرانہ روشن اختیار کرنے والوں سے خدا بے نیاز ہے، اس
کو ہرگز لیسے لوگوں کی پردا نہیں کہ وہ کس حال میں مرتے ہیں۔ یہ تشبیہ اور تہذیب کا

لہ حج نہ کرنے والوں کو یہود و نصاریٰ کے مانند قرار دیتے اور نماز نہ پڑھنے والوں کو
مشرکوں کے عمل سے تشبیہ دینے میں حکمت یہ ہے کہ اہل کتاب حج کو بالکل ترک کر جائے تھے اور
مشرکین حج تو کرتے تھے لیکن نماز کھو چکے تھے، اس لیے ترک صلاۃ کو مشرکانہ عمل قرار دیا گیا
اور ترک حج کو یہود و نصاریٰ کا عمل بتایا۔

سخت انداز ہے اور واقعہ یہ ہے کہ جس سے خدا تعالیٰ بے زاری اور بے نیازی کا اظہار فرمائے، وہ ایمان و ہدایت سے کیونکر بھرہ مند ہو سکتا ہے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ”میرا پختہ ارادہ ہے کہیں ان شہروں میں رجو اسلامی حکومت میں شامل ہو سکے ہیں، کچھ لوگوں کو روانہ کروں جو جائز ہے کہ دیکھیں کہ کون لوگ حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کر رہے ہیں پھر ان پر جزیہ مقرر کر دوں، یہ لوگ مسلم نہیں ہیں، یہ لوگ مسلم نہیں ہیں۔“^۱

مسلم اس شخص کو کہتے ہیں جو کامل طور پر خود کو اللہ کے حوالے کر دے، اور حج کی حقیقت بھی بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بالکل یہ خدا کے حوالے کر دے، پھر اگر یہ لوگ مسلم ہوتے تو حج کی سعادت سے کیوں کمحدوم رہتے، اور استطاعت کے باوجود حج سے غفلت کیوں کر رہتے۔

حج کی فضیلت و ترغیب

حج کی اسی اہمیت کے پیش نظر بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح سے اس کی ترغیب دی ہے اور اس کی غیر معمولی فضیلت کو مختلف انداز سے واضح فرمائکر اس کا شوق دلایا ہے، آپ کا ارشاد ہے،

(۱) ”جو شخص بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا، پھر اس نے نہ تو کوئی

لے حفاظتی دیکیں جو غیر مسلم شہریوں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے بعد میں دھول کیا جائے۔“^۲
لے المستقی۔

فخش شہروانی عمل کیا، اور نہ خدا کی نافرمانی کا کوئی کام کیا، تو وہ رُگنا ہوں سے
ایسا پاک صاف ہو کر لوٹے گا بیسا پاک صاف وہ اس دن تھا جس نے
اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔^۱
اور آپ نے ارشاد فرمایا

(۲) حج اور عمرہ کرنے والے خدا کے ہمہ ان ہیں، وہ لپنے (میزبان)
خدا سے دعا کریں تو وہ ان کی دعائیں قبول فرمائے اور وہ اس سے مغفرت
چاہیں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔^۲
اور ارشاد فرمایا

(۳) "حج اور عمرہ پے پہ پے کرتے رہا کر د، کیونکہ حج اور عمرہ دونوں ہی
فقرو احتیاج اور گن ہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹھی، لوہے
اور سونے چاندی کے میل کھیل کو صاف کر کے دور کر دیتی ہے، اور حج بہردار
کا اجر و صلح تو بس جنت ہی ہے۔"^۳

"حج بہردار" سے مراد وہ حج ہے جو پورے اخلاص و شور اور آداب و شرائط کے
ساتھ ادا کیا گیا ہو اور جس میں حج کرنے والے نے خدا کی نافرمانی سے بچنے کا پورا چورا
اہتمام کیا، وہ نبی رَأْپ نے ارشاد فرمایا

- ۱۔ تجارتی مسلم۔
- ۲۔ ابن ماجہ۔
- ۳۔ ترمذی، نسائی۔

(۴) "جب کسی زائر حرم سے تہاری طاقت ہو تو اس سے پہلے، کہ وہ اپنے گھر میں پہنچے اس کو سلام کرو، اور اس سے صاف نہ کرو، اور اس سے درخواست کرو کہ وہ تہارے پیئے خدا سے مغفرت کی دعا کرنے اس لیے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔"

(۵) حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا "حضرت امیر احمد بن سعید کمزور ہے اور میرا دل بھی ٹکار شاد فرمایا" تم ایسا چہاد کر دو، جس میں کائنات بھی نہ لگے ॥ سائل نے کہا "حضرت امیر ایسا چہاد کون سا ہے جس میں کسی تسلیمیت اور گزر تد کا اندیشہ نہ ہو" ارشاد فرمایا "تم حجج کیا کر رہے؟"

(۶) حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص میدان حربات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہی اپنی سواری پر متلا، کہ یہ کاپک سواری سے نیچے گرا اور استقال کر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو غسل دے کر احرام ہی میں دفن کر دو، یہ فیامت کے روز تلبیہ پڑھتا ہو ڈاٹھے گما۔ اس کا سر اور چہرہ کھلارہنے دو۔

لہ مسند احمد۔

لہ طبرانی۔

لہ دیکھیے اصطلاحات صفحہ ۲۸۳۔

لہ بخاری، مسلم۔

(۱) حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا سے التحاکی کر پروردگار! جو نبی مسیح سے تیرے گھر کی زیارت کرنے آئیں ان کو کیا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے داؤد باوہ میرے مہمان ہیں، ان کا یہ حق ہے کہ میں دنیا میں ان کی خطائیں معاف کر دوں اور جب وہ مجھ سے ملاقات کریں تو میں ان کو بخش دوں۔"

اجب حج کی شرطیں

وجوب حج کی شرطیں دس ہیں، ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو حج داجب نہ ہوگا۔

۱- اسلام

غیر مسلموں پر حج داجب نہیں ہو سکتا۔

۲- عقل

مجنون، دیوانے اور مخبوط المحسوس شخص پر حج داجب نہیں۔

۳- بلوغ

نا بالغ بچوں پر حج داجب نہیں، کسی خوشحال آدمی نے بچپن ہی میں بلوغ سے پہلے حج کر لیا تھا تو اس سے فرض نہ ادا ہوگا بالغ ہونے کے بعد پھر فرض ادا کرنا ہوگا، بچپن کا حج نفلی حج ہوگا۔

۴- استطاعت

حج کرنے والا خوشحال ہو اور اس کے پاس اپنی ضرورت اصلیہ اور قرضن سے محفوظ اتنا مال ہو جو راستے کے مصارف کے لیے بھی کافی ہو، اور حج سے واپس آنے تک اُس کے ان متعلقین کے لیے بھی کافی ہو جن کا نام نفقہ شرعیت کی رو سے اس پر داجب ہے۔

۵۔ آزادی

نلام اور بانہ می پر حج و احباب نہیں۔

۶۔ جسمانی صحت

یعنی کوئی ایسی بیماری نہ ہو جس میں سفر کرنا ممکن نہ ہو۔ لہذا انگریزے، اپاچ، ناہینا اور زیادہ بوڑھے شخص پر خود حج کرنا واجب نہیں، البتہ دوسرا می تمام شرطیں پائیں جائیں تو دوسرے سے حج کر سکتا ہے۔

۷۔ کسی ظالم و جابر عکران کی جانب سے جان کا خوف بھی نہ ہو اور آدمی کی کی قید و بندیں بھی نہ ہو۔

۸۔ راستے میں امن و امان ہو

اگر راستے میں جنگ چھڑی ہوئی ہو، جہاز ڈبوئے جا رہے ہوں، یا راستے میں ڈاکوؤں کا اندریشہ ہو، یا سمندر میں ایسی کیفیت ہو کہ جہاز اور کشتی کے لیے خطرہ ہو یا اور کسی قسم کے خطرات ہوں تو ان تمام صورتوں میں حج و احباب نہیں ہوتا البتہ ایسے شخص کو یہ وصیت کر جانا چاہیے کہ میرے بعد حب حالت سازگار ہوں تو میری جانب سے حج کر لیا جاستے۔

یہ آٹھ شرطیں تو مرد اور خورت دونوں کے لیے ہیں، ان کے علاوہ دو شرطیں اور ہیں جو صرف خواتین کے لیے ہیں گویا خواتین ہر حج و احباب ہونے کے لیے دس شرطیں ہیں۔

لہ یہی صاحبین کا مسلک ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

۹۔ سفر حج میں شوہر یا محروم کی معیت:- اس شرط کی تفصیل یہ ہے کہ اگر سفر تین شبانہ روز سے کم کا ہوتا تو خاتون کے لیے تنہ اسفل کی اجازت ہے، لیکن سفر تین شبانہ روز سے زیادہ کا ہوتا تو پھر شوہر یا محروم کے بغیر سفر حج جائز نہیں ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ محروم عاقل، بالغ، دیندار اور قابلِ اعتماد شخص ہو، نادان پچے یا فاسق ناقابلِ اعتماد شخص کے ساتھ سفر جائز نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو وجوبِ حج کی چونکی شرط میں یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ سفر حج میں ساتھ جانے والے محروم کے مصارف سفر کی ذمہ داری بھی حج کو جانے والی خاتون پر ہی ہو گی۔

۱۰۔ جس خاتون کا شوہر نہ ہو اور کوئی ایسا محروم بھی نہ ہو جس کے ساتھ سفر حج میں جا سکے تو پھر وہ ان رفقاء سفر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، جن کی اخلاقی حالت قابلِ الطینان ہو، یہ امام مالک اور امام شافعیؒ کا مسلک ہے، اور ”قابلِ الطینان رفقاء سفر“ کی تشریح امام شافعیؒ نے اس طرح فرمائی ہے، چند خواتین بھروسے کے قابل ہوں اور وہ اپنے محروم کے ساتھ چاری ہوں تو ایک بے شوہر اور بے محروم خاتون ان کے ساتھ جا سکتی ہے، البتہ صرف ایک خاتون کے ساتھ اسے نہ جانا چاہیے ॥ امام شافعیؒ کی یہ رائے ٹبیؒ محدث ہے اس میں ایک بے شوہر اور بے محروم خاتون کے لیے فرضہ حج کے ادا کرنے کی گنجائش بھی ہے اور اس فتنے کا اختلال بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے خاتون کے لیے بلا محروم سفر کی مانع نہ ہے۔

۱۱۔ ونقة الحرم عليه لا نہ تتولى به الی ادار الحج، ہدایہ جلد اول۔

۱۰۔ حالیت عدت میں نہ ہونا، خواہ عدت دفات کی ہر یا طلاق کی ہر
حال میں دوران عدت حجج دا جب نہ ہو گائے

صحبت حجج کی شرطیں

صحبت حجج کی چار شرطیں ہیں، ان شرطیں کے ساتھ حجج کیا جائے تو حجج صحیح اور معتبر ہو گا اور نہ نہیں۔

۱۔ اسلام

اسلام حجج کے وہوب کی بھی شرط ہے اور صحبت کی بھی، اگر کوئی غیر مسلم حجج کے ارکان ادا کر لے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ایمان لانے کی توفیق بخش دے تو اس کا حجج کافی نہیں ہو گا جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا تھا، اس لیے کہ حجج صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حجج کرنے والا مسلم ہو۔

۲۔ عقل و هوش

نا سمجھنے اور دلپڑانے شخص کا حجج صحیح نہیں۔

۳۔ سارے ارکان مقررہ ایام، مقررہ اوقات اور مقررہ مقامات ہیں ادا کرنا۔

حج کے ہمینے یہ ہیں: شوال، ذوالقعدہ، اور ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اسی طرح حج کے سارے ارکان ادا کرنے کے لیے اوقات بھی مقرر ہیں، مقامات بھی مقرر ہیں، اس کے خلاف ارکان حج ادا کیے جائیں گے تب بھی حج صحیح نہ ہو گا۔

۴۔ مفسدات حج سے بچنا اور حج کے سارے ارکان و فرائض ادا کرنا۔ اگر حج کا کوئی رکن ادا کرنے سے رہ گیا یا چھوڑ دیا تب بھی حج صحیح نہ ہو گا۔

حج کے احکام

۱۔ حج فرض ہونے کی ساری شرطیں موجود ہوں تو حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، حج فرضی عین ہے اور اس کی فرضیت قرآن و حدیث سے صاف صاف ثابت ہے، جو شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے، وہ کافر ہے، اور جو شخص شرائطِ دجوب پائے جانے کے باوجود حج نہ کرے وہ گنہگار اور فاسق ہے۔

۲۔ حج فرض ہو جانے کے بعد فوراً اسی سال ادا کر لینا چاہیے۔ فرض ہو جانے کے بعد بلا وجہ تاخیر کرنا اور ایک سال سے دوسرے سال پر ماننا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

”جو شخص حج کا ارادہ کرے اُسے جلدی کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار پڑ جائے یا ادنیٰ گم ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور ضرورت پیش آجائے۔“

ادنیٰ گم ہونے سے مراد یہ ہے کہ سفر کے ذریعہ باقی نہ رہیں، راستہ پر امن نہ رہے، یا اور کوئی الیٰ ضرورت پیش آجائے کہ پھر حج کرنے کا امکان نہ رہے اور آدمی فرض کا بو جھیلے ہوئے خدا کے حضور سا ضریب، حالات کی سازگاری یا

زندگی کا کیا انتہا، آخر کس بھروسے پر آدمی تاخیر کرے، اور جلد حج کر لینے کے بجائے مالتا چلا جائے۔

۳۔ فریضہ حج ادا کرنے کے لئے جن لوگوں سے اجازت لینا شرعاً ضروری ہے، مثلاً کسی کے والدین ضعیف یا بیمار ہوں اور اس کی مدد کے محتاج بھیں، یا کوئی شخص کسی کا مقرض ہو یا اپنا من ہو تو ایسی صورت میں ان کے اجازت لیے بغیر حج کرنا مکروہ تحریکی ہے۔

۴۔ حرام ذرائع سے کامے ہوئے مال سے حج کرنا حرام ہے۔

۵۔ جو شخص حرام بازار سے بغیر میقات کے اندر داخل ہو جائے، اس پر حج واجب ہے۔

۶۔ حج فرض ہو جانے کے بعد کسی نے تاخیر کی، اور پھر وہ سعد در ہو گیا، تاہینا، اپا رحیم یا سخت بیمار ہو گیا اور سفر حج کے قابل نہ رہا تو وہ اپنے مصادرت سے دوسرے کو حج کر جو بدل کرائے۔

میقات اور اس کے احکام

- ۱۔ میقات سے مraud وہ خاص اور متعین مقام ہے جس پر احرام باندھے بغیر مکرہ جانا چاہئیں، کسی بھی غرض سے کوئی مکرہ جانا چاہتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ میقات پر پہنچ کر احرام باندھ لے۔ احرام باندھے بغیر میقات سے آگے بڑھنا مکروہ تحریکی ہے۔
- ۲۔ مختلف ممالک کے رہنے والوں اور ان ممالک کی طرف سے آنے والوں کے لیے پانچ میقات مقرر ہیں۔

۱) ذوالخطیفہ

یہ مدینے کے رہنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس راستے سے مکرہ جانا چاہیں۔ یہ مقام مدینہ منورہ سے کام مکروہ آتے ہوئے تقریباً آٹھ، فوکلو میٹر کے فاصلہ پر ہے اور بیان سے کام کا فاصلہ تقریباً ڈھائی سو کلو میٹر ہو گا۔ یہ میقات مکرہ کے تمام میقاتوں کے مقابلے میں زیادہ فاصلہ پر ہے اور مدینے والوں کا یہ حق بھی ہے اس لیے کہ ہمیشہ سے مدینے والوں نے راو حق میں زیادہ قربانیاں دی ہیں۔

(۳) ذات عرق

یہ عراق اور عراق کی سمت سے آنے والوں کے لیے میقات ہے، یہ مکہ مظہر سے شمال مشرق کی جانب کڑے تقریباً اتنی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔
(۴) ججعہ

یہ ملک شام اور شام کی سمت سے آنے والے لوگوں کے لیے ہے، یہ مکہ سے مغرب کی جانب تقریباً ایک سو اتنی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

(۵) قرن المنازل

مکہ مظہر سے مشرق کی طرف جانے والے راستے پر ایک پہاڑی مقام ہے، جو مکہ سے اندازاً پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہ اہل نجد کے لیے میقات ہے اور ان لوگوں کے لیے جو اس راستے سے ہو کر آتے ہوں۔

(۶) میمطم

مکہ مظہر سے جنوب مشرق کی جانب بین سے آنے والے راستے پر ایک پہاڑی مقام ہے جو مکہ مظہر سے تقریباً سانچھے کلومیٹر کی دوری پر ہے، بین اور بین کی سمت سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے، اولیٰ بند اور اہل پاکستان کو جو اسی میقات پر احرام باندھنا ہوتا ہے۔

یہ میقات خود بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں، جبکہ نیجے بند اور صحیح مسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ موقوفیت ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان موقوفیت سے باہر کے رہنے والے ہیں اور ہم کو اصطلاح میں آفاقی کہتے ہیں۔ ربے دہ لوگ جو میقات کے اندر رہتے ہیں، اگر زندگی و

حرم میں رہتے ہیں تو ان کے لیے حرم ہی میقات ہے اور اگر حدود حرم سے
باہر حل میں رہتے ہیں تو ان کے لیے حل میقات ہے البتہ حرم کے رہنے
والے بھی عمرے کے لیے احرام باندھ میں تو ان کے لیے میقات حل ہے
حرم نہیں۔

حج کے فرائض

حج میں چار بائیں فرض ہیں، ان ہیں سے کوئی بات بھی چھوٹ چائے تو حج ادا نہ ہو گا۔

- ۱۔ احرام:- یہ حج کے بیس شرط بھی ہے اور حج کا رکن بھی ہے۔
- ۲۔ وقوف عرفات:- خواہ چند ہی لمحے کے لیے ہو۔
- ۳۔ طوافِ ثرہارت:- اس کے پہلے چار شوط فرض ہیں اور بعد کے تین شوط واجب۔

ہم۔ ان تینوں فرائض کو مقرہ مقامات، مقررہ اوقات میں معین ترتیب کے مطابق ادا کرنا۔

احرام اور اس کے مسائل

- ۱۔ حج کی نیت کر کے حج کا باس پہلنے اور تلبیہ پڑھنے کو احرام کہتے ہیں۔ حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لینے کے بعد آدمی محرم ہو جاتا ہے، جس طرح نماز میں تکبیر تحریک کہنے کے بعد آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے اور کھانا پینا، چلنا پھرنا وغیرہ اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے اسی طرح احرام باندھ لینے کے بعد حج شروع ہو جاتا ہے اور بہت سی چیزوں جن کا کرنا حرام سے پہلے جائز اور مباح تھا، حالت احرام میں ان کا کرنا حرام اور ممنوع

ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو احرام کہتے ہیں)۔

۲۔ کسی بھی مقصد سے کئے جانا ہو، سیر و سیاحت کے لیے ہو یا تجارت کے لیے یا کسی اور مقصد سے ہوا بہر حال یہ ضروری ہے کہ میقات پر پہنچ کر احرام بازدھ لیا چلے، احرام باندھے بغیر میقات سے آگے نکل جانا مکروہ تحریکی ہے۔

۳۔ احرام کے لیے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مُذکور مولود ہے، نابالغ بچوں کے لیے بھی غسل کرنا مسنون ہے، اور خواتین اگر حالتِ حیض و نفاس میں ہوں تب بھی غسل کرنا مسنون ہے، ہاں اگر غسل کرنے میں دشواری ہو یا کسی تکلیف کا اندازہ ہو تو پھر دخوہی کر لینا چاہیے۔ غسل یا دخوہ مخصوص صفائی سترہائی کے لیے ہے، طہارت اور پاکی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے پالی نہ ہونے کی صورت میں اس کے بجائے تمیم کرنے کی ضرورت نہیں۔

۴۔ احرام کے لیے غسل کرنے سے پہلے سرد غیرہ کے پال نبوانا، ناخن کتر دانا اور سفید چادر اور سفید تہجد استعمال کرنا اور خوشبو لگانا سخب ہے۔

۵۔ میقات پر پہنچنے سے پہلے بھی احرام باندھنا جائز ہے، اور اگر احرام کے آداب کا پاس و لحاظ ہو سکے تو افضل ہے، اور میقات پر پہنچنے کے بعد تو احرام باندھ لینا واجب ہے۔

۶۔ حالت احرام میں ممنوع کام

ان میں سے بعض کام تزوہ ہیں جن کا کرنا بہر حالت میں ممنوع اور گناہ ہے، لیکن احرام میں ان کا انتکاب اور زیادہ بُرا ہے۔

(۱) جنسی افعال میں مبتلا ہونا، یا جنسی گفتگو کرنا، اپنی بیوی سے بھی اس طرح

کی گفتگو سے لذت اندوز ہونا ممنوع ہے۔

(۲) خدا کی نافرمانی اور گناہ میں غبتلا ہونا۔

(۳) اڑائی جگڑا اور گالی ٹکوچ کرنا، سخت کلامی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔

(۴) جنگلی جانور کا شکار کرنا، نہ صرف خود شکار کرنا حرام ہے بلکہ شکار کرنے والے کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کرنا، یا شکار کرنے میں اس کی رہنمائی کرنا یا شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی ممنوع ہے۔

(۵) سلے ہوئے کپڑے مثلاً، قمیص، پاچاہ، شیروالی، کوٹ، تپلوں، ٹوپی، موزہ، دستائی، بنیان وغیرہ پہننا۔

خواتین کے لیے جائز ہے کہ شلوار، قمیص پہن لیں، موزے بھی پہن سکتی ہیں اور چاہیں تو زبرد بھی استعمال کر سکتی ہیں۔

(۶) شورخ اور خوشبو دار رنگ میں رنگھے ہوئے کپڑے پہننا۔ خواتین لشی کپڑے پہن سکتی ہیں اور رنگیں کپڑے بھی، البته رنگ خوشبو دار نہ ہونا چاہیے۔

(۷) سرا اور چہرے کا چھپانا، خواتین ضرورت کے وقت کسی پنکھے اور چادر وغیرہ سے آڑ کر لیں تو جائز ہے۔

(۸) سرا اور داڑھی وغیرہ کا خطہ یا صابون وغیرہ سے دھونا۔

(۹) جسم کے کسی بھی حصے کے ہال منڈوانا۔ یا کسی بھی دوایا یا بال صفائی پاؤڑ وغیرہ سے بال صاف کرنا، یا اگھاڑنا، یا جلانا۔

(۱۰) ناخن کاٹنا، یا پتھرو وغیرہ پر گھس کر صاف کرنا۔

(۱۱) خوشبو کا استعمال کرنا۔

(۱۲) تیل کا استعمال کرنا۔

۷۔ حالت احرام میں جائز کام

اوپر جن منوع باتوں کا ذکر کیا گی ان کے علاوہ ساری باتیں جائز ہیں یعنی
بائیں بطور مثال لکھی جاتی ہیں :-

۸) کسی چیز کے بستے میں آرام لینا۔

(۹) نہاننا اور سرد صونا، مگر سابق وغیرہ سے نہ دھونے۔

(۱۰) بدن یا سر کھجانا۔ البتہ استھیاط کی جائے کہ بال نہ ٹوکیں اور اگر میں
جوکیں ہو گئی ہوں تو وہ نہ گریں۔

(۱۱) اپنے پاس رقم رکھنا یا کمزیں مہتھیا ریا رقم وغیرہ باندھنا۔

(۱۲) غالی اوقات میں تجارت کرنے میں بھی کوئی مضافق نہیں،

قرآن میں ہے

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ۔ (البقرة: ۱۹۸)

”دریں جو میں اگر تم اپنے پر درد گھار کا فضل کی تلاش کرتے ہا تو کوئی

مضائق نہیں۔“

(۱۳) احرام کے کپڑے بدلنا اور ان کو دھونا۔

(۱۴) انگوٹھی اور گھڑی وغیرہ پہنانا۔

(۱۵) سرمه لگانا، مگر سرمه خوشبو دار نہ ہو۔

(۱۶) ختمہ کرانا۔

(۱۷) نکاح کرنا۔

(۱۱) مودی جانوروں کو مارنا۔ مثلاً چیل، کوا، چوڑا، سانپ، بھپتو، شیر، پیتا، بھیریا، کتا وغیرہ۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ "حرم میں اور احرام کی حالت میں پلچ قسم کے جانوروں کو مارنے میں کوئی مضافعہ نہیں، چوڑا، چیل، بھپتو اور حملہ کرنے والا کتا۔" (یعنی درندہ)۔

(۱۲) بھری شکار کرنا بھی جائز ہے اور اگر کوئی غیر محرم اپنے لیے خشکی کا شکار مار کر محرم کو تھفے میں دے تو اس کا کہانا بھی جائز ہے۔

۸۔ احرام کا طریقہ

اچھی طرح بال ناخن وغیرہ بوا کر اور غسل کر کے، خوشبو لگائے اور احرام کے کپڑے یعنی ایک چادر اور ایک تہمد زیب تن کر لے پھر دور کعت نفل نماز پڑھ کر حج یا عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھے تلبیہ پڑھتے ہی احرام بندھ جاتے اور وہ شخص محرم ہو جاتا ہے۔ تلبیہ کے پہلے اگر قربانی کا اونٹ لکھ کی طرف روانہ کر دے تو وہ تلبیہ کے قائم مقام ہو جائے گا۔

۱۔ اگر مفرد ہو تو خالی حج کی نیت کرے، قارن ہو تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے، اور متشع
ہو تو پہلے عمرے کی نیت کر کے عمرہ کرنے اور عمرے سے فارغ ہو کر حج کی نیت کرے،
مفرد، قارن، متشع کے لیے دیکھیے، اصطلاحات صفحہ (۳۶۴ م ۳۷)

تبلیغ اور اس کے مسائل

حج کی نیت کرتے ہی زائر حرم جو کلمات کہتا ہے اس کو تبلیغ کہتے ہیں،
تبلیغ یہ ہے:-

**لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
إِنَّ الْحَمْدَ وَالْعِزْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ**

”میں حاضر ہوں اسے اللہ! میں حاضر ہوں، تیری پکار پر تیرے سپور
حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، یہ حقیقت ہے کہ حمد و شکر کا منحصر تواری ہے،
احسان والاعام تیرا ہی کام ہے، افتدار تیرا ہی حق ہے، تیرے افتدار میں
کوئی شریک نہیں۔“

۱۔ احرام باندھنے کے بعد ایک ہار تبلیغ کہنا فرض ہے، اور ایک ہار سے
زیادہ کہنا سلت ہے۔

۲۔ احرام باندھنے کے بعد سے دسویں تاریخ کو پہلے جمروں کی رونی تک برابر
تبلیغ کا دور کر کے، ہر نشیب میں اترتے وقت، ہر بلندی پر چڑھتے وقت ہر
قافلے سے ملتے وقت، ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور ہر صبح دشام
تبلیغ پڑھتا رہے۔

۳۔ تبلیغ بلند آواز سے پڑھنا مسنون ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

”میرے پاس حبرِ الکتبہ السلام آئے اور انہوں نے خدا کی طرف سے مجھے یہ فرمان پہنچایا کہ میں اپنے ساتھیوں کو حکم دے دوں کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔“
ہم۔ جب بھی تلبیہ کے تو تین بار کہے، تین بار تلبیہ کہنا مستحب ہے۔
۵۔ تلبیہ کہتے وقت گفتگو کرنا مکروہ ہے، البتہ سلام کا جواب دینے کی اجازت ہے۔

۶۔ جو شخص تلبیہ کہہ رہا ہو اس کو سلام نہ کرنا چاہیے، تلبیہ کہنے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔
۷۔ تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔
تلبیہ کی حکمت اور فضیلت
تعظیز کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا،
”ادر لوگوں کو حج کے لیے فام منادی کراؤ کہ وہ تمہارے پاس دُرد

۸۔ موقتاً مالک، اتر مذہبی، ابو داؤد وغیرہ، مگر خواتین کے لیے سنون یہ ہے کہ تلبیہ پڑھنے میں اپنی آواز بلند نہ کریں، بدایہ میں ہے، ولا ترفع صوتها بالتكبیة لافیہ من المفتنہ ولا ترمل ولا تسعی بین المیان لانہ محل استر العورۃ (کتاب الحج) یعنی خاتون تلبیہ کہنے میں اپنی آواز بلند نہ کرے، اس لیے کہ اس میں فتنہ کا اندیشہ ہے، اور نرم مل کرے اور نہ سخی اس لیے کہ دُرستے سے اس کی پرداہ پوشی میں خلل پڑے گا۔

دراز سے پیدل اور اذنُوں پر سوار ہو کر آئیں ॥

در اصل تلبیہ خدا کی اس حامی معاشری اور پکار کا بندوق کی طرف سے جواب ہے، کہ پروردگار ہم نے تیری پکار شنی اور تیری طلبی پر تیر سے حضور تیر سے دربار میں حاضر ہیں، زائرِ حرم رہ کر پاربار یہ صدالگانہ تھے تو درحقیقت وہ کہتا ہے کہ پروردگار تو نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کا حکم دیا، اور ہم صرف تیری محبت میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دیوانہ دار حاضر ہو گئے۔ ہم تیرے اس احسان اور توفیق کا شکر ادا کرتے ہیں، تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں، یہ صد اموں کے رگ دپے میں تو حید کے عقیدے کو پیوست کرتی ہے، اور اسے تیار کرتی ہے کہ اس کے وجود کا مقصد دنیا میں صرف یہ ہے کہ وہ توحید کا پیغام حامی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کی فصیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا

”جبکہ یہی کوئی مسلمان بندہ بیک کی صدالگانہ تھے تو اس کے ساتھ وہ ساری چینیں بیک پکارا لٹھتی ہیں جو اس کے آس پاس موجود ہیں خواہ وہ پھر درخت، اور مٹی کے ڈھیلے ہی ہوں یہاں تک کہ یہ زمین ادھر سے بھی ختم ہو جاتی ہے اور ادھر سے بھی یعنی یہ سلسلہ پوری زمین پر بھی پھیل جاتا ہے ॥“

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”جو خرم بھی پورے دن بیک پکارتا ہے یہاں نک کر سوتا

غروب ہو جائے تو اس کے سارے گناہ فنا ہو جاتے ہیں اور وہ ایسا
پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اُسے جہنم دیا تھا۔

تلبیہ کے بعد کی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضْوَانَكَ وَالْجَنَّةَ وَأَعُوذُ
بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ۔

”اسے اللہ! میں تجدید سے تیری رضا اور جنت کا بھکاری ہوں اور

تیر سے دامد جنت میں درزخ کی آگ سے پناہ دو صرف نہ تا ہوں۔“

”حضرت عمرہ بن خزیمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم حب (حرام باندھنے کے لیے) تلبیہ پڑھتے تو تلبیہ پڑھنے

کے بعد اللہ سے اس کی رضا اور جنت کا سوال کرتے دراں کی رحمت کے
طفیل جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔

حرام کے بعد زائر حرم جو دعا چاہے مانگئے اور خوب مانگے لیکن پہلے

اس ستوں دعا کا اہتمام ضرور کرے، یہ ہر ہی جائز دعا ہے۔ خدا کی رضا اور

جنت کا حصول اور آتش جہنم سے نجات یہی مومن کی انتہائی تمنا دراں کی دوڑ

دھوپ کا حامل ہے۔

وقوف اور اس کے سائل

۱۔ وقوف کے معنی ہیں کھڑا ہونا اور تغیر نہ، حجج کے دوران میں مقامات پر وقوف کرنا ہوتا ہے اور تمیں کے احکام مختلف ہیں، نیز وقوف کا عمل کرنے کے لیے ان مقامات میں پہنچ جانا ضروری ہے، وقوف کی نیت کرنا اور کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔

۲۔ سب سے اہم وقوف وقوف عرفات ہے، عرفات ایک نہایت وسیع اور کشادہ میدان ہے، حرم کی حدود جہاں ختم ہوتی ہیں وہیں سے عرفات کا علاقوہ شروع ہو جاتا ہے، یہ میدان مکہ مکرہ سے تقریباً ۶۰ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ میدان عرفات میں وقوف، حجج کے ارکان میں سے بھی بڑا رکن ہے، بلکہ ایک موقع پر تونبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفات ہی کو حج فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے

الْحَجَّ يَعْرَفُ فِي الْمَدِينَةِ

”عرفے میں وقوف ہی حج ہے۔“

لئے اہل حدیث کے نزدیک وقوف کی نیت کرنا شرط ہے۔

تھے جامی ترمذی۔

عرفے کے دن جب میدان عرفات میں لاکھوں انسان ایک ہی لباس پہنے اپنے خدا کے حضور عبزر و اختیار کی تصور بنتے کھڑے ہوتے ہیں تو اتنے وقت کے لیے انسان اس دنیا سے اندر گویا میدانِ حشر میں پہنچ جاتا ہے اور اسی ایمان افسر و منظر ہوتا ہے۔ میدان عرفات میں وقوف کرنے کے دراصل میدانِ حشر کی یاد تازہ ہوتی ہے۔

وقوف عرفات کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کسی دبیر سے حاجی ۹ رذوالحجہ کو دن میں یا اس دن کے بعد والی رات میں کسی وقت بھی عرفات میں نہ پہنچ سکا تو اس کا حج نہ ہوگا۔ حج کے دوسرے مناسک طوافتِ سعی، رمی و غیرہ رہ جائیں تو ان کی تلافي ممکن ہے لیکن وقوف عرفہ رہ جائے تو اس کی تلافي کی کوئی صورت نہیں۔

۴۔ وقوف عرفات کا وقت ۹ رذوالحجہ کو بعد زوال، ظہر و حصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہے، لیکن چونکہ یہ حج کا رکنِ اعظم ہے اور اسی پہنچ کا دار و مدار ہے اس لیے اس کے وقت میں کشادگی کر کے مہولتِ دمی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ۹ رذوالحجہ کی دریافتی شب میں صبح صادق سے پہلے پہلے کسی وقت کی لمحے بھر کے لیے عرفات پہنچ جائے تو اس کا وقت معتبر ہوگا اور اس کا حج ادا ہو جائے گا۔

۵۔ وقوف عرفات بتنازی اور طویل ہوا چاہا ہے، اس شعور اور تصور کے ساتھ خدا کے حضور کھڑا ہونا، کہ گویا میدانِ حشر ہے اور میں سب سے بے تعلق تنہیا اپنا معاملہ

۶۔ حضرت عبد الرحمن بن عبیر دلکی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے تھا "حج و قوف عرفہ ہے اس جو شخص مزدلفہ والی رات میں طلوع فجر سے پہلے پہنچ گیا اس نے حج پالیا" (ترمذی، ابو داؤد)

چکانے کے لیے ادراں سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے کے لیے سراپا احتیاج، اس کے حضور کھڑا ہوں، مون کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے، اور کیا معلوم زندگی میں پھر بہ سعادت نصیب ہوتی ہے یا نہیں، اس لیے ایمان و احتساب کی قوتوں کو زندہ رکھتے ہوئے پورے شعور کے ساتھ اس روز و شب کے ایک ایک لمحے کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہارے میں حضرت جابر بن عبد اللہ عنہ کا بیان ہے

”پھر (ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد) آپ (انپی ناقہ قصوار پر) سوار ہوتے اور میدان عرفات میں خاص دقوف کی جگہ پر آتے اور آپ نے اپنی اذٹنی قصوار کا رُخ ادھر کر دیا بعد مرتپر کی بڑی بڑی چنانیں ہیں اور پیدل مجمع کو اپنے سامنے کر کے آپ قبلہ رُو ہو گئے اور وہیں کھڑے رہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہونے کا وقت آگیا، اور آفتاب کی زردی بھی ختم ہو گئی یہاں تک کہ آفتاب بالکل غروب ہو گیا تو آپ (مزدلفہ کے لیے) روانہ ہوئے۔“

۵۔ دقوف عرفات کی اہمیت اور فضیلت بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”درusal کے ۴۰ دنوں میں (کوئی) دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ عرف کے دن سے زیادہ فریضہ پہنانے پر اپنے بندوں کو جہنم کی آگ

سے رہائی بخشتا ہو، اس دن اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب آ جاتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوتے ان سے کہتا ہے فرشتو! دیکھتے ہو یہ بندے کیا پاہتے ہیں؟“

”د حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں وقوف فرمایا، آنتاب غروب ہونے ہی کوئی خدا کر آپ نے حضرت بلاں رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا کہ لوگوں کو خاموش کر دو، حضرت بلاں ٹھنے لوگوں سے کہا ”خاموش ہو جاؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگو! ابھی ابھی میرے پاس جبریلؑ آئے تھے انہوں نے مجھے خدا کا سلام اور یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ نے تمام عرفات والوں کو بخش دیا۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ؟ یہ پیغام ہم صحابہ کے لیے خاص ہے یا ساری امت کے لیے ہے۔

حضرت نے فرمایا

”یہ تمہارے لیے ہے اور ان سارے لوگوں کے لیے ہے جو تمہارے بعد سیاں آئیں۔“

۴۔ میدان عرفات کی دعائیں

میدان عرفات میں دعاوں کا خاص طور سے اعتمام کرنا چاہیئے اور دھان

کے وقوف میں مسلسل خدا کی طرف متوجہ رہنا چاہیئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”سب سے بہتر اور افضل دعا عرف کے دن کی دعا ہے ॥“ فیل میں چند مسنون دعائیں نقل کی جاتی ہیں۔

(۱) میدان عرفات میں آپ نے یہ دعا کشتت سے مانگی ہے۔

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَأَلِّيْنِيْ نَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ
اللَّهُمَّ لَكَ صَلَوَتِي وَذِكْرِي وَحُمْيَايَ وَمَمَاتِي وَإِلَيْكَ مَأْتَيْ
وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُورِ
وَدُسُرَسَةِ الصَّدَارِ وَشَتَّاتِ الْأَفْرِسِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
بِكَ مِنْ شَرِّ مَاتَ حَيْ بِهِ الرِّيحُ لَهُ

”اے اللہ! تو الیسی ہی حمد و تعریف کا مستحق ہے، جیسی تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے اور اس سے بہتر تعریف کا مستحق ہے جیسی ہم کر سکتے ہیں۔

اے اللہ! اسی ہی یہے ہے میری نماز اور میری قربانی، میری مرث اور میری زندگی، اور نیری ہی طرف مجھے لوٹ کر آنا ہے۔ اے اللہ! یہیں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، دلوں میں پیدا ہونے والے دسوں سے معاملات کی خرابی اور خلفشار سے اور اے اللہ! یہیں تیری پناہ میں آتا ہوں ان آنکھوں سے جنہیں ہوائیں لے کر آئیں ॥

(۲) الحزب المقبول میں ایک نہایت جامع دعا منقول ہے۔ اس کا

اہتمام کبھی باعث بُرکت ہے،

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَكَ بِهِ نِبِيُّكَ
 حَلََّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْوَدَ بِكَ مِنْ شَيْءٍ فَاسْتَغْفِرَ
 بِهِ نِبِيُّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا لَفْسَنَا
 وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِنَ الْخَسِيرِينَ
 رَبِّ اجْعَلْنِي مُقْبِلًا الصَّلَاةَ وَمِنْ ذُرْرَاتِي رَبَّنَا وَلَقَبْلِ
 دُعَاءِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي دَلِيلَ الدَّائِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ
 يَقُومُ الْحِسَابُ هَذِهِ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّنِي صَغِيرًا طَ
 رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا قَرَاهُوا نَا إِنَّا يَسْبُقُونَا بِالْإِيمَانِ
 وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غُلَامَ لَكَ دِينَنَا اسْتَوْزَنَا إِنَّكَ
 رَوْفٌ رَّحِيمٌ هَذِهِ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَنْتَ
 غَلِيْدَنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ وَلَدَحْوَنَ وَلَكَ فُرْتَةٌ
 إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

مدائے اللہ ایں تجھے اس بھلائی کا طالب ہوں جو تمہارے
 تیرے نبی مصلی اللہ علیہ وسلم نے یا انگی ہے، اور ان ساری ہزاروں کے تیرے نبی پیغمبر نبہ
 چاہتا ہوں، جن کے تیرے تیرے نبی گئے تیرے پڑھوں، اسی سے پورا ہو
 ہم نے اپنی بیانوں پر بڑا ہی ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہماری مذمت نافرماے، اور
 ہم پر حرمہ کھائے تو ہم ان میں سے ہیں جو سراسہ گھائے میں ہیں
 اے میرے رب ا مجھے ناز قائم کرنے والا بنا ارزیہ نی اولاد کو نبھی س

کی توفیق دے۔ پروردگار! ہماری دعا کو شرف قبول عطا فرماء! پروردگار!

میری مغفرت فرمادے، امیرے والدین کی مغفرت فرمادے، اور اس روز

سارے ہی مسلمانوں کو بخش دئے جس روز حساب کتاب ہو گا۔

اسے امیرے رب! امیرے ماں پاپ دونوں پر رحم فرماء، جس طرح دونوں

نے میرے بھپن میں رحم و شفقت کے ساتھ، میری پروردش کی ہے، پروردگار!

ہماری مغفرت فرماء، اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرماء جو ایمان لانے میں

ہم سے بیقت لے گئے ہیں اور ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی کبینہ

کپٹ نہ ہونے دے جو ایمان لائے، ہمارے پروردگار! بلاشبہ تو بہت

ہی مہر ہاں اور بڑا رحم کرنے والا ہے، پروردگار! ابے شک تو سب کچھ

سننے والا اور سب کچھ بانٹنے والا ہے، تو ہماری توبہ قبول فرمائے شک

تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کھانے والا ہے،

معصیت سے بچنے کی کوئی طاقت اور فرمان برداری کی استطاعت کہیں سے

حاصل نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے جو بہت ہی بلند اور بڑی ہی عظمت والا

ہے۔

رَبِّنَا مَنْعِلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَمُ نَعْلَمُ مَا نَعْلَمُ فِي الْأَخْرَى وَمَا يَعْلَمُنَا

لشیت سے کرتے رہو۔

رَبِّنَا أَنْتَ أَنْتَ فِي الدُّنْيَا أَحَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ أَحَسَنَةٌ

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

۱۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں

بھی بھلائی دئے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔

آن سنون دعاؤں کے علاوہ کچھ اور سنون دعائیں بھی ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں اور ان کے علاوہ بھی آدمی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو دعائیں مانگنا چاہے مانگے اور خوب مانجے، اس لیے کہ اس وقت خدا بندے پر بہت ہی مہربان ہوتا ہے، اور اپنے مہمان کو محروم نہیں کرتا۔

۷۔ مزدلفے میں وقوف واجب ہے اور مزدلفے کے حدود میں پا پیادہ داخل ہونا سنون ہے، مزدلفے میں وقوف کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو کر طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ اگر طلوع فجر سے پہلے وقوف کیا، یا طلوع آفتاب کے بعد کیا تو یہ وقوف معتبر نہ ہو گا۔

۸۔ مزدلفہ میں وقفہ وقفہ سے تلبیہ، تہلیل اور تحسید کہنا مستحب ہے، اور مزدلفہ میں ایک شب گزارنا سنون ہے، حدیث میں ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے اور وہاں آپ نے مغرب اور عشار کی نماز ایک ساتھ ادا کی، پھر وہاں لیٹ گئے اور طلوع فخر نک آرام فرماتے رہے۔ پھر طلوع فخر کے بعد آنحضرت نے صبح کی نماز ادا فرمائی۔

۹۔ ذوالحجہ کی آخر تاریخ کو کسی وقت منی میں پہنچنا سنون ہے اور مستحب

یہ ہے کہ طلوعِ آفتاب کے بعد وہاں پہنچ کر وہیں ظہر کی نماز پڑھی جائے اور
نہیں شب میں آرام کیا جائے۔

طواف اور اس کے مسائل

طواف کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کے ارد گرد پکر لگانا اور گھومنا۔ اور اصطلاح یہیں طواف سے مراد ہے بیت اللہ کے گرد والہانہ گھومنا اور پکر لگانا۔

بیت اللہ کی عظمت اور مرتبہ

بیت اللہ اینٹ پھر کی محض ایک عمارت نہیں ہے بلکہ وہ رسمی زمین پر خدا کی عظمت کا مخصوص نشان اور اس کے زین کا خصوص مرکز ہے، جو خود اللہ نے اپنی نگرانی اور ہدایت کے تحت ایک ایسے اولو العزم پیغمبر سے تعمیر کرایا ہے جن کی امامت پر یہود، نصاریٰ، اور مسلمان سب ہی متفق ہیں اور قرآن پاک کی شہادت ہے کہ سطح زمین پر خدا کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ یہی بیت اللہ ہے۔

إِنَّ أَذْلَلَ بَيْتٍ وَّضَعَمَ لِلَّذِي أَنْسَى اللَّهَ دِيْنِي بِكَةً۔ (آل عمران: ۹۶)

و بلاشبہ سب سے پہلا عبادت کا گھر جو انسانوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہ

درہی ہے جو مکے میں ہے۔^{۱۱}

در اصل بیت اللہ دین کا نبیع اور مرکز ہے، قرآن کی وضاحت کے مطابق یہ

تو حجید کا سرچشمہ اور نماز کی اصل بُگم ہے، اور یہی توحید و نمازوں پر ہے دین کا مفہم اور
خلافہ ہیں، توحید کے پہلو سے تو حجید دین کی اصل بنیاد ہے، اور عکل کے پہلو
سے نمازوں کی اساس ہے، اور ربیت اللہ کی تعمیر انہی دو بنیادی مقاصد کے
لیے ہے، اسی لیے خدا نے اس کو خیر و برکت کا سرچشمہ اور ہدایت کا منبع فراہ
دیا ہے

مَبَارِكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ۝ رَأَلْ مُرَان: ۹۶)

«اس کو خیر و برکت دی گئی ہرور تمام جہان والوں کے لیے اس کو منبع

ہدایت بنایا گیا ہے»

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دو مقامات پر "بَيْتِي" (میراگھر) کہا ہے
اور حضرت ابراہیم نے بھی اپنی ذرتیت کو لے کی پیش دادی میں بستے ہوئے

سورہ بقرہ آیت ۱۷۵ میں ہے، "وَعَهْدَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِرَا
بَيْتِي لِلظَّاهِرِينَ وَالْغَايِقِينَ وَالرَّاجِعِ السُّجُودِ" اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل
کو وصیت کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور
سورہ الحج آیت ۲۴ میں ہے، "وَإِذْ يَوْمَ أَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا شُرِيكَ لِي
شَيْئًا أَرْطَقْهُ بَيْتِي لِلظَّاهِرِينَ وَالْغَايِقِينَ دَالِلَّرَجِعِ السُّجُودِ" اور یاد کرو
وقت جیکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی، (اس ہدایت کے ساتھ) کہ میرے ساتھ
کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام درکوع و سجود کرنے
والوں کے لیے پاک رکھو۔

کہا ہے نذریا امیں ان کو "تیر سے گھر" کے پڑوس میں بسرا ہوں، اور بیت اللہ کی عظمت اس سے زیادہ اور کیا ہو گی کہ اللہ نے اس گھر کے حج کو مسلمانوں پر اپنا ایک حق بتایا ہے، اور حج بھی تو ہے کہ مومن احرام ہاندھ کر یعنی خود کو بیت اللہ میں حاضری کے لائق بنائے اور طواف اس کے گرد طواف کرے، اس میں لگے ہوئے پھر کو بوس دے، ملزوم سے پہنچئے، مسجد حرام میں نماز پڑھے اور عرفات میں وقوف کرے۔

طواف کی فضیلت

بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد یہ ہے کہ اس کا طواف کیا جائے، خدا نے ابراہیم نواسی کی تاکید فرمائی اور یہ تاکید قرآن میں دو جگہ فرمائی۔

وَطَّهِرْ بَيْتِيَ لِلظَّالَّفِينَ ۖ

"اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک رکھو" ۲

نیز مسلمانوں کو حکم دیا کر

وَلَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۔ (الحج ۲۹)

لہ سورہ ابراہیم آیت ۲۳ میں ہے، رَبَّنَا الَّذِي أَنْكَنْتُ مِنْ ذُرَيْتِي بَوَادِ غَيْرِ ذِي ثُرَاعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمَ، پر در دگار امیں نے اس سے آپ مجیاہ دادی میں اپنی کچھ ذریب کو لا بسایا ہے تیر سے محترم گھر کے پاس۔ ۳

لہ البقرہ آیت ۱۲۵، الحج ۲۹ -

”اور اس قدر یہ گھر کا طواف کرنا چاہیے“

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے
 ”بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ایک عبادت ہے، فرقی یہ ہے
 کہ طواف میں تم گفتگو کر سکتے ہو (اور نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے)
 تو جو شخص طواف کے دوران کوئی بات کرے تو اس کو چاہیے کہ نہ سے
 اچھی ہی بات نکالے۔^۱

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کو فرماتے سناد (حجراسود اور رکن یا قی) ان دنوں پر ہاتھ پھیرنا گناہوں
 کا کفارہ ہے؛ اور میں نے آپ کو یہی فرماتے سناد جس نے خدا کے
 اس گھر کا سات مرتبہ طواف کیا، اور شعور و توجہ کے ساتھ کیا، تو اس کا اصلہ
 ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے“ اور یہ بھی فرماتے سناد کے طواف میں
 بندہ جو بھی قدم رکھے گا اور جو بھی قدم اٹھائے گا، خدا اس کے ہر قدم
 کے پڑے ایک گناہ معاف کرے گا اور ایک بھلائی اس کے لیے
 نکھنے گا۔^۲

اسلام

اسلام کے لغوی معنی ہیں چھونا اور بوسہ دینا اور اصطلاح میں اسلام سے مراد ہے جھر اسود کو بوسہ دینا اور رکن یہانی کو چھونا، طواف کا ہر شوط شروع کرتے وقت جھر اسود کا اسلام کرنا، اور اسی طرح طواف کے ختم پر جھر اسود کا اسلام کرنا سنت ہے، اور رکن یہانی کا اسلام مستحب ہے۔

جھر اسود کا اسلام کرتے وقت لحاظ رہے کہ منہ سے بوسے کی آواز نہ نکلے، صرف جھر اسود پر منہ رکھنا سُنون ہے، اور یہ بھی خیال رہے کہ اگر غیر معمولی ازدحام ہو اور جھر اسود کا بوسہ لینے میں لوگوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر کسی چھڑی کو جھر اسود سے سُس کر کے اس کا بوسہ لے لیا جائے، اور یہ بھی دشوار ہو تو پھر دونوں ہاتھوں کی تنقیلیاں جھر اسود کی طرف کر کے ہاتھ کافنوں تک اٹھا لے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دے لے۔

جھر اسود اور رکن یہانی کے اسلام کی فضیلت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن میا ہے۔

”اللہ کی قسم اقیامت کے روز اللہ اس کو زندگی بخش کر لھائے گا۔ اس کی دو نکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھئے گا۔ اور ربان ہوگی، جس سے یہ بولے گا۔ اور جن بندوں نے اس کا اسلام کیا ہو گا ان کے حق میں سچی سچی گواہی دے گا۔“

رکنِ یہاں کی دعا
رکنِ یہاں کے اسلام کی فضیلت بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا:
”رکنِ یہاں پر شتر فرشتے مقرر ہیں جو ہر اس بندے کی دعا پر میں
سمیتے ہیں جو اس کے پاس یہ دعا کرتا ہے“

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْغَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَ
الْآخِرَةِ رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
ذَقْنَا عَذَابَ النَّارِ لَهُ

”اے اللہ! میں تجوہ سے دنیا اور آخرت میں درگز اور حافظت کا
طالب ہوں، پر دردگار اہم کو دنیا میں بھی سمجھائی عطا فرم اور آخرت میں بھی،
ادم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔“

طواف کی قسمیں اور ان کے احکام

طواف بیت اللہ کی چھپ قسمیں ہیں اور ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔
۱۔ طواف زیارت۔ اس کو طوافِ افاضہ اور طوافِ حجج بھی کہتے ہیں۔
طوافِ زیارت حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔
قرآن کا حکم ہے:-

وَلَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ - (المجاد: ۲۹)
”وَ اس قدیم گھر کا طواف کرنا چاہیے۔“

اممہ کا اتفاق ہے کہ اس سے طوافِ زیارت مراد ہے جو وقوفِ عرفات
کے بعد دس تاریخ کو کیا جاتا ہے، اور اگر کسی دوسرے سے، اور ذوالحجہ کو نہ ہو سکے
تو الہار ذوالحجہ کو بھی کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ طوافِ قدوم:- اس کو طوافِ تحریہ بھی کہتے ہیں مگر میں داخلے
کے بعد سب سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طوافِ قدوم کہتے ہیں،
یہ صرف ان لوگوں پر واجب ہے جو میقات سے باہر کے باشندے ہوں،
اور جن کو اصطلاح میں آفاقی کہتے ہیں، اس کو طوافِ اللقا اور طوافِ التحریہ بھی
کہتے ہیں۔

۲۔ طوافِ وداع:- بیت اللہ سے رخصت ہوتے وقت جو آخری
طواف کرتے ہیں اس کو طوافِ وداع یا طوافِ صدر کہتے ہیں، یہ طواف
بھی آفاقی پر واجب ہے، اس طواف کے بعد ملتزم سے چپٹ کر سیدنا اور
دائبنا خسار اس سے لگا کر اور داشتنے ہالہ سے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر انتہائی
گریہ وزاری اور خشوع کے ساتھ دنما نگتنا چاہیئے۔ یہ بیت اللہ سے رخصت
کا وقت ہے معلوم نہیں پھر کب یہ سعادتِ نصیب ہو۔ طوافِ وداع کے باعثے
میں تبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے۔

^۱ علم الفتنہ جلد بیجم اور قدوری میں اس کو سنون کہا گیا ہے، امام بالک کے زدیکۃۃ
طوافِ قدوم واجب ہے، ان کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص بیت اللہ
بھی زیارت کو آئے اس کو چاہیئے کہ وہ طوافِ تحریہ کرے (عین الہدایہ جلد اول ص ۱۹۶)

”کوئی شخص“ طوافِ رخصت ”کیے بغیر بیت اللہ سے واپس نہ ہو، مگر اس خاتون کے لیے ابھازت ہے جو حالتِ حیض میں ہو۔
۴- طوافِ عمرہ:- وہ طواف جو عمرہ میں کیا جاتا ہے، یہ عمرے کا رکن ہے اس کے بغیر عمرہ ادا نہ ہوگا۔

۵- طوافِ نذر:- یعنی کسی نے طواف کی نذر مانی ہو، نذر کا طواف داجب ہے۔

۶- نفلی طواف:- یہ کسی وقت بھی کیا جاسکتا ہے اور کسے میں جب تک رہنے کا موقع ملے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ آدمی زیادہ سے زیادہ طواف کرے۔

طواف کے واجبات

طواف میں نور (چیزیں) کا اہتمام واجب ہے،

۱۔ نجاست حکمیہ یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا، خواتین کے لیے حیض و نفاس کی حالت میں طواف کرنا جائز نہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حج کے سفر میں یہ ایام شروع ہو گئے تو وہ رو نے لگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "رو نے کی کیا بات ہے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو آدم کی بیٹیوں کے دم کے ساتھ ہے، تم وہ سارے عمل کرتی رہو جو حبیبوں کو کرنے ہوتے ہیں، مگر بیت اللہ کا طواف اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ اس سے پاک صاف نہ ہو جاؤ" ۱

۲۔ بیت الرحمت: یعنی جسم کے ان حصوں کو جھپٹائے رکھنا جن کا جھپٹانا ضروری ہے، آپ کا ارشاد ہے:-

لَا يَطْوِفُ بِالْبَيْتِ عَرْبَيْانٌ ۝

"دبرہ نہ ہو کر کوئی طواف نہ کرے" ۲

۳۔ حجر اسود کے اسلام سے طواف شروع کرنا۔

۴۔ طواف کی ابتداء اپنی دامنی جانب سے کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ

کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ حجر اسود کے پاس آئے، اس کا استلام کیا، اور پھر آپ نے اپنی داہنی جانب سے طواف شروع کیا۔

۵۔ پاپیادہ طواف کرنا، عذر کی حالت میں، سوار ہو کر بھی طواف جائز ہے، اور نقلی طواف تو بغیر عذر بھی سوار ہو کر جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ پیدل طواف کیا جائے۔

۶۔ طواف کے پہلے چار فرض چکروں کے بعد باقی تین شوط پورے کرنا۔
۷۔ ہر طواف یعنی سات شوط پورے کرنے کے بعد دور کعت نماز پڑھنا۔
حضرت جابر رضی اللہ کا بیان ہے کہ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ پہنچے تو آپ نے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پہلے تین چکروں میں آپ نے رسول کیا پھر چار چکروں میں معمول کے مطابق پہلے، پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف ٹھہرے اور یہ آیت تلاوت فرمائی:-

وَأَشْحَدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى (البيهقي: ۲۱)

”اور ابراہیم کے مقام عبادت کو مستقل جائے نماز نہالو“

پھر آپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ ”مقام ابراہیم“ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا، اور آپ نے نماز پڑھی۔

لہ مسلم۔

لہ وله دیکھئے اصطلاحات قسم۔

لہ مسلم۔

- ۸۔ حطیم کے باہر باہر سے طواف کرناتاکہ حطیم بھی طواف میں شامل رہے۔
 ۹۔ منوہات احرام سے اجتناب کرنا۔

طواف کی دعا
 خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جب حجر اسود کے پاس پہنچے تو **بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُمَّ أَكُبُرُ** کہے، پھر یہ دعا پڑھے:-
اللّٰهُمَّ إِيّاكَ نَصْدِيقًا بِكَتَابِكَ وَوَفَا
عَهْدِكَ وَإِتْبَاعًا لِسُّنْنَةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
 ۱۰۔ ائمہ اشیاع پر ایمان لا کر، تیری کتاب کی تصدیق کر کے، اور تیرے
 حمد کو پورا کرتے ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ریاستاں
 اور طواف کر رہا ہوں) ۱۰

اور طواف شروع کر دے، طواف کرتے ہوئے آہستہ آہستہ یہ دعا پڑھے:-
سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ-
 ۱۱۔ اللہ پاک در تر ہے، تمام حمد و شکر اسی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی
 معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں جو شکل

۱۔ تفصیل فٹ پر دیکھئے۔

۲۔ نیل الادطار۔

۳۔ ابن ابہ نیل الادطار۔

کر سکے اور کوئی قوت نہیں جو بُراٰی سے روک سکے۔
اور جب رُکنِ بُیان پر پہنچے تو رُکنِ بُیان اور مجرِ اسود کے درمیان یہ دعا پڑھے:-
**رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّاسِ۔ (البقرہ: ۲۰۱)**

”اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھی بجلائی عطا کر اور آخرت میں بھی اور ہمیں

جہنم کے عذاب سے بچا۔“

اور یہ دعا بھی پڑھے:-

**اللَّهُمَّ قَنْعَنْنِي بِمَا سَرَّ قُتْنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَاحْلِفْ
عَلَى الْكُلِّ غَائِبَةً لِي بِخَيْرِهِ**

”اے اللہ! تو مجھے قناعت دے اسی پر جو کچھ تو نے مجھے عطا کر کا
ہے، اور اسی میں میرے لیے برکت عطا فرما اور ہر غائب چیز میں تو غیر اور بجلائی کے
سامنہ نگران بن جا۔

اور یہ بھی پڑھے:-

**لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى الْكُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ**

”اے اللہ کے سوا کوئی معیود نہیں وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،

انہا ر اسی کا حق ہے، تعلیم کا مریٰ تحقیق ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔“

طواف کے مسائل

- ۱۔ ہر طواف یعنی سات شوط پورے کرنے کے بعد دور کعت نماز پڑھنا واجب ہے، دو طوافوں کو ملانا، اور درمیان میں نماز نہ پڑھنا مکروہ تحریکی ہے۔
- ۲۔ سات چکر لگا لینے کے بعد کسی نے قصداً آٹھواں چکر لگالیا، تواب چھپر مزید لگا کر ایک طواف اور کرنا ضروری ہے اس لیے کہ فضل عبادت شروع کرنے کے بعد لازم ہو جاتی ہے۔
- ۳۔ جن اوقات میں نماز مکروہ ہے ان میں طواف مکروہ نہیں ہے۔
- ۴۔ طواف کرتے ہوئے اگر پنجوقتہ نمازوں میں سے کسی نماز کا وقت آجائے یا نماز جنازہ آجائے، یا وضو کی ضرورت پیش آجائے، تو والپس آنے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے طواف شروع کرنے کی ضرورت نہیں جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے پورا کرے۔
- ۵۔ طواف کرتے ہوئے اگر بھول جائے کہ کتنے شوط کیے ہیں تو پھر نئے سرے سے شروع کرے، ہاں اگر کوئی قابلِ اختیار شخص یا دو دلائے تو اس کی یاد دہانی کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔
- ۶۔ طواف کے دوران کوئی چیز کھانا پینا، خرید و فروخت کرنا، اشعار لکھنا اور سب سے ضرورت باہمیں کرنا مکروہ ہے۔

۷۔ حالت طواف میں نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا مسنون ہے اور
نجاست حکمیت سے پاک ہونا داجب ہے۔

۸۔ حج اور عمرہ دونوں کے پہلے طواف میں رمل کرنا مسنون ہے اور
اضطباب کبھی مسنون ہے۔

رَمْل

شانے ہلاکر فرائیز چلنا جس سے قوت اور طاقت کا مظاہرہ ہو، اس
کو دلکی چال چلنا کہتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سکھ میں صحابہ کرامؓ کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ عمرہ
ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ "ان
لوگوں کا حال کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو بڑے ہی نحیف اور کمزور ہو گئے ہیں، اور اصل میں
کی آب و ہوانے ان کی صحت بر باد کر دی ہے، مدینے کی آب و ہوا خراب ہے"۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے والوں کی اس گفتگو کا پتہ چلا تو آپ نے حکم دیا کہ "طواف
کے پہلے تین شوطوں میں سب رمل کریں میں دلکی چال چل کر قوت و طاقت کا مظاہر
کریں چنانچہ رمل کیا گیا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی اس وقت کی یہ ادائی بھائی
کہہ یہ ایک مستقل سنت قرار دے دی گئی۔

لہ تشریع کے لیے دیکھیے آسان فقہ جلد اول "اصطلاحات" ص ۵۵۔

لہ رمل اور اضطباب صرف مردوں کیلئے مسنون ہے خواتین نہ رمل کریں اور نہ اضطباب (میں الہدیہ)

رمل صرف اسی طواف میں ستوں ہے جس کے بعد سعی ہو، پس جو شخص طوافِ قدوم کے بعد سعی نہ کرنا چاہتا ہو، وہ اس طواف میں رمل نہ کرے، بلکہ طوافِ زیارت میں رمل کرے، جس کے بعد اس کو سعی کرنا ہے، اسی طرح حجج قبران کرنے والا جو طوافِ عمرہ میں رمل کر چکا ہو وہ پھر طوافِ حجج میں مل نہ کرے۔

اور اگر کوئی شخص پہلے تین شوطوں میں رمل کرنا بھول جائے تو پھر رمل بالکل ہی چھوڑ دے دوسرا شوطول میں نہ کرے، اور ساتوں شوطوں میں رمل کرنا مکروہ تحریکی ہے۔

اضطراب

چادر وغیرہ کو اس طرح اور صاحبائے کہ اس کا ایک کنارہ داہنے شانے پر ڈالنے کے بجائے داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر اور صاحبائے اور داہنہ شانہ کھلا رہے، یہ عمل بھی اظہار قوت و طاقت کے لیے ہے۔

حج کے واجبات

حج میں نو باتیں واجب ہیں۔

۱۔ سعی کرنا، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا واجب ہے۔

۲۔ مزدلفہ میں وقوف کرنا، یعنی طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کسی بھی وقت درہاں پہنچنا۔

۳۔ رمي کرنا، یعنی جھرات پر کنکریاں مارنا۔

۴۔ طواف قدم کرنا۔ یعنی مکے میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، طواف قدم صرف ان لوگوں پر واجب ہے جو میقات سے باہر رہتے ہیں اور حج کو آفاقی کہتے ہیں۔

۵۔ طواف وداع کرنا، خانہ کعبہ سے رخصت ہوتے وقت آخری رخصتی طواف کرنا، طواف وداع بھی صرف آفاقی پر واجب ہے۔

۶۔ حلق یا تقصیر، یعنی حج کے ارکان سے فارغ ہو کر بال منڈ دانا یا صرف

لئے قرآن پاک کے بیان سے ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن علمائے اہل حدیث کے نزدیک سئی فرض ہے اور ان کی دلیل صحیح سلمہ کی یہ حدیث ہے۔

كَأَنَّهُدَ اللَّهُ حَجَّ أُمِّيَّةٍ وَلَا هُمْ يَرَى مِنْهُنَّ إِلَّا الصَّفَّاءُ وَالْمَرْدُوَّةُ۔

”اللَّهُ تَعَالَى اس شخص کا حج اور عمرہ کامل قرار نہیں دیتا جو صفا اور مروہ کے درمیان سے نہ کرے۔“

کتر دانا، و سوہنیں ذوالمحجر کو مجرہ العقبہ کی رمی سے فارغ ہونے کے بعد حلق یا تفصیر واجب ہے۔

۷۔ قربانی۔ یہ صرف قارن یا متنع پر واجب ہے، مفرد پر واجب نہیں۔

۸۔ مغرب اور عشار کی نماز ایک ساتھ پڑھنا۔ یعنی مغرب کی نماز موخر کر کے مزدلفہ میں عشار کی نماز کے ساتھ ادا کرنا، اور میدان عرفات میں ظہر و غسیر کی نماز ایک ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے۔

۹۔ رمی، قربانی اور حلق و تفصیر میں ترتیب کا لحاظ رکھنا۔



لغت میں سعی کے معنی ہیں انتہام سے چلنا، دوڑنا، اور کوشش کرنا وغیرہ، اصطلاح میں سعی سے مراد حج کا وہ واجب عمل ہے جس میں زائر حرم صفا مروہ نامی درپہاڑیوں کے درمیان دوڑتا ہے۔ صفا بیت اللہ کے جنوب میں ہے اور مرودہ شمال کی سمت میں واقع ہے۔ آج تک ان دونوں پہاڑیوں کا معمولی سائزشان باقی ہے اور ان کے درمیان درٹکنیں تعمیر کر دی گئی ہیں، ایک صفائی مرودہ تک دوڑنے کے لیے اور دسری مرودہ سے واپس صفائیک دوڑنے کے لیے، اور ان پر بہت بڑا شیدڑ ڈال کر ان سڑکوں کو پاؤ دیا گیا ہے تاکہ سعی کرنے والے دھوپ کی شدت اور پارش سے محفوظ رہیں۔

سعی کی حقیقت، و حکمت

قرآن پاک میں ہے

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْدَأَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ - (البقرة: ۱۵۸)

”بے شک صفا اور مرودہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں“

”شعائر،“ ”شعیریہ“ کی جمع ہے، کسی روحانی اور معنوی حقیقت اور کسی مذہبی یادگار کو محبوس کرانے اور یاد دلانے کے لیے جو چیز بطور نشان اور علامت مقرر کی گئی ہو اس کو شعیرہ کہتے ہیں۔ دراصل یہ مقامات خدا پرستی اور اسلام کے علی اظہار کے یادگار مقامات ہیں، مرودہ ہی وہ مقام ہے جہاں خدا کے خلیل

حضرت ابراہیمؑ نے اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر پشاں کے بل بٹا کر گردن پر جھری رکھ دی تھی، اگر اپنے سچے خواب کو سچا کر دکھائیں اور اپنی زندگی کی سب سے زیادہ عزیز چیز کو خدا کی رضا پر قربان کر کے اپنے قول رَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ۔ میں نے کامل طور پر خود کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا کی عملی شہادت پیش کر دیں۔

اسلام اور سپردگی کا یہ عجیب و غریب منظر دیکھتے ہی خدا نے ان کو پکارا اور کہا ابراہیمؑ تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَأْبُرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ

تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا إِنَّهُوا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (الصافات: ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶)

اوہم نے ان کو پکارا، کہ اے ابراہیمؑ تم نے واقعی اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ بلاشبہ ہم محسنوں کو ایسا ہی صلح دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک کملی ہوئی زبردست آزمائش تھی۔

صفا، مرودہ پر رجہاہ ڈالتے ہی فطری طور پر مومن کے ذہن میں قرآنی کی یہ پوری تاریخ تازہ ہو جاتی ہے، اور ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کے اسلام اور بندگی کی پوری تصویر رنگاہوں میں پھر جاتی ہے۔

اسی حقیقت کو ذہن نشین کرانے، اور اس دلولہ انگیز تاریخ کو یاد کرنے کے لیے خدا نے سعی کو مناسک حجج میں شامل فرمایا، خدا کا ارشاد ہے

فَهُنَّ حَاجَةُ الْبَيْتِ أَدْغَشَمَ فَلَأَجْنَاحَمْ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ۔ (المقرئ: ۱۵۸)

درہذا بھو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو کوئی مصلحت نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے، اور جو شخص دل کی رغبت اور شوق کے ساتھ بھلا کام کرے گا تو خدا کو ہر چیز معلوم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والہ ہے”^{۲۰}

دورِ جاہلیت میں مشکلین مکر نے ان دونوں پہاڑیوں پر تجوں کے استھان بنایا تھے۔ صفا پر اسافت اور مروہ پر نائلہ کا استھان تھا اور ان کے گرد طواف ہوتا تھا، اسی لیے مسلمانوں کو تزدید تھا کہ وہ ان کے گرد سعی کریں یا نہ کریں، تو خدا نے وضاحت کی کہ ان کے درمیان سعی کرنے میں کوئی مصلحت نہیں، اس لیے کہ سعی دراصل مناسک حج میں سے ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے بھومناسک تعییم دیتے گئے تھے ان میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی بدایت بھی تھی۔ اس لیے کسی کراہیت کے بغیر مسلمان پورے شوق اور دل کی رغبت سے صفا اور مروہ کی سعی کریں، خدا دل کے حالات سے بھی پوری طرح باخبر ہے اور وہ انسان کے لچھے جذبات اور اعمال صالحہ کی قدر فرمائے ہے۔

سعی کے مسائل

- ۱۔ طواف کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد سعی کرنا واجب ہے، طواف سے پہلے سعی کرنا جائز نہیں۔
- ۲۔ سعی کی حالات میں بخاست حکمیہ بھی حدیث اصغر اور حدیث اکبر سے یاک ہونا واجب تو نہیں ہے، لیکن مسنون ہے۔

۳۔ سعی میں بھی سات شوط ہوتے ہیں اور یہ مراتوں واجب ہیں، ان میں سے کوئی شوط بھی فرض نہیں ہے۔
بہم طواف سے فارغ ہوتے ہی سعی شروع کرنا مسنون تو ہے لیکن واجب نہیں۔

۴۔ سعی کی ابتدا صفا سے کرنا واجب ہے۔

۵۔ سعی پا پیدا کرنا واجب ہے البتہ کوئی عذر ہو تو سواری پر بھی کر سکتے ہیں۔

۶۔ پورے حج میں صرف ایک ہی بار سعی کرنا چاہیئے، چاہے طوافِ قدوم کے بعد کرے یا طوافِ زیارت کے بعد، بہتر یہ ہے کہ طوافِ زیارت کے بعد سعی کی جائے۔

۷۔ صفا مروہ پر حضورنا اور بنت اللہ کی طرف رُخ کے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتا اور دُعا کرنا مسنون ہے۔

۸۔ سعی کے دوران خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے، البتہ ضرورت کے وقت بات چیز کرنا جائز ہے۔

سعی کا طلاقہ اور دُعا میں

طوافِ قدوم یا طوافِ زیارت جس کے بعد بھی سعی کرنے کا ارادہ ہوا اس سے فارغ ہو کر پہلے صفا پہاڑی پر پہنچا جائے، صفا پہنچ کر یہ آیت
پڑھی جائے۔

إِنَّ الْطَّفَا دَالْهَنْ وَقَدْ أَنْ شَعَّا مِنْ شَعَّا مِنْ اللَّهُ - (البقرة: ۱۵۸)

” بلاشبہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں ”

اور پھر صفا پر اتنی اونچائی تک چڑھا جائے کہ بیت اللہ نظر آنے لگے۔ پھر بیت اللہ کی طرف رُخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر تین بار ”اللہ اکبر“ کہا جائے اور پھر یہ دعا پڑھی جائے ،

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْحَمْدُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهُنَّ مَرْأَةُ الْكُفَّارِ
وَحْدَهُ لَهُ

” خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکتا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اسی کا حق ہے، حمد و شکر کا دی متحقق ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اس نے تہاتnam کافر گروہوں کو شکست دی ۔ ”

پھر درود شریعت پڑھ کر حجود دعائیں مانگنی ہوں مانگنی جائیں، اپنے لیے لپنے خوبی اور رشتہ داروں کے لیے، یہ قبولیت دعا کا مقام ہے اس لیے دنیا اور عینی کی بھلائی اور سعادت کے لیے خوب ہی دعا کی جائے اور پھر یہ دعا پڑھی جائے۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ اُدْعُوْنِي اُسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِنَّكَ لَا
تُخْلِفُ الْمِ�يَعَادَ إِنِّي اَسْأَلُكَ كَمَا هَذَا يَتَنَزَّلُنِي إِلَى اِسْلَامِ
اَنْ لَا تَنْزِهَهُ مِنْتَ حَتَّى تَوَفَّى نِي وَآتَا مُسْلِمًا لِهِ

”اسے اللہ اشیرا ارشاد ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، اور
تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، میرا مجھ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح تو نے
مجھے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو اس دولت کو کبھی مجھ سے
دُور نہ کریں گا تک کہ تو مجھے موت نصیب فرمائے تو میرا خاتمہ اسلام پر ہو۔“
اس کے بعد صفا سے اُتر کر مرودہ کی طرف روانہ ہونا چاہیئے اور چلتے ہوئے
زبان پر یہ دُھار ہے۔

رَبِّ اغْفِرْنِي وَارْحَمْنِي اِنَّكَ اَنْتَ اَغْفِرْ الْاَكْسَرَهُ۔

”میرے رب امیری مغفرت فرمادے امیری حالت پر رحم فرمادے، تو

انہیں غائب، اور انہیں بزرگ ہے۔“

صفا اور مرودہ کے درمیان مرودہ کو جاتے ہوئے بائیں جانب دو سبز
نشان ہیں ان کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے، ان دونوں نشانوں کے درمیان
دوڑنا مسنون ہے۔ پھر مرودہ پر چڑھ کر دھی دعا بیں مانگی جائیں جو صفا پر مانگی

لے موطا

لے لیکن یہ عرف مردوں کے لیے سذن ہے، خواتین میلین اخضرین کے درمیان بھی معمول کے
مطابق چلیں، دوڑنے نہیں اس لیے کہ دوڑنا پردہ پوشی میں خلل ڈالے گا۔

تھیں، اور دیر تک ذکرِ قبیح میں مصروف رہا جائے، اس لیے کہ یہ دعا قبول ہونے کا مقام ہے، پھر مردہ سے اتر کر صفائی طرف واپس جاتے ہوئے دہی دھنپڑھی جائے جو آتے وقت پڑھی تھی اور میلین اخضرین کے درمیان دوڑا جائے۔ اور اسی طرح سات شوط پورے کیے جائیں۔



لغت میں رمی کے معنی ہیں پھینکنا اور نشانہ لگانا، اور اصطلاح میں رمی سے مراد جج کا وہ عمل ہے جس میں حاجی پتھر کے تین ستوں پر کنکریاں مارنا ہے، رمی جمرات واجب ہے۔ جمرات یا جمار، جمرہ کی جمع ہے، جمرہ کنکری کو کہتے ہیں، بنی کے راستے میں کچھ کچھ فاصلے سے پتھر کے تین ستوں قدر آدم کے برابر کھڑے ہیں، ان پر چونکہ کنکریاں پھینکی جاتی ہیں، اس لیے ان ستوں کو ہی جمرات کہنے لگے، اور یہ تین جمرات، جمرہ اولی، جمرہ دسطی اور جمرہ عقبی کے نام سے مشہور ہیں ان میں سے جو مکہ مکرہ کے قریب ہے اس کو جمرہ عقبی کہتے ہیں، بعد والے کو دسطی اور اس کے بعد والے کو جو سجدہ خیف کے قریب ہے جمرہ اولی کہتے ہیں۔

رمی کی حقیقت و حکمت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے چندی یوم پہلے جب شہ کے عیسائی حکمران ابرہمنے مکہ معظمه پر اس ناپاک ارادے سے چڑھائی کی کردہ کعبہ کو ڈھادے گا۔ چنانچہ وہ ہاتھیوں پر سوار ایک زبردست لشکر کے ساتھ چلے آور ہوا اور برابر آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ کئے کے بالکل قریب "دادی محتر" میں پہنچ گیا۔ خدا نے اس کے ناپاک ارادے کو بُری طرح ناکام بنایا اور سمندر کی جانب سے نہیں نہیے پرندوں کے جھنڈ پرے کے پرے بن کر نو دار ہوئے جن کے پنجوں اور چھوپوں میں نہیں نہیں کنکریاں تھیں، اور انہوں نے اس ہاتھی سوار

فوج پر کنکریوں کی ایسی بے پناہ اور ہلاکت خیز بارش کی کہ پوری فوج تھس نہیں جو کر رہ گئی، بیشتر نو دیں ڈھیر ہو کر رہ گئے اور کچھ بڑی بُری حالت میں عبر تنہا کموت کے لیے دہان سے بھاگ گے۔

رجی ہجرات دراصل اسی بے پناہ بارش کی یاد گاری ہے — جہات پر اللہ اکبُر کہہ کر خدا کی کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے کنکریاں مارنا دراصل س حقیقت سے دنیا کو خبردار کرنا اور اپنے اس عزم کا اظہار کرنا ہے کہ موننوں کا وجود دنیا میں خدا کے دین کی حفاظت ہے، کوئی طاقت بھی اگر بُری نیت سے اس دین پر نگاہ ڈالنے کی ناپاک جہات کرے گی اور اس کی جڑوں کو دعا نے کا ارادہ کر کے اس کی طرف بڑھے گی تو ہم اس کو تھس نہیں کر دیں گے۔

روں کے مسائل

۱۔ رمی کرنا واجب ہے یا

۲۔ نشیب میں کھڑے ہو کر رمی کرنا مسنون ہے، اور پچھے مقام سے رمی کرنا مکروہ ہے۔

۳۔ ہر رمی کے ساتھ "اللہ اکبُر" کہنا مسنون ہے۔

۴۔ کنکری اگر جمرو پرنہ لگے اور زبانہ خطا کر جائے تو کوئی حرج نہیں رہی درست ہے، لیش طیکہ کنکری جمرو کے قریب کہیں گرے۔

۵۔ فدا الحجہ کی دن تاریخ کو یعنی پہلے دن صرف حجہ عتبہ کی رمی کی جائے

اور کچھ آگیا رہ بارہ تاریخ لو میں تو جو مجرمات کی رمی کی جاتے، اور تیرصوں تاریخ کی
رمی صرف مستحب ہے واجب نہیں۔

۶۔ ایک بڑا کنکر توڑ کر سات کنکریاں بنانا مکروہ ہے۔

۷۔ سات مرتبہ سے زیادہ رمی کرنا مکروہ ہے۔

۸۔ واجب یہ ہے کہ سات کنکریاں سات مرتبہ میں ماری جائیں۔ اگر کوئی شخص ایک ہی مرتبہ میں ایک ساتھ سات کنکریاں مار دے تو یہ ایک ہی رمی قرار پائے گی۔

۹۔ رمی کے لیے مزدلفے سے آتے وقت ”وادی محتر“ پین سے کنکریاں سانحہ لانا مستحب ہے، جو روکے پاس سے کنکریاں اٹھانا مکروہ ہے ملہ۔
۱۰۔ جس کنکری کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ ناپاک ہے اس سے رمی کرنا مکروہ ہے۔

۱۱۔ دسویں تاریخ کی رمی شروع کرتے ہی تلبیہ بند کر دینا چاہیئے۔ بخاری میں

لئے دراصل جو روکے پاس دی کنکریاں رہ جاتی ہیں جو خدا کے یہاں مقبول نہیں ہوتیں اور جو کنکریاں مقبول ہو جاتی ہیں وہ دہان سے فرشتے اٹھا لے جاتے ہیں۔ لہذا رد کی ہوئی کنکریوں سے رمی کرنا مکروہ ہے، حضرت ابو سعید خدرا کی رحمتی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ”یا رسول اللہ! ہر سال ہم جن کنکریوں سے رمی کرتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ وہ کسی نہ ہو جاتی ہیں؟“
رسالہ فرمایا ”ہاں ان میں جو قبول ہو جاتی ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہریاں دوسرے کنکریوں کے ذمہ دیکھتے ہے۔“ (دارقطنی)

ہے کہ آپ جمِرہ عقبہ کی رمی تک لبیک کہتے رہے۔

۱۲۔ دس ذوالحجہ کی رمی کا سُنون وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، اس کے بعد غروب آفتاب تک بھی جائز ہے لیکن غروب کے بعد رمی کرنا مکروہ ہے۔ اور باقی تاریخوں میں زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک سُنون وقت ہے۔

۱۳۔ رمی کرنے کے لیے ایک شب منیٰ میں گزارنا سُنون ہے۔

۱۴۔ دسویں تاریخ کو جمِرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد دوسرا تاریخوں میں اس ترتیب کے ساتھ رمی کرنا سُنون ہے، پہلے جمِرہ اولیٰ کی رمی کی جائے جو مسجد خوبیت کے قریب ہے، پھر جمِرہ وسطیٰ کی اور پھر جمِرہ عقبہ کی۔

۱۵۔ جمِرہ اولیٰ اور جمِرہ وسطیٰ کی رمی پا پیدادہ کرنا افضل ہے اور جمِرہ عقبہ کی رمی موارد ہو کر کرنا افضل ہے۔

۱۶۔ جمِرہ اولیٰ اور جمِرہ وسطیٰ کی رمی کے بعد اتنی دیر ہجیں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاسکے، کھڑا رہنا اور تحریک و تہلیل اور تکبیر اور درود غیرہ پڑھنے میں مشغول رہنا اور ہاتھ اٹھا کر دعاء مانگنا سُنون ہے۔

۱۷۔ رمی سے فارغ ہونے کے بعد مکرمہ آتے وقت کچھ دیر کے لیے محض میں قیام گزنا سُنون ہے۔

منیٰ اور مکرمہ کے درمیان ایک میدان تھا اس کو محض کہتے تھے، اب وہ آباد ہو گیا ہے، اور آج کل اس کو معاملہ کہتے ہیں، حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا تھا۔ حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور مغارب کی نماز، محض بیس ادا فرمائی۔ پھر یہاں کچھ دیر آرام فرمایا اور پھر سوار ہو کر یہاں سے بیت اللہ تشریف لے گئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔

مگر یہاں قیام کی حیثیت صرف سنت کی ہے واجب اور لازم نہیں ہے اگر کوئی قیام نہ کرے تو کوئی مضافات نہیں۔

۱۸۔ رمی ان تمام چیزوں سے کی جاسکتی ہے، جن سے تمیم کرنا جائز ہے، ایسٹ، پتھر، ٹھکری، سنگریزہ، مٹی کا ذھیلا، مٹی وغیرہ۔ لکڑی اور شک و غیرہ یا جواہرات سے رمی کرنا جائز نہیں۔

رمی کا طریقہ اور دعا
جمراء عقبہ کی پہلی رمی شروع کرنے سے پہلے ہی تلبیہ ترک کر دینا چاہیئے اور پھر رمی شروع کی جائے، رمی کا سون طریقہ یہ ہے کہ نشیب کے مقام پر کھڑے ہو کر پہلے یہ دعا پڑھے۔

بِسْمِ اللَّهِ أَكْبَرُ رَغْمَّ مُلْكِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِ
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي حَاجَةً مَبُرُودَةً وَذَنْبًا مَغْفُورَةً وَسَعْيًا
مَشْكُورًا۔

۱۹۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے۔ میطان کی خواہش کو پاماں کرنے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اسے اللہ!

اس جو کو حج بہر در بنا دے اور گن ہوں کو مخالف فرمادے اور اس کو شش کو
قبول فرمائے^۴

بھر کنکری کو انگلیوں کے پوروں میں پکڑ کر "الله اکبر" کہتے ہوئے ہر
کنکری مارے اور خوب تاک کر مارے، جمیرہ عقبیہ کو پہاڑی کے اوپر سے مارنا،
یا بڑی بڑی اپیٹوں اور تپھروں سے مارنا یا جمر مکے پاس کی ٹپڑی ہوئی کنکروں
سے مارنا مکروہ ہے۔

حلق یا تقصیر کے مسائل

حلق کے لغوی معنی ہیں سرمنڈانا اور تقصیر کے معنی ہیں بال کتروانا۔ حلق یا تقصیر حجج کے اعمال میں سے ایک لازمی عمل ہے۔

خدا کا ارشاد ہے

لَتَدْعُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمْبَيْنَ
مَحَلِّقِينَ سَرُّ دُسَكْمَ وَمَقَصِيرِينَ لَا تَخَافُونَ - (الفتح: ۲۶)

”تم انشار اللہ مسجد حرام میں اپنے سرمنڈا کریا بال کتردا کر امن و امان کے ساتھ داخل ہو گے اور تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو گا“

حلق یا تقصیر دراصل حالتِ احرام سے باہر آنے اور حلال ہونے کا ایک مقررہ شرعی طریقہ ہے ماس کی حکمت پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے شاہدی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں

”حلق کی حکمت یہ ہے کہ یہ حالتِ احرام سے باہر آنے کا ایک ناص متعین طریقہ ہے، اگر یہ طریقہ مقرر نہ کیا جانا بوجو خلافِ دقار ہے تو شخص اپنی خواہش کے مطابق اپنا احرام ختم کرتا اور احرام سے باہر آنے کے لیے الگ الگ طریقہ تجویز کرتا۔“

۱۔ خمر کے دن اور ذوالحجہ کو حجرہ عقبہ کی رمی کے بعد حلق یا تقصیر کرانا
واجب ہے۔

۲۔ مرد والوں کے لیے حلق اور تقصیر دونوں ہی جائز ہیں لیکن حلق کی فضیلت
زیادہ ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے لیے در
بار مغفرت کی دعا فرمائی اور تقصیر کرنے والوں کے لیے ایک بار دعائے
متفرت فرمائی ہے۔

۳۔ خواتین کو تقصیر ہی کرانا چاہیے، ان کے لیے حلق جائز نہیں۔ حضرت
علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سر منڈانے
کے منع فرمایا ہے۔

۴۔ تقصیر میں مرد پورے سر کے بال ایک ایک انگل کتر وادے سے تو
جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک چوتھائی سر کے بالوں میں سے کچھ حصہ کتر وادے
کے اور خواتین کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے چند بال چوتھی میں سے کتر وادیں۔
۵۔ کسی کے سر پر بال بالکل اُگے ہی نہ ہوں یعنی گنجائی ہو تو اس کے لیے
صرف اُستہ سر پر پھیر لینا کافی ہے۔

کسی بال صفائدو اس کے ذریعے کوئی اپنے بال صاف کر لے تو یہ بھی جائز
ہے۔

لہ ابو داؤد عن عبد اللہ ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ

۱۹ جمع الفوائد باب الرمی، والحلق والتحلل۔

حلق یا تقصیر کا عمل کر لینے کے بعد آدمی حالتِ حرام سے باہر آ جاتا ہے اور وہ سارے کام اس کے لیے حلال ہو جاتے ہیں جو حرام پاندھنے کے بعد حرام ہو گئے تھے، البتہ بیوی سے مخصوص تعلقِ ابھی جائز نہیں ہے، یہ تعلق طوافِ زیارت کر لینے کے بعد جائز ہوتا ہے۔

قربانی کا بیان

قربانی کی تاریخ اتنی ہی پُرانی ہے جتنی پُرانی خود مذہب یا انسان کی تاریخ ہے، انسان نے مختلف ادوار میں، عقیدت و نداشت، سپردگی و جان شاری، حشق و محبت، عجز و نیاز، ایثار و قربانی، اور پرش و عبادت کے جو جو طریقے اختیار کیے خدا کی شریعت نے انسانی نفیات اور جذبات کا الحافظ کرتے ہوئے دہنام ہی طریقے اپنی مخصوص اخلاقی اصطلاحات کے ساتھ خدا کے لیے خاص کر دیئے، انسانوں نے اپنے معبودوں کے حضور جان کی قربانیاں بھی پیش کیں اور یہی قربانی کا سب سے اعلیٰ مظہر ہے، خدا نے اس کو بھی اپنے لیے خاص کر لیا اور اپنے سوا ہر ایک کے لیے اس کو قطعاً حرام قرار دے دیا۔

انسانی تاریخ کی سب سے پہلی قربانی

انسانی تاریخ میں سب سے پہلی قربانی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں ہابیل اور قابیل کی قربانی ہے، قرآن پاک میں بھی اس قربانی کا ذکر ہے۔

وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً بُنَىٰ أَدَمَ رِبُّ الْحَقِّ مَرَادُ قَرْبَيَا قُرْبَيَا
فَتُقْتَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقْبَلْ مِنَ الْأَخْرِيدِ (المائدہ: ۲۷)

اور ان کو آدم علیہ السلام کا قصہ بھی تھیک تھیک سنا دیجئے جب ان دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔^۱

در اصل ایک نے جس کا نام "ہابیل" تھا، دل کی آمادگی سے رضاہ الہی کی خاطر ہتھ میں دُنبے کی قربانی ہیش کی ہو رہی دسرے نے جس کا نام "قاہبیل" تھا بے دلی سے ناکارہ غلے کا ایک ذمیر ہیش کر دیا، ہابیل کی قربانی کو آسمانی آگ نے جلا ڈالا اور یہ مقبولیت کی علامت تھی، لیکن دسری کو آگ نے نہیں جلا دیا اور یہ مقبول نہ ہونے کی علامت تھی۔

قربانی تمام الہی شریعتوں میں

قربانی کا حکم تمام الہی شریعتوں میں ہمیشہ موجود رہا ہے اور ہر امت کے نظام عبادت میں اسے ایک لازمی جز کی حیثیت حاصل رہی ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَذْكُورًا لِيَدُ كُرُورٍ وَاسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا
رَأَى فَهُمْ مِنْ بَرْهِيمَةِ الْأَنْعَامِ^{۱۷}

"اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ وہ ان چوپا یوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔"

یعنی قربانی ہر شریعت کے نظام عبادت میں موجود رہی ہے، البتہ مختلف زماں، مختلف قوموں اور مختلف ملکوں کے نبیوں کی شریعتوں میں ان کے حلا کے پیش نظر قربانی کے قاعدے اور تفصیلات جدا چاہرہ ہیں، لیکن نبیاد کی طور پر یہ بات تمام آسمانی شریعتوں میں مشترک رہی ہے کہ جاودہ کی قربانی صرف اللہ کے لیے کی جائے اور اسی کا نام لے کر کی جائے۔

فَأَذْكُرْ وَاسْمَ اللَّهِ خَلِيفَتَاهُ

”پس ان جانوروں پر صرف اللہ کا نام لو“

جانوروں پر اللہ ہی کا نام لینا بڑا ملیخ اندانہ بیان ہے یعنی ان کو ذبح کرو تو اللہ ہی کے نام سے ذبح کرو اور اسی کے نام پر اسی کی رضاکے لیے ذبح کرو دہی ہے جس نے تمہارے لیے یہ جانور جہتیا کیے ہیں، دہی ہے جس نے ان کو تمہارے لیے سخت کیا ہے اور دہی ہے جس نے تمہارے لیے ان میں گزناگوں فائدے رکھے ہیں۔

قریانی ایک عظیم یادگار

اس وقت، دنیا کے ہر ہر خطے میں مسلمان جو قربانی کرتے ہیں اور ذبح عظیم کا جو منتظر پیش ہوتا ہے وہ دراصل حضرت اکمل علیہ السلام کا فدیہ ہے، قرآن میں اس عظیم قربانی کے واقعے کو پیش کر کے اس کو اسلام، ایمان اور احسان قرار دیا ہے۔

قربانی دراصل اس عزم و یقین اور سپردگی و فدائیت کا عملی اظہار ہے کہ آدمی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب خدا ہی کا ہے اور اسی کی راہ میں یہ سب قربان ہونا چاہیے۔ یہ دراصل اس حقیقت کی علامت اور پیش کش ہے کہ اس کا اشارہ ہو گا، تو ہم اپنا خون بہانے سے بھی دریغ نہ کریں گے، اسی عہد دہیاں اور سپردگی و فدائیت کا نام ایمان، اسلام اور احسان ہے۔

فَلَمَّا بَلَغَ مَعْدَةَ السَّقِّيْ قَالَ يَدْبُرِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَتَابِدِ
أَنِّي أَذْيَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا بَتِ الْعَنْ مَا تُؤْسِرُ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَاهَا وَتَلَاهُ
لِلْجَنَّيْنِ وَنَادَيْنِهُ أَنْ يَأْبُرَاهِيمَ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا
إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ
الْمُبِينُ هَوَفَدَيْنِهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ هَوَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي
الْآخِرِينَ هَسْلَامٌ عَلَى ابْرَاهِيمَ هَكَذَا لَكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ هَ

”پس جب وہ راسمعیلؑ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی خمر کو پہنچے تو
(ایک دن) ابراہیمؑ نے ان کے کہا، پیارے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا کہ
میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں خور کرو اب کیا ہونا چاہیے بیٹے نے (بلاتاہل) کہا، آبا
جان! آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر دالیے، اشارہ اللہ آپ مجھے ثابت کردا
پائیں گے، آخر کو جب باپ بیٹے دلوں نے خدا کے آگے تسلیم خم کر دیا، اور
ابراہیمؑ نے بیٹے کو منز کے بل (زمین) پر گردایا، تو ہم نے ندادی کہ ہاں سے ابراہیمؑ تم
نے خواب سچ کر دکھایا، ہم احسان کی روشن چلنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں،
در اصل یہ ایک کھلی ہولی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک عظیم قربانی فریے میں دے
کر ان کو (عنی اسماعیلؑ) کو چھڑایا۔ اور ہم نے تھیچے آنے والی است بیں ابراہیمؑ کی

یہ سنت (یادگار) چھوڑ دی سلام ہے ابراہیم پر تم لپنے فدا کاروں کو ایسی ہی جزا
دیتے ہیں، بلاشبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔^{۲۷}

یعنی رہتی زندگی تک اترت مسلمہ میں قربانی کی عظیم الشان یادگار حضرت اسماعیل
علیہ السلام کا فدیہ ہے، خدا نے اس فدیے کے عوض اسماعیل علیہ السلام کی جان چھپائی
کہ اب قیامت تک آئے ولے فدا کار ٹھیک اسی تاریخ کو دنیا بھر میں جانور قربان
کریں، اور وفاداری اور جان نشانی کے اس عظیم الشان ولقے کی یاد تازہ کرنے ہیں
قربانی کی ہے بدل سنت جاری کرنے والے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل
علیہم السلام تھے اور اس کو تاقیامت، قائم رکھنے والے حضرت محمد صلی علیہ وسلم کی امت
کے فدا کار ہیں۔

نبی مسیح سے خطاب

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی اور فدا کاری کی روح پوری زندگی میں جاری دساري
رکھنے کی تعلیم دیتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی ہے۔

قُلْ إِنَّ صَلَوَاتِي وَسُكْنَىٰ وَنَحْيَايٰ وَمَمَاتِي بِِلِّهٖ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ॥ (النَّعَمَاء: ۱۹۲)

وہ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب ، اللہ
رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کا کوئی شرکیں نہیں، مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں
سب سے پہلا فرمان بردار ہوں ॥

فدا پر کچھ نہ ایمان اور اس کی توحید پر یقین کامل کے معنی ہی یہ ہیں، کہ آدمی کی ساری
نگ و در اسی کی رضا کے لیے مخصوص ہوا وردہ سب کچھ اس کی راہ میں فرمان کر کے

اپنے ایمان و اسلام اور وفاداری و مجال نشاری کا ثبوت دے۔

قربانی کا حکم ساری امت کے لیے ہے

قردانی کی اصل عجہ توجہی ہے جہاں ہر سال لاکھوں حاجی اپنی اپنی قربانیاں بیشتر کرتے ہیں، دراصل یہ حج کے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے، لیکن حجیم و کریم خدا نے اس عظیم شرف سے ان لوگوں کو بھی محروم نہیں رکھا ہے جو مکہ سے دور ہیں اور حج میں شریک نہیں ہیں، قربانی کا حکم صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو بیت اللہ کا حج کر رہے ہوں بلکہ یہ عام حکم ہے، اور سارے سی ذی چیثت مسلمانوں کے لیے ہے، اور پچھلی حقیقت احادیث رسول ﷺ سے ثابت ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی شہادت ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تک مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہے اور باہر ہر سال قربانی کرتے رہے“، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”بِحُوْلَهُ وَسُعْتِ رَحْمَتِهِ كَمَا دَعَ بِهِ“

کے قریب نہ آئے

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن فرمایا ”جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا اس کو دوبارہ اپنی قربانی کرنی چاہئیے اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے تھیک مسلمانوں کے طریقے کو پالیا۔“

ظاہر ہے عید الاضحیٰ کے دن مکے بین کوئی ایسی نماز نہیں ہوتی جس سے پہلے

قربانی کرنا سنت مسلمانوں نے اس بات ہوا محالہ یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے اور اسی کی شہادت حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پیش فرماتے تھے۔ نیز ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں قربانی کیا کرتے تھے؟“

قربانی کے روحانی مقاصد

قرآن پاک نے قربانی کے تین اہم مقاصد کی طرف اشارے کیے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ قربانی دراصل وہی ہے جو ان مقاصد کا شعور رکھتے ہوئے کی جاتے ہیں۔

۱۔ قربانی کے جانور خدا پرستی کی نشانی ہیں۔

وَالْبُكْرَنَ جَعَلْنَا هَاكَمًا مِنْ شَعَارِ اللَّهِ لَهُ

”اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے «شعائر اللہ» قرار دیا ہے۔“

”شعائیر“ ”شعیدہ“ کی جمیع ہے، شعیرہ اس محسوس ملاست کو کہتے ہیں جو کسی روحانی اور معنوی حقیقت کی طرف متوجہ کرے اور اس کی یاد کا سبب اور عالمت بنے، قربانی کے یہ جانور اس روحانی حقیقت کی محسوس ملامتیں ہیں کہ قربانی کرنے والا دراصل ان بند بات کا اظہار کر رہا ہے کہ ان جانوروں کا خون درحقیقت میرے خون کا قائم مقام ہے، میری جان بھی خدا کی راہ میں اسی طرح قربان ہے جس طرح میں اس جانور کو قربان کر رہا ہوں۔

۲۔ قربانی اللہ کی نعمت کا عملی شکر ہے۔

کَذَّا إِلَكَ سَخَرْ هَا لَكُمْ لَعْنَكُمْ لَشَكْرُ وَنَهَ ۝ (الْجَ: ۲۶)

”اسی طرح ان جانوروں کو ہم نے تمہارے سخن کر دیا ہے تاکہ تم شکر

ادا کرو۔“

خدا نے جانوروں کو انسان کے لیے سخن فرمایا اس پر عظیم احسان کیا ہے، انسان ان جانوروں سے گوناگوں فائدے اٹھاتا ہے، ان کا دودھ پیتا ہے، ان کے گوشت کو خدا بنتا ہے۔ ان کی ہڈی، کھال اور اون سے صنعت کی نوع بنوں چیزیں تیار کرتا ہے، ان سے کھینچی باڑی میں مدد لیتا ہے، ان پر بوجھہ ڈھوتا ہے، ان پر سواری کرتا ہے، اور ان کے ذریعے اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتا ہے، قرآن ان فوائد کی طرف اشارہ کر کے اور ان کی تسخیر کا ذکر فرمایا خدا ہستی اور احسان مندی کے چند بات کو ابھارنا چاہتا ہے، اور یہ طرز فکر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس خدائے بزرگ دری ترنے پر عظیم الشان نعمت عطا کی ہے، اسی کے نام پر ان کی قربانی ہونی چاہیئے، قربانی خدا کی عظمت کا عین شکر ہے۔

۳۔ قربانی خدا کی عظمت اور کبریائی کا اظہار ہے۔

کَذَّا إِلَكَ سَخَرْ هَا لَكُمْ لَشَكْرُ تِرْ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَّا كُمْ لِي
”خدا نے اس طرح چوپا یوں کو تمہارے لیے سخن کر دیا ہے تاکہ تم اس (یعنی جنہی جوئی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی اور کبریائی کا اظہار کرو۔“

یعنی ان جانوروں کا خدا کے نام پر ذبح کرنا در اصل اس حقیقت کا اعلان و

اظہار ہے کہ جس خدا نے یہ نعمت عطا کی ہے اور جس نے ان کو ہمارے لیے سخر کر رکھا ہے وہی ان کا حقیقی مالک ہے۔ قربانی اس حقیقی مالک کا شکر یہ بھی ہے اور اس بات کا عملی اظہار بھی کہ مون دل سے خدا کی بڑائی، حضرت اور کبر پانی پر لفظیں رکھتا ہے۔

جانور کے گلے پر چھپری رکھ کر وہ اس حقیقت کا عملی اظہار و اعلان بھی کرتا ہے اور زبان سے بھی ڈسیم اللہ، اللہ اکبُر کہہ کر اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے۔

قربانی کی روح

اسلام سے پہلے لوگ قربانی کر کے اس کا گوشت بیت اللہ کے سامنے لا کر رکھتے اور اس کا مخون بیت اللہ کی دیواروں پر تعمیر کرتے تھے۔ قرآن نے بتایا کہ خدا کو تمہارے اس گوشت اور خون کی ضرورت نہیں۔ اس کے یہاں تو قربانی کے وہ ہند بات پہنچتے ہیں جو ذبح کرتے وقت تمہارے دلوں میں موجود ہوتے ہیں یا ہونے چاہیں۔ قربانی، گوشت اور خون کا نام نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کا نام ہے کہ ہمارا سب کچھ خدا کے لیے ہے اور اسی کی راہ میں قربان ہونے کے لیے ہے۔

قربانی کرنے والا صرف چانور کے گلے پر چھپری نہیں پھیرتا بلکہ وہ ساری ناپسندیدہ خواہشات کے گلے پر بھی چھپری پھیر کر ان کو فریح کر ڈالتا ہے، اس شعور کے بغیر جو قربانی کی جاتی ہے، وہ ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی سنت نہیں بلکہ ایک قومی رسم ہے جس میں گوشت اور پوست کی فراوائی تو ہوتی ہے لیکن وہ تقویٰ ناپید ہوتا ہے جو قربانی کی روح ہے۔

لَنْ يَئِنَّ اللَّهُ لَحُومُهَا وَلَا دَمَاءُهَا وَلِكُنْ يَئِنَّ اللَّهُ
الشَّوَّى مِنْكُمْ۔ (الحج: ۲۰)

وَاللَّهُ تَعَالَى كُوَانِ جَاتِرِوْنَ كَأَغْوَثَتْ ادْرَخَنْ هَرَگَزْ نَهِيْنْ ہَنْجَتَا بَكَهْ ۱۶

کو تمہاری جانب سے تمہارا تقویٰ ہنچتا ہے ۹

خدا کی نظر میں اس قربانی کی کوئی قیمت نہیں جس کے پیچے تقویٰ کے جذبات
نہ ہوں، خدا کے دربار میں وہی عمل مقبول ہے جس کا محک خدا کا تقویٰ ہو۔

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۝ (الملائکہ: ۲۰)

وَاللَّهُ صَرَفَ مُتَقْيِيْنَ كَأَعْمَلِ ہِیْ قَبُولَ كَرَتَاهُ ۷

اذن کی قربانی کا روحانی منظر

وَالْبُدْنَ جَعَلْتَاهُ لَكَهُ مِنْ شَعَرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا
خَيْرٌ فَادْكُرْ وَاسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ صَوَافَتْ مَنِيَا ذَادَ جَبَتْ
جَنْوَبَهَا فَكَلَوْا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا قَالِيمَ وَالْمُعْتَرَى

وَ اور (قربانی کے) اذنوں کو ہم نے تمہارے لیے خدا پرستی کی نشانی
بنادیا ہے، اس میں تمہارے لیے خیریٰ خیر ہے، پس ان کو قطار در قطار کھڑا
کر کے ان پر اللہ کا نام تو از جسیر کر، ان کے پیسو زین پر ایک جانیں تو شود
کھاؤ، اور ان کو بھی کھلاڑ جو مانگنے سے بینے ہیں اور ان کو بھی جو مانگنے ہیں ۸

اذنوں کی قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک طواریں کھڑا کر کے: وَ

ان کے حلقوم میں نیزہ مارا جاتا ہے، جس سے خون کا ایک فوارہ چھوٹتا ہے، اور جب خون نکل چکتا ہے تو وہ زمین پر گرد پڑتے ہیں، قربانی کے اس منظر کو ذرا تصور میں جائیے اور چھپر خور کیجئے جانوروں کی یہ قربانی کیا ہے؟ یہ تو کہ اسی طرح ہماری بجانب میں خدا کی جانب میں قرآن ہونے کے لیے حاضر ہیں، دراصل یہ قربانی اپنی جان کی قربانی کے قائم مقام ہے، اس معنویت کے ساتھ انٹوں کی قربانی پر غور کیجئے — ان کے ذمہ ہونے، خون پہنانے، گرنے اور رواہ خدا میں جان دینے کے منظر پر غور کیجئے — ایسا محسوس ہو گا کہ گویا میدانِ جہاد میں خدا پرستوں کی صفتیں بندھی ہوئی ہیں، ان کے حلقوم اور ملینوں میں تیرپیوں سنت ہو رہے ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، لا الہ زار زمین ان کی جان ثاری کا ثبوت دے رہی ہے اور وہ ایک ایک کر کے خدا کے قدموں میں گر گر کر اپنی بجائیں پیش کر رہے ہیں۔

قربانی کا طریقہ اور دعا

جانور ذبح کرنے کے لیے اس طرح لٹایا جائے کہ اس کا رخ قبلے کی جانب رہے، اور چھپری خوب تیز کر لی جائے، جہاں تک ہو اپنی قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کیا جائے اور کسی دجه سے ذبح نہ کر سکے تو کم از کم اس کے پاس ہی کھڑا رہے۔

ذبح کرتے وقت پہلے یہ دعا پڑھے

إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكُنِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ذَمَّاً أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَاجِحٌ

صَلَوٰتٍ وَسُكْنٰی وَمَهَبٰتٰی وَمَهَبٰتٰی بِلَّهٗ رَبِّ الْعَالَمِينَ ه
لَا تَحِرِّكْ لَهُ وَبِذَلِكَ أَمْرُتْ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
اللَّهُمَّ لَكَ حَمْدًا فَقَدْ

”یہیں نے ہر طرف سے بیکسو ہو کر اپنا رخ ابرا، یہیں طبیہ السلام کے طریقے پر
شیک اس خدا کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں تک
کرنے والوں میں سے قطعاً نہیں ہوں، بلاشبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری
موت سب اللہ رب العالمین کیجیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور
میں فرمائیجہار دوں میں سے ہوں۔ اسے اللہ اجے تیرے ہی حضور میش ہے اور تیرا جی ٹیا جوڑا ہے؟“
پھر یہیں اللہ آللہ آللہ، اکبڑا کہہ کر ذبح کرے، ذبح کرنے کے بعد یہ کہے۔
اللَّهُمَّ تَقْبِلْهُ مِنْيَ كَمَا تَقْبَلْتَ مِنْ حَمْدِي لَكَ حَمْدًا
وَحَمْدِي لَكَ رَبُّ رَاهِيمٍ عَلَيْهِ حَمَّا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔

”وَإِنَّ اللَّهَ إِنَّ قُرْبَانِي كَوْمِيْرِي جَانِب سے قبول فرماجس طرح تو نے
اپنے بیب محمد صلی اللہ طبیہ وسلم اور اپنے خلیل ابرا یہیں طبیہ السلام کی قربانی قبول
فرمانی، دونوں پر درود وسلام ہو۔

لہ شکرۃ باب الاخیرہ۔

لہ اگر کسی اور کی جانب سے ذبح کر رہا ہو تو ”منی“ کہنے کے بجائے ”میں“ کے بعد اس کا نام
لے، اگر ایک شخص ہو تو ایک کا نام لے اور چند ہوں تو چند کا نام لے۔

قریبی کی فضیلت و تاکید
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت اور سبے بہما اجر کا ذکر کرتے
ہوئے فرمایا۔

(۱) خدا کے زویک خر کے دن ریعنی دسویں دو المجد کو، قربانی کا
خون بھائی سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ تیامت کے
روزہ قربانی کا ہانور اپنے بینگوں، بالوں، اور گھر دل سیست حاضر
ہو گا۔ اور قربانی کا خون زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ خدا کے خدا کے بہما مقبول
ہو جاتا ہے لہذا قربانی دل کی خوشی اور پوری آمادگی سے کیا کرو۔
(۲) صحابہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہؐ یہ
قربانی کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیمؑ کی مت
ہے، صحابہؓ نے کہا یا رسول اللہؐ اس میں ہمارے بیلے کیا اجر و ثواب
ہے؟ ارشاد فرمایا ہر ہر ہال کے بدلتے ایک بیکی ملے گی، صحابہؓ نے
کہا اور اون کے بدلتے یا رسول اللہؐ! فرمایا ہاں اون کے ہر ہر دوں
کے بدلتے میں بھی ایک بیکی ملے گی یہ

(۳) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا، فاطمہ اکٹھواؤ اپنی

لہ ترمذی، ابن ماجہ۔

لہ ترمذی، ابن ماجہ۔

قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہوا سی یہے کہ اس کا جو قطرہ بھی زمین
پر گرے گا، اس کے بد لے میں خدا تمہارے پچھے گناہ بخش دے گا،
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یہ خوشخبری ہم اہل بیت کے یہے
ہی مخصوص ہے یا ساری امت کے یہے ہے؟ ارشاد فرمایا، ہمارے
اہل بیت کے یہے بھی ہے اور ساری امت کے یہے بھی۔

(۲۶) حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے
بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید النظر کے دن بغیر کچھ تناول
فرماتے نماز کو نہیں جاتے تھے، اور عید الاضحی کے دن نماز عید الاضحی
پڑھنے سے پہلے کچھ نہیں کہاتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے
 تو قربانی کے جانور کی بکھری پہلے تناول فرماتے تھے۔

قربانی کے احکام و مسائل

قربانی کرنے والے کیلئے مسنون عمل

جو شخص بھی قربانی کا ارادہ کرے وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ جسم کے کسی حصے کے بال کاٹے اور موڈٹے اور نہ ناخن کتردا رہے، پھر جب قربانی کا جانور ذبح کر لے تو بال اور ناخن دغیرہ بنوائے، یہ عمل مسنون ہے واجب نہیں ہے اور جو شخص قربانی کی دعوت نہ رکھتا ہو اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ قربانی کے دل اپنے بال بنوائے، ناخن کٹوائے، خطہ بنوائے اور زیرِ ناف کے بال لے خدا کے نزدیک اس کا یہی عمل قربانی کا فائم مقام مبنی جائے گا۔

حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا،

”جس کو قربانی کرنا ہو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ اپنے بال بنوائے اور نہ ناخن کٹوائے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔“

حضرت عبد اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”محجہ حکم دیا گیا ہے کہ میں انہی کے دن رعنی اور ذوالحجہ کو عبد مناؤں، اللہ نے اس دن کو اس اُمت کے لیے عبد کا دن قرار دیا ہے، ایک شخص

نے پوچھا، یا رسول اللہ ایہ بتائی ہے کہ اگر سیرے پاس ایک بھر می ہو جو کسی نے
دو دھر کے پیٹے دے رکھی ہو تو کیا میں اس کی قربانی کروں؟ ارشاد فرمایا
نہیں تم اس کی قربانی نہ کرو بلکہ (قربانی کے دن) اپنے بال بنو الینا، اپنے ناخن
کشو الینا، اپنی روحچیں کتروا کر درست کر الینا، اور دربر ناف کے بال ساف کر لینا،
بس خدا کے نزدیک یہی تمہاری پوری قربانی ہو جائے گی۔

قربانی کے جانور اور ان کے احکام

اس قربانی کے جانور یہ ہیں۔

اوٹ، اوٹھنی، دنپر، بکرا، بکری، بھیڑ، گائے، بیل، بھینس، بھیسا۔

ان جانوروں کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی چاہئے نہیں۔

۱۔ دنپر، بکرا، بکری، بھیڑ کی قربانی صرف ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے،
ایک سے زائد کئی آدمی اس میں حصہ دار نہیں ہو سکتے۔

۲۔ گائے، بھینس اور اوٹ میں سات حصے ہو سکتے ہیں، سات کے زائد نہیں،
مگر اس کے پیٹے دو شرطیں ہیں، پہلی یہ کہ ہر حصے دار کی نیت قربانی یا عقیقے کی ہو محض
گوشٹ حاصل کرنے کی نیت نہ ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ ہر حصے دار کا حصہ لٹکپ کا ہو، اس سے کم کا حصہ دار نہ ہو۔

لہ جمع الفوائد، نسائی، ابو داؤد۔

لہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے أَبْقِرْ نَعْنَ سَبْعَةَ وَالجِنْ وَدُرْ عَنْ سَبْعَةِ،
گماۓ سات افراد کی طرف سے اور اوٹ سات افراد کی طرف سے۔ (مسلم)

۴۔ ان دو شرطوں میں سے کوئی بھی شرط پوری نہ ہوئی تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔

۵۔ گائے، بھینس، اونٹ میں سات افراد سے کم بھی شریک ہو سکتے ہیں مثلاً کوئی دو، چار، یا کم و بیش حصے لے، مگر اس میں بھی یہ شرط ضروری ہے کہ کوئی حصے دار ساتوں حصے سے کم کا شریک نہ ہو در نہ کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔

۶۔ ایک شخص نے گائے خریدی اور ارادہ یہ ہے کہ دوسروں کو شریک کر کے قربانی کر لیں گے تو یہ درست ہے، اور اگر خریدتے وقت پوری گائے اپنے ہی لیے خریدی پھر بعد میں دوسروں کو شریک کرنے کا ارادہ کر لیا، تو یہ بھی جائز ہے، البتہ بہتر پڑھی ہے کہ ایسی صورت میں اپنے پہلے ارادے کے مطابق پورا حافظہ اپنی طرف سے ہی کرے، لیکن دوسروں کو شریک کرنا ہی چاہے تو خوشحال آدمی کو شریک کرے جس پر قربانی واجب ہو، اگر کسی ایسے شخص کو شریک کر لیا جس پر قربانی واجب نہیں ہے تو درست نہیں۔

۷۔ گائے، بھینس کی قربانی میں ایک یا ایک سے زائد افراد کے حصے از خود ہی تجویز کر کے قربانی کر لی اور ان افراد کی مرضی اور اجازت نہیں لی تو یہ قربانی صحیح نہیں ہے، جن لوگوں کے بھی حصے رکھے چاہیں ان کے کہنے سے رکھے چاہیں پہنچیں کہ از خود حصے دار تجویز کر کے قربانی تو پہلے کر لی جائے اور حصے داروں کی مرضی اور اجازت بعد میں حاصل کی جائے۔

۸۔ بلکہ، بکری اور ذکرہ بھی جب پورے سال بھر کے ہو جائیں تو ان کی قربانی درست ہے سال بھر سے کم کے ہوں تو قربانی درست نہیں اور گائے بھینس پہلے دو سال کے ہو جائیں تو ان کی قربانی درست ہے، دو سال سے کم کے ہوں تو قربانی

درست نہیں اور اونٹ پورے پانچ سال کا ہر تب قربانی درست ہے، پانچ مل
سے کم کا ہوتا اس کی قربانی درست نہیں۔

۸۔ جس جانور کے سینگ پیدا شئی طور پر نکلے ہی نہ ہوں، یا نکلے ہوں مگر کچھ
حصہ ٹوٹ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، البتہ جس جانور کے سینگ بالحل جڑے
ہی ٹوٹ گئے ہوں، اس کی قربانی جائز نہیں۔

۹۔ انہیں، کانے جانور کی قربانی درست نہیں اور اس لگڑے جانور کی قربانی
بھی درست نہیں جو صرف تین پیروں سے چلتا ہو، چوتھا پیر زمین پر رکھا ہی نہ جاتا
ہو یا رکھتا ہو لیکن اس پر زور دے کر نہ چلتا ہو صرف تین پیروں کے سہارے
چلتا ہو، ہاں اگر چوتھا پیر بھی کام کر رہا ہو اور چلنے میں صرف لگ ہو تو پھر قربانی درست
ہے۔

۱۰۔ جس جانور کا کان ایک تھائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، یادم ایک تھائی سے
زیادہ کٹ گئی ہو اس کی قربانی درست نہیں۔

۱۱۔ دبليے پتکے جانور کی قربانی تو جائز ہے البتہ بہتر پر ہے کہ موڈنا تازہ صحیح سالم
اور خوبصورت جانور خدا کی راہ میں قربان کیا جائے، اور اگر جانور ایسا مریل اور دبلا
کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ رہ گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔

”حضرت ابو معینؑ کا بیان ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سینگوں والے
مرٹے تازے دنبے کی قربانی کر رہے تھے جس کی آنکھوں کے گرد سیاہی تھی،
جس کا منہ بھی سیاہ رنگ کا تھا اور جس کی ٹانگیں بھی سیاہ تھیں۔“

”حضرت چاہد بن عبد اللہؓ کا بیان ہے کہ ”قربانی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودنے سینگوں والے چوتھے کبرے اور خصی ذبح کیے۔“

۱۲۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہیں ہیں یا ہم تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کی قربانی درست ہے۔

۱۳۔ جس جانور کے دانت بالکل ہی نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں اور اگر جند دانت گرے ہوں باقی زیادہ دانت موجود ہوں تو اس کی قربانی درست ہے۔

۱۴۔ خصی گرے اور مینڈھے کی قربانی درست ہے خصی ہونا عجیب نہیں ہے بلکہ جانور کو فربہ کرنے کا ایک سبب ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی ڈنبے کی قربانی کی ہے۔

۱۵۔ ایک خوشحال آدمی نے، جس پر قربانی واجب تھی، ایک جانور قربانی کے لیے خریدا، خرید لینے کے بعد اس میں کوئی ایسا عجیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہ رہی، تو ضروری ہے کہ وہ شخص دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے ہاں اگر کسی ایسے نادر شخص کے ساتھ ایسا واقعہ ہو، اس پر قربانی واجب نہ تھی تو اس کے لیے اسی عجیب دار جانور کی قربانی کر لینا جائز ہے۔

۱۶۔ گائے اور بکری اگر حاملہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، اگر بچہ زندہ برآمد ہو تو اس کو بھی ذبح کر لینا چاہیے۔

قربانی کا حکم

۱۔ قربانی کرنا واجب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے اذی

حضرت ابوہریرہ رضیٰ -

”جو شخص وسعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری مسجد گاہ
کے قریب نہ آئے۔“

”حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے ایک شخص نے پوچھا کہ قربانی واجب
ہے؟ آپ نے جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی
کی سہی۔ اس نے پھر دی سوال دُبڑا بارگیا قربانی واجب ہے؟“ ارشاد فرمایا
تم سمجھتے ہو اجنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔
۲۔ قربانی قاریٰ پر بھی واجب ہے اور متنقیع پر بھی البنتہ مکفر دپر واجب نہیں
اگر وہ اپنے طور پر کر لے تو اجر و ثواب کا مستحق ہو گا۔

۳۔ زائرین حرم کے علاوہ عامم مسلمانوں پر قربانی واجب ہونے کے لیے
دو شرطیں ہیں ایک یہ کہ وہ خوشحال ہو، خوشحال سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس
امنامال و اسباب ہو جو اس کی بہبادی صورتہ تولی سے زائد ہو اور اگر ان کا حساب
لگایا جائے تو یہ بقدر نصاب ہو جائے لیکنی جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس
پر قربانی بھی واجب ہے۔

دوسرا شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو مسافر پر قربانی واجب نہیں۔

۴۔ قربانی صرف اپنی ہی جانب سے واجب ہے، نہ بھری کی طرف سے اجب
ہے نہ اولاد کی طرف سے۔

۵۔ کسی شخص پر قرآنی شرعاً واجب نہیں تھی لیکن اس نے قرآنی کی نیت سے کوئی سچانور خرید لیا، تو اب اس جاودہ کی قرآنی واجب ہو گئی۔

۶۔ ایک شخص پر قرآنی واجب تھی لیکن قرآنی کے تینوں دن گزر گئے اور وہ کسی وجہ سے قرآنی نہیں کر سکا، اگر اس نے بکری وغیرہ خریدے تھیں تو اسی بکری کو زندہ نیтрат کر دے اور نہ خریدی ہو تو ایک بکری کی قیمت بھر قسم نیтрат کر دے۔

۷۔ کسی نے مشت اور نذر مانی کہ میرا غلاب کام ہو جائے تو قرآنی کروں گا پھر خدا کے فضل و کرم سے وہ کام ہو گیا تو چاہے شخص خوشحال ہو یا ناوارہ بہر حال اس پر قرآنی واجب ہو گئی، اور نذر کی قرآنی کا حکم یہ ہے کہ اس کا سارا اگوٹت غریبوں اور حاجتمندوں میں تقسیم کر دیا جائے، قرآنی کرنے والا خود بھی نہ کھاتے اور نہ خوشحال ٹو گوں کو کھلاتے۔

قرآنی کے ایام اور وقت

۱۔ عید الاضحیٰ یعنی ذوالہجہ کی دسویں تاریخ سے لے کر ذوالہجہ کی بارہویں تاریخ تک غروب آفتاب سے پہلے تک قرآنی کے ایام ہیں ان ہمیں ایام میں سے جب اور جس دن سہولت ہو قرآنی کرنا چاہزے ہے لیکن قرآنی کا سب سے افضل دن حیدرالاسمحی کا دن ہے پھر گیارہ صبح تاریخ اور پھر ہار صوبیں۔

۲۔ شہر اور قصبات کے باشندوں کے لیے نازم ہمدرد سے پہلے قرآنی کرنا درست نہیں جب لوگ نازم سے فارغ ہو جائیں تو قرآنی کریں۔ البتہ دریافت کے باشندے نازم فجر کے بعد بھی قرآنی کر سکتے ہیں۔

۳۔ شہر اور قصبات کے باشندے اگر اپنی قرآنی کسی دریافت میں کارہے

ہوں تو ان کے جانور دل کی قربانی دیہات میں فجر کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور اگر دہانے سے نمازِ عجمیہ سے پہلے ہی گوشت آجائے، تب بھی یہ قربانی درست ہے۔

۴۔ ایام قربانی یعنی ذوالحجہ کی دس تاریخ سے پار صویں تاریخ غرہب آفتاب تک، جس وقت چاہیں قربانی کر سکتے ہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی، لیکن فضل یہی ہے کہ شب میں قربانی نہ کی جائے ہو سکتا ہے کہ کوئی رُگ سلیقے سے نہ کئے یارہ جائے اور قربانی درست نہ ہو۔

۵۔ قربانی داجب ہونے کی دو شرطیں ہیں، مقیم ہونا اور خوشحال ہونا۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور وہ پار صویں ذوالحجہ کو غرہب آفتاب سے پہلے اپنے وطن پہنچ گیا اور خوشحال ہے تو اس پر قربانی داجب ہو گئی اور اگر وہ مقیم ہے اور نادار ہے، لیکن پار صویں ذوالحجہ کو غرہب آفتاب سے پہلے خدا نے اسے مال و دولت سے نواز دیا تو اس پر بھی قربانی داجب ہو گئی۔

قربانی کے متفرق مسائل

۱۔ قربانی کرتے وقت نیت کا زبان سے اظہار کرنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں صرف دل کی نیت اور ارادہ قربانی صحیح ہونے کے لیے کافی ہے، البتہ زبان سے دعا پڑھنا بہتر ہے۔

۲۔ اپنی قربانی کا جانور اپنے ہی ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے، ہال اگر کسی دہم سے خود ذبح نہ کر سکے تو کم از کم دہاں موجود ہی رہے، اور خدا تین بھی اپنی قربانی کا جانور ذبح ہوتے وقت موجود رہیں تو بہتر ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سنت فرمایا۔
 «فاطمہ اٹھو اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو اس لیے کہ
 اس کے ہر فطرہ خون کے بدلتے تہاد سے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں
 گے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ؟! یہ ہم اہل بیت کے لیے
 ہی خصوصی کرم ہے یا ہمارے لیے بھی ہے اور عام مسلمانوں کے لیے
 بھی؟۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے بھی ہے
 اور سارے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔»

۴۔ گھائے، بھینس وغیرہ کی قربانی میں کئی افراد شریک ہوں تو گوشت کی
 تقسیم اندازے سے نہ کریں بلکہ سری، پانے اور گردہ کلیبھی وغیرہ سب کو شامل
 کر کے سات حصے بنائیں اور پھر جس کے جتنے حصے ہوں اس کو حسابے دے دیں۔
 ۵۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اپنے رشته داروں اور دوست احباب
 بینی کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ کم از کم ایک تہائی تو غریباً اور مساکین میں تقسیم
 رہیں اور باقی اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کے لیے رکھیں،
 لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ ایک تہائی خیرات ہی کیا جائے، ایک تہائی سے کم بھی
 فقیروں اور غریبوں میں بانٹ دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں۔

۶۔ گھائے، بھینس اور اونٹ کی قربانی میں کئی افراد شریک ہیں اور وہ
 آپ میں گوشت تقسیم کرنے کے بجائے سب ایک ساتھ ہی فقراء اور مساکین کی تقسیم

کرنا چاہتے ہیں یا پکھا کر کھلانا چاہتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔

۷۔ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینا بھی جائز ہے، البتہ اجرت میں دینا صحیح نہیں ہے۔

۸۔ قربانی کی کھال کسی حاجت مند کو خیرات میں دی جاسکتی ہے اور اس کو فروخت کر کے رقم بھی خیرات کی جاسکتی ہے، یہ رقم ان لوگوں کو دینا چاہئے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔

۹۔ قربانی کی کھال کو اپنے کام میں لانا بھی جائز ہے، مثلاً نماز پڑھنے کے لیے سہ نماز بتوالی جائے یا ڈول وغیرہ بتوالیا جائے۔

۱۰۔ قصاص کو گوشت بنانے کی مزدوری میں گوشت کھال یا رسمی وغیرہ نہ دی جائے بلکہ مزدوری الگ سے دی جائے اور جا لور کی رسمی، کھال وغیرہ سب خیرات کر دینی چاہئے۔

۱۱۔ جس شخص پر قربانی واجب ہے اس کو تو کرنا ہی ہے جن پر واجب نہیں ہے، ان کو بھی اگر غیر معمولی زحمت نہ ہو تو مزدور قربانی کرنی چاہئے۔ البتہ دوسروں سے قرض لے کر قربانی کرنا مناسب نہیں۔

مُردوں کی طرف سے قربانی

خدا نے جس شخص کو مال و دولت سے نوازا ہے، وہ صرف واجب قربانی پر ہی کیوں اکتفا کرے، بلکہ قربانی کا بے حد دحساب ابتداء افعام پانے کے لیے اپنے بزرگوں، یعنی مزدودہ مال ہاپ، دادا، دادی اور دوسرے

رشتے داروں کی طرف سے بھی قربانی کرے تو بہتر ہے، اور اپنے محسنِ عظیم
 (صلی اللہ علیہ وسلم) جن کی بدولت ہدایت و ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، کی طرف
 سے ذرا باتی تو مومن کی بہت بڑی سعادت ہے۔ اسی طرح از وارج مطہرات یعنی
 اپنی روحانی مادوں کی طرف سے قربانی کرنا بھی انتہائی خوش نصیبی ہے۔

ہدی کا بیان

ہدی کے لغوی معنی ہیں، تحفہ اور ہدیہ، اور شریعت کی اصطلاح میں ہدی سے مراد وہ جانور ہے جو زائر حرم قربانی کرنے کے لیے اپنے سہراہ لے جاتا ہے یا کسی ذریعے سے دہانی بھیج دیتا ہے۔

۱۔ ہدی کی تین قسمیں ہیں، اونٹ، گائے اور بکری۔

۲۔ اوضاع ہدی کی اعلیٰ قسم ہے اور بکری ہدی کی ادنیٰ قسم ہے۔ بھیر، اونٹ، وغیرہ بکری کے حکم میں ہیں اور بھینس، بیل وغیرہ گائے کے حکم میں۔

۳۔ ہدی کے جانوروں کی صحت، اور عمر وغیرہ سے متعلق احکام و شرائط وہی ہیں جو قربانی کے جانوروں سے متعلق ہیں۔

س۔ ہدی اگر قطوع کی ہو، جیسے رچ افراد کرنے والا اپنی خوشی سے غلبی قربانی پیش کرے، تو اس قربانی کا گوشت ہدی دینے والا خود بھی کھاسکتا ہے، اسی طرح رچ قرآن اور رچ تسبیح کرنے والا بھی اپنی قربانی کا گوشت کھاسکتا ہے، جس طرح عاقل فرانی کا گوشت خود کھانا بجا آزے ہے، کیونکہ قرآن اور تسبیح کی ہدی کسی جسم یا کوتا ہی کا کفارہ نہیں ہے بلکہ بطور شکر اللہ تعالیٰ نے قارئ اور متمتع پر واجب کیا ہے، اس لیے

لہ قربانی کے جانوروں سے متعلق احکام و شرائط صفحہ ۳۴۷ پر ملاحظہ فرمائیے۔

قریبانی کے گوشت کی طرح اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدیٰ کے ہر ایک جانور میں سے ایک ایک ٹکڑا پکوایا اور کھایا اور اس کا شور بھی پیا۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح سلم میں منقول ہے، اور (احادیث) میں سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے حج میں کئی قربانیاں کی تھیں، ظاہر ہے قرآن یا تمشع کی تو ایک ہی قربانی ہو گئی باقی قربانیاں نفلی ہی ہوں گی، اور آپ نے جب ہر ایک میں سے ایک ایک ٹکڑا پکوایا تو معلوم ہوا کہ تمشع، قرآن اور نفلی بذریتا نہیں ہی کا گوشت قربانی کرنے والا خود بھی کھا سکتا ہے۔

تمشع، قرآن اور تطوع کے علاوہ کسی ہدی کا گوشت خود کھانا چاہنے نہیں۔ چاہے وہ کسی جرم کے کفارے کی ہدی ہو، چاہے نذر و منت کی اور چاہے وہ دم احصار ہو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحیح حدیبیہ کے موقع پر حج سے روک دیئے گئے تو آپ نے ناجیہ اسلامی کے ہاتھ احصار کی ہدی روانہ کی اور ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ اس میں سے تم بھی نہ کھانا اور تمہارے ساتھی بھی نہ کھائیں۔

۵۔ جس ہدی کا خود کھانا چاہنے نہیں ہے اس کا سارا گوشت فقرار اور مسائیں میں صدقہ کر دینا واجب ہے، حرم کے فقرار کو دیا جائے یا حرم کے باہر کے فقرار کو دنوں کو دینا صحیح ہے، فقرار حرم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔

۶۔ جس ہدی کا خود کھانا جائز ہے اس کا سارا گوشت مسائیں میں صدقہ کرنا واجب

نہیں بلکہ منتخب ہے کہ قرآنی کی طرح اس کے تین حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے، ایک حصہ پڑھنے اور مسکنے کے لیے، ایک ایسا کرننا ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص سارا کاسارا گوشت مغرب اور مساکین میں تقسیم کر دے تو بھی جائز ہے۔

آنے زم اور اس کے آداب و نوادرات

بیت اللہ سے مشرق کی جانب ایک تاریخی کنوں ہے جس کو زم زم کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کنوں کی بھی بڑی فضیلت آتی ہے اور اس کے پانی کی بھی بڑی برکت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔

ابراهیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ کو کہ کہنے آب و گیاہ ریاستان میں لا کر بسایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کھا کر اس چٹیں میدان میں ان کے لیے زم زم کا یہ پہ جاری فرمایا۔ حدیث میں ہے

هَذِهِ هُنْ مَهَاجِرِيَّةُ وَسُقْيَا إِسْمَاعِيلَ لَهُ

”یہ جبریلؑ کا کھودا ہو اکنوں ہے اور اسماعیلؑ کا سقاوہ ہے“

سعی اور حلق و تقصیر وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد زم زم کا پانی خوب ہی سکم سیر ہو کر پینا چاہیے۔ زم زم کا پانی اس افراط کے ساتھ پینا کہ پسلیاں تن جائیں لیاں کی علامت ہے، ایمان سے محروم منافق اتنا نہیں پی سکتا کہ اس کی پسلیاں تن سکیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

”ہمارے اور منافیتین کے درمیان ایک امتیاز می علامت یہ ہے

کہ منافقین زرم کا پانی اتنا شکر سیرہ نو کر نہیں پہنچتے کہ ان کی پسلیاں
تن جائیں گے۔

آپ زرم کی برکت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے۔

”آپ زرم جس مقصد سے پیا جاتے، وہ ابی مقصد کے لیے
مفید ہو جاتا ہے، شفا کے لیے پیو تو خدا شفا بخشنے گا۔ پیٹ بھرنے
اور آسودہ ہونے کے لیے پیو تو خدا تمہیں آسودہ کر دے گا۔
پیاس بجھانے کے لیے پیو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پیاس بجھادے
گایہ وہ کنوں ہے جس کو جبریلؐ نے اپنی مٹوکر کی قوت سے کھودا
تھا اور یہ اکمیلؐ کی سبیل ہے۔“

یعنی خدا کے حکم سے حضرت جبریلؐ نے مخصوص طور پر حضرت اکمیلؐ اور حضرت
ہاجرؓ کے لیے اس دادی غیر ذمی زرع میں کھودا تھا تاکہ وہ اس سے بھوک پیاس
بجھا سکیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا۔

”روئے زمین کے ہر پانی سے زیادہ افضل زرم کا پانی ہے،
یہ بھوک کے لیے خذاب ہے اور بیمار کے لیے شفا ہے۔“

۱۔ این ماہ۔

۲۔ دارقطنی۔

۳۔ ابی حیان۔

نیز انہی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔

”جو شخص دزم کا پانی اس غرض سے پیے گا کہ دن سے پناہ پا لے تو اُسے پناہ حاصل ہو گی ۔“

دزم کا پانی کھڑے ہو کر اور بسم اللہ پڑھ کر پینا چاہیے ۔ اور خوب ہی جی بھر کر پینا چاہیے ۔ پہنچنے وقت یہ دعا پڑھی جائے ۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَدُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَآمِنًا وَشِفَاءً

وَمَنْ كُلَّ دَاءً مَهَهُ

وہ اے اللہ امیں تجدہ کے ملک نافع کا سائل ہوں، کشادہ روزی چاہتا ہوں، اور ہر مرض سے شفا کا طالب ہوں ۔

لئے ساکم ۔

لئے نیل بلا دطار ۔

ملزوم اور اس کی دلیل

ملزوم بیت اللہ کی دیوار کے اُس حصے کو کہتے ہیں جو باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان ہے۔ یہ تقریباً چھ فٹ کا حصہ ہے اور یہ قبولیت دھاکے اہم منفامات میں سے ایک ہے، اس سے چھٹ کر گڑا گردانا، سینے اور رخسار لگا کر استھانی الحاجت اور حاجزی سے دعائیں مانگنا جو کا ایک سخون عین ہے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد ملزوم سے چھٹنا اور دعا کرنا، خاص طور پر اس لیے بھی ایک کیفیت پیدا کرتا ہے کہ یہ بیت اللہ سے خصوصیت کا وقت ہوتا ہے۔

حضرت عمر بن شعیب کہتے ہیں میرے والد شعیب کا بیان ہے ”میں اپنے والد حضرت عبد اللہ بن عمر بن العاصؓ کے سہراہ طواف کر رہا تھا کہ میں نے کچھ لوگوں کو بیت اللہ سے چمٹتے ہوئے دیکھا، میں نے عبد اللہ بن عمر سے کہا، ہمیں بھی اس جگہ لے چلیے، ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ اسی طرح بیت اللہ سے چمٹیں گے۔ تو انہوں نے کہا ”اعوذ بالله من الشیطین الرجیم“ پھر جب وہ طواف کر کے فارغ ہوئے تو وہ بیت اللہ کے اس خاص حصے کو چھٹ گئے جو بیت اللہ اور حجر اسود کے درمیان میں ہے، اور کہا خدا کی قسم ہی وہ جگہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے چمٹتے ہوئے دیکھا ہے۔“

اور ابو داؤد کی روایت میں حضرت شعیب ناہیان یوں ہے کہ "محمد بن عبد اللہ ابن عمر و حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کھڑے ہوئے، اور اپنا سینہ، چہرہ اور دلوں تھیلیاں اس طرح خوب پھیلا کر (دیوار کعبہ پر) رکھیں اور فرمایا ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔"

ملتزم کی دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "جو کوئی بھی مصیبت کا مارا اور آفت رسیدہ شخص بہاں پر دعا مانگے گا وہ ضرور غافیت پائے گا۔"

ملتزم سے چھٹ کر پہلے یہ دعا پڑھی جائے تو بہتر ہے پھر دین و دنیا کی جو ہائز مرادیں چاہے مانگے۔

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا يُوَافِي نِعْمَكَ وَ يَكْفَى فِي
مَزِيدٍ أَحْمَدُكَ بِجَمِيعِ مَحَامِدِكَ مَا عَلِمْتُ وَ مَا لَكَ
أَعْلَمُ وَ عَلَى جَمِيعِ نِعْمَكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَ مَا لَكَ أَعْلَمُ
وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ أَعِذْنِي مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ وَ أَعِذْنِي
مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَ قَنْعَنَى بِمَا رَأَشَ قُلْتَنِي وَ يَأْرِفُ لِي فِي
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْكَرِيرِ وَ فَدِيكَ عَلَيْكَ وَ إِلَيْكَ مُنْتَهٰ

لے ابو داؤد باب الملتم -

لے ابو داؤد، ابن ماجہ -

سَبِيلَ الْإِسْتِقَامَةِ حَتَّىٰ الْفَاكَ يَارَبَ الْعَالَمِينَ -

(اذکار علامہ نوودی)

”اے اللہ! حمد و شکر کا توہی مستحق ہے اُس حمد و شکر کا جس سے تیری
نعمتوں کا کچھ حق ادا ہو سکے، اور ان نعمتوں پر مزید احسان و انعام کا کچھ بدل
بن سکے، میں تیری حمد و شکر کرتا ہوں تیری ان تمام خوبیوں کے ساتھ جن کا مجھے
علم ہے اور ان خوبیوں کے ساتھ بھی جن کا مجھے علم نہیں، تیری ان تمام عطا
کردہ نعمتوں پر جن میں سے کچھ کا مجھے علم ہے اور کچھ میرے دائرة علم سے
ہا ہر ہیں، اور ہر حال میں تیرا شکرگزار اور تیراشنا خواہ ہوں، اے اللہ!
درود دسلام ہو محمد پر اور محمدؐ کی آل پر۔ اے اللہ! مجھے شیطان مردود
سے اپنی پناہ میں رکھو اندھجے اپنی پناہ دے ہر بُلائی سے اور تو نے مجھے
جو کچھ حنایت فرمایا ہے اس پر مجھے قانون بنادے اور میرے لیے اس میں برکت
پیدا فرمادے“ ॥

”اے اللہ! تو مجھے لپنے خوت و اکرام دلے ہمانوں میں سے بنادے اور
سید سے راستے پر اس وقت یک جگہ رہنے کی توفیق عطا فرمادے رب العالمین!
جب کہ میں تجد سے آگر ملوں“ ॥

قبوں بیت دعا کے مقامات

مجھ کے دوران ہر ہر عمل کرتے ہوئے ذکرِ تسبیح میں مشغول رہنا اور ہر مقام پر کثرت سے دعائیں کرنا مومن کی شان ہے بالخصوص بعض معین مقامات پر قبورِ عادوں کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب لکھنے سے بھرے والپیں بانے لگے تو آپ نے لکھنے والوں کے نام ایک خط لکھا جس میں لکھنے کے قیام کی اہمیت اور فضائل کا ذکر کیا، اور خاص طور پر یہ واضح فرمایا کہ ان پندرہ مقامات پر خصوصیت کے ساتھ بندہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے۔

- (۱) طواف بیت اللہ میں۔
- (۲) میزاب کے نیچے۔
- (۳) کعبہ مقدسہ کے اندر۔
- (۴) آپ زمزم کے پاس۔
- (۵) صفا کی پہاڑی پر۔
- (۶) مرودہ پر۔
- (۷) صفا اور مرودہ کے درمیان جہاں سعی کی جاتی ہے۔
- (۸) مقام ابراہیم کے پیچے۔

- (۹) عرفات کے میدان میں۔
- (۱۰) مژولفہ میں (مشعر الحرم کے پاس) میں
- (۱۱) منی میں۔
- (۱۲) طقزم سے چپٹ کر۔
- (۱۳) جھرات کے پاس۔
- (۱۴) جھرات کے پاس۔
- (۱۵) جھرات کے پاس۔ لہ



عمرہ کے معنی ہیں آباد مکان کا ارادہ کرنا، زیارت کرنا، اور اصلاح شرع میں عمرے سے مراد وہ پھوٹا حج ہے، جو ہر دن مانے ہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ہدایتہ اور دن مقرر نہیں، جب اور جس وقت جی چاہے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کریں، سعی کریں، اور حلق یا تقصیر کر کے احرام کھول دیں۔ عمرہ حج کے ساتھ بھی کیا جاسکتا ہے اور حج سے علیحدہ بھی، عمرہ کرنے والے کو معتبر کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے

دَأَتِّهُوا الْحَجَّ وَالْعُمَرَ كَارَلِلَهِ۔ (آل بقرہ: ۱۹۷)

”ادر اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔“

حدیث میں عمرہ کی بڑی فضیلت آئی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

”سب سے بہتر عمل ایمان کی شہادت ہے، اس کے بعد تحریت
اور چیاد کا مرتبہ ہے، پھر دو عمل ہیں جن سے زیادہ کوئی عمل فضل نہیں
ایک حج مبرور اور دوسرا عمرہ مبرور ہے۔“

عمرہ نمبر ورہ کے معنی ہیں وہ عمرہ جو محسن خدا کی رضا کے لیے اس کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ کیا گیا ہو، نیز تبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، «جو شخص اپنے گھر سے حج یا عمرے کی نیت سے روانہ ہوا اور راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شخص بغیر حساب جنت میں داخل ہو گا، اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا طوات کرنے والوں پر فخر کرتا ہے۔»

اور آپ کا ارشاد ہے

«حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کی دعوت پر آئے ہیں، یہ جو کچھ خدا سے مانگتے ہیں وہ ان کو عطا فرماتا ہے۔»

نیز فرمایا

«ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔»

عمرہ کے مسائل

۱۔ عمرہ زندگی میں صرف ایک بار ممکنہ موقود ہے، اس کے ملاوہ جب کبھی کیا جائے باعث اجر و برکت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ

لذ الیققی، دارقطنی۔

لذ البزار۔

لذ بخاری مسلم۔

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ”کیا عمرہ واجب ہے؟“ اپنے نے فرمایا ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ واس کی بڑی فضیلت ہے لئے۔“

۲۔ عمرہ کے لیے کوئی مہینہ، دن اور وقت مقرر نہیں ہے، جس طرح کم حج کے ایام اور اس کے ناسک کے لیے ایام مقرر ہیں، جب اور تین دن ت موقع ہو عمرہ کیا جا سکتا ہے۔

۳۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا مستحب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

”رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ میری بیت میں حج کرنا یہ۔“^۱

۴۔ عمرے کے لیے میقات محل ہے، اور سب ہی لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ آفاقت ہوں یا میقات کے اندر مل اور کتنے کے رہنے والے ہے۔

۵۔ عمرے کے اعمال صرف یہ ہیں، احرام یا ندھن، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا، مردہ کے درمیان سعی کرنا، اور حلق یا تقصیر کرانا۔

۱۔ جمع الفوائد مجموعۃ الترمذی۔

۲۔ ابو داؤد، تغییب اور بخاری کی روایت ہی ہے۔ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔

۳۔ حج کی میقات کے والوں کے لیے حرم ہے۔

حج کی قسمیں

حج کی نین قسمیں اور نینوں کے کچھ الگ الگ مسائلیں ہیں۔
 (۱) حج افراد (۲) حج قرآن (۳) حج تمثیل۔

حج افراد

افراد کے لغوی معنی ہیں، اکیلا کرنا، تنہا کام کرنا وغیرہ اور اصطلاح شرع میں افراد سے مراد وہ حج ہے جس کے ساتھ عمرہ نہ کیا جائے، صرف حج کا احرام باندھا جائے اور صرف حج کے مراسم ادا کیے جائیں، حج افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں، مفرد احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت کرے اور سارے اور کان حج جو اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں ادا کرے، مفرد پر قربانی واجب نہیں ہے۔

حج قرآن

قرآن کے لغوی معنی ہیں دو چیزوں کو باہم ملانا۔ اور اصطلاح شرع میں قرآن حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھ کر دونوں کے اور کان ادا کرنے کو کہتے ہیں، حج قرآن کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔

حج قرآن، افراد اور تمعن دونوں سے افضل ہے۔ حضرت محمد اللہ ابن سعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”حج اور عمرے کو بلا کر ادا کرو۔ اس لیے کہ یہ دونوں ناداری اور گناہوں کو رآدمی سے اس طرح نیست و نابوکر دیتے ہیں بلکہ کہ بھٹی لو ہے اور سو لے اور چاندی کے میل کچھیں کو نیست و نابوکر دیتی

ہے ॥ قرآن کے مسائل

- ۱۔ قارین کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمرہ، حج کے ہمینوں میں کرے۔
- ۲۔ حج قرآن میں عمرہ کا طوات حج کے طوات سے پہلے کرنا اجب ہے، اور عمرے کے لیے الگ طوات اور سعی ہے اور حج کے لیے الگ۔
- ۳۔ قرآن میں عمرے کے تمام افعال سے فراخوت کے بعد حج کے افعال و مناسک شروع کرنا مسنون ہے۔
- ۴۔ قارین کے لیے یہ مسحور ہے کہ وہ عمرہ کر کے حلق یا تعصیر کرائے۔
- ۵۔ قارین کے لیے یہ چائز تو ہے کہ وہ عمرے کا طوات اور حج کا طوات قدم

لہ امام شافعیؓ کے نزدیک افراد افضل ہے، اور امام مالکؓ کے نزدیک تمعن افضل ہے، اس لیے کہ حج تمعن کا ذکر قرآن میں فرمایا گیا ہے اور امام احمد بن حنبلؓ فرماتے ہیں، ”اگر قربانی کے جانور ساتھ ہوں تو تمعن افضل ہے۔“ اگر قربانی کے جانور ساتھ ہوں تو قرآن افضل ہے اور جب قربانی کے جانور ساتھ نہ ہوں تو تمعن افضل ہے۔ ۳۷ ترمذی۔ ۳۷ علامہ اہل حدیث کے نزدیک حج قرآن میں عمرے اور حج کے لیے ایک ہی طوات اور سعی کافی ہے۔

ایک ساتھ کر لے اور اسی طرح دونوں گی سمجھی بھی ایک ساتھ کرنے، لیکن ایسا کرنا سُنّت کے خلاف ہے۔

۶۔ حج قرآن کرنے والے پر قربانی واجب ہے اور یہ قربانی دراصل اس بات کا شکر یہ ہے کہ خدا نے حج اور عمرہ دونوں کا موقع عنایت فرمایا۔ اور اگر قربانی کرنے کی وسعت نہ ہو تو پھر دس روزے رکھنا واجب ہیں، تین روزے تو یوم خر سے پہلے رکھ لے اور سات روزے ایامِ شرقي کے بعد رکھے۔ قرآن کیم میں ہے

فَمَنْ لَمْ يَحْدُثْ فَعِصِيَّا مُثْلَاثَةٌ أَتَيَا مِنْ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةً
إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةً كَامِلَةً ط۔ (البقرة: ۱۹۶)

”پھر جس کو قربانی میسر نہ ہو تو وہ تین دن روزے رکھے دراں حج میں، اور سات روزے جب تم حج سے فارغ ہو کر لوٹ ب رکھو، یہ سب پرانے دن ہوتے۔“

۷۔ حج قرآن یا تمشع صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میقات سے باہر کے رہنے والے ہیں، جن کو اصطلاح میں آفاقی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے۔
ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُكَ حَاضِرِيَ السَّجْدَةِ الْحَرَامِ۔ (البقرة: ۱۹۶)
(قرآن) ان کیلئے ہے جن کے اہل خاصہ مسجد حرام میں نہ رہتے جوں کہ جو لوگ میقات کے اندر کے باشندے ہیں ان کے لیے صرف حج افرادی ہے۔

حج تمشع

تمشع کے لغوی معنی ہیں کچھ وقت تک فائدہ اٹھانا اور اصطلاح شرع میں

تائیع کے معنی ہیں حج تائیع کرنا۔ حج تائیع یہ ہے کہ آدمی عمر و اور حج ساتھ سانحکرے
لیکن اس طرح کہ دونوں کے احرام الگ الگ پاندھے اور عمرہ کر لینے کے بعد احرام
کھون کر ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتے جو احرام کی سالت میں منوع
ہو گئی تھیں، اور پھر حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرے، اس طرح کے حج میں
چونکہ عمرے اور حج کی درمیانی مدت میں احرام کھول کر حلال چیزوں سے فائدہ
اٹھانے کا کچھ وقت مل جاتا ہے، اسی لیے اس کو حج تائیع کہتے ہیں، قرآن کریم

میں ہے

فَمَنْ تَمَّشَ بِالْعُصْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْنَىٰ - (البقرہ: ۲۷)

”پس ہوش خص حج کے ایام تک لپنے عمرے سے فائدہ اٹھاتا چاہے تو اس

پر اس کی وسعت کے مطابق قربانی ہے“

حج تائیع، افراد سے افضل ہے، اس لیے کہ اس میں دو عبادتیں ایک
ٹھانہ جمع کرنے کا موقع مل جاتا ہے ہر کچھ زیادہ مناسک ادا کرنے کی سعادت
حاصل ہو جاتی ہے۔

حج تائیع کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ہدی کا جانور اپنے سہراہ لائے، اور دوسرا
یہ کہ ہدی کا جانور اپنے سہراہ نہ لائے۔ پہلی صورت دوسری سے افضل ہے۔

تائیع کے سائل

۱۔ تائیع کے لیے ضروری ہے، کہ وہ عمرے کا طواف زمانہ حج میں کرے

زمانہ حج کے جمینے یہ ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا پہلا عشرہ۔

یا کم از کم طوافِ عمرہ کے اکثر شوط زمانہ حج میں ادا کرے۔

۲- حج تمعن کے لیے ضروری ہے کہ عمرے اور حج کا طواف ایک ہی سال میں کرے، اگر کسی نے ایک سال عمرے کا طواف کیا اور دوسرا سال حج کا طواف کیا تو اس کو متین نہیں کہیں گے۔

۳- تمعن میں ضروری ہے کہ پہلے عمرے کا حرام باندھا جائے اور یہ بھی ضروری ہے کہ حج کا حرام باندھنے سے پہلے عمرے کا طواف کر لیا جائے۔

۴- متین کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمرے اور حج کے درمیان المام رہ کرے، المام کے معنی ہیں اتر پڑنا، اور اصطلاح میں المام سے مراد یہ ہے کہ آدمی عمرے کا حرام کھونے کے بعد اپنے گھروالوں میں جا کر اتر پڑے، ہاں اگر وہ قربانی کا جانور ہمراہ لایا ہے تو گھر اٹر پڑنے پر بھی حج تمعن صحیح ہو گا۔

۵- حج تمعن صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میقات سے باہر کے ہاشندے ہیں، جو لوگ مکتے میں یا میقات کے داخلی علاقوں میں رہتے ہیں ان کے لیے تمعن اور قرآن مکروہ تحریکی ہے۔

۶- حج تمعن کرنے والے کے لیے طوافِ قدوم کرنا منع نہیں ہے، اور اس کو چاہئے کہ طوافِ زیارت میں رمل کرے۔

۷- متین پر بھی قارن کی طرح قربانی دا جب ہے اور مقدور نہ ہو تو پھر دس روزے رکھئے، تین حج کے دوران یوم النحر سے پہلے رکھ لے اور رات اس وقت

رکھے جب حج سے فارغ ہو کر لوٹے یعنی آیام تشریق کے بعد۔

۸۔ حج تمثیع کرنے والا اگر ہدی کا جانور ہمراہ نہ لایا ہو تو عمرے کی سعی کے بعد حلق یا تقصیر کر کے احرام کھول دے اور پھر حج کے لیے جدید احرام پاندھے، البته اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کر آیا ہو تو پھر عمرے کی سعی کے بعد حلق وغیرہ ذکر لئے اور احرام پاندھے رہے، دسویں ذوالحجہ کو ہدی کی قربانی کر لینے کے بعد احرام سے باہر ہو۔

نبی عزیز کا نصیحتی حج

صحابی رسول حضرت جابر بن جحش کی زبان سے

مذہبیہ منورہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ آخری صحابی تھے۔ آپ کی وفات کے بعد مدینے میں پھر کوئی صحابی نہ رہا تھا، جب آپ کافی بوڑھے ہو گئے اور تو تے سال سے بھی زیادہ آپ کی عمر ہو گئی تھی، آنکھیں جاتی رہی تھیں، اُس وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے محمد بن علی جعیفی امام باقاعدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام باقرؑ کہتے ہیں واقعہ یوں تھا کہ ہمہ حنفی ساتھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ نے ہم میں سے ایک ایک سے اس کا نام اور حال معلوم کیا۔ جب میری باری آئی اور میں نے بتایا کہ میں حضرت حسینؑ کا پوتا ہوں تو نہایت ہی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا لپھر میرے گرتے کا اور پھر دالا بیٹن کھوں کر اپنا دست مبارک میرے گریبان میں ڈالا اور شمیک میرے سینے کے بیچ میں رکھا۔ — ان دنوں میرا عنفوں شباب کا زمانہ تھا، آپ بہت خوش ہوتے اور فرمایا "خوش آمدید میرے ہمیجی، میرے حسین رضا کی یاد گارِ اکہو کیا پوچھنے آئے ہو؟ بے تکلف پوچھو۔ میں نے پوچھنا شروع کیا، حضرت آنکھوں سے معذور تھے، اتنے میں خاز کا وقت آگیا حضرت جابر رضی

ایک چھوٹی سی چادر اور ڈھنے ہوئے تھے، اسی کو لپیٹ کر نماز کے لیے گھٹے ہو گئے، چادر اتنی چھوٹی تھی، کہ جب وہ اس کو اپنے کندھوں پر ڈالتے تو اس کے کنارے سرک کر پھر ان کی طرف آ جاتے، یہ اسی کو اور ڈھنے رہے حالانکہ ان کی بڑی چادر قریب ہی لکڑی کے اشینہ پر پڑی ہوتی تھی، جب آپ ہمیں نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو میں نے بڑھ کر عرض کیا حضرت! ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج و دادع (یعنی خصتی حج) کا مفصل حال سنائیے!

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے ۹ تک گنتی کر کے فرمایا، واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آگر رہے تو ۹ سال تک آپ نے کوئی حج نہیں کیا۔ پھر بھرت کے دسویں سال آپ نے عام اعلان کرایا، کہ اس سال آپ حج کے لیے تشریف لے جائیں گے، یہ اطلاع پاتتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینے آگر جمع ہونے لگے۔ ہر ایک کی آرز و تھی کہ وہ اس سوارک سفر میں آپ کے سہراہ جائے اور آپ کی پیروی کرے اور وہی کچھ کرے جو آپ کو کرتے دیکھے۔

آخر کار مدنیے سے روانہ ہونے کا وقت آیا اور یہ پورا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدنیے سے روانہ ہو کر ذوالحکیمہ کے مقام پر پہنچا۔ اور اس دن قافلہ نے اسی مقام پر قیام کیا۔

یہاں ایک خاص رائقہ یہ پیش آیا کہ قافلے کی ایک خاتون اسماء بنت عمیں یعنی سیگم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچے کی ولادت ہوتی رہیں کا نام محمد رکھا گیا، اسماء بنت عمیں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرایا کہ ایسی حالت

میں مجھے کیا کرنا چاہیئے۔ آپ نے فرمایا، اسی حالت میں احرام کے لیے غسل کر لو، اور اس حالت میں جبیں طرح خواتین لنگوت پاندھی ہیں تم بھی لنگوت ہاندھے رہو اور احرام پاندھو لو۔ پھر بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحیفہ میں نماز پڑھی، پھر آپ اپنی قصوار اونٹنی پر سوار ہوئے، اونٹنی آپ کو لے کر قریب کے بلند بیدان بیدار پر پہنچی، بیدار کی بلندی سے جب میں نے چاروں طرف سگاہ دوڑائی تو مجھے آگئے پہنچی، دائیں بائیں حد تظرتک آدمی ہی آدمی نظر آئے، کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل، خدا کے رسول ہمارے درمیان میں تھے اور آپ پر قرآن مازل ہوتا تھا، اور آپ قرآن کے مفہوم اور مطلب کو خوب سمجھتے تھے، لہذا حکم خداوند کے تحت آپ جو کچھ بھی کرتے تھے ہم لوگ بھی وہی کرتے، یہاں پہنچ کر آپ نے بلند آواز سے توحید کا طبیبہ پڑھا۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ
الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

”تیرے حضور حاضر ہوں اے اللہ! تیرے حضور حاضر ہوں تیری پکھار پر تیرے در پر حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بیک حمد و شکر کاستحق تیری ہے، احسان و انعام کرنا تیرا ہی حق ہے، اقتدار تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں“

آپ کے رفقاء سفر نے بھی بلند آواز سے اپنا تلبیبہ پڑھا، رشاید اس میں کچھ کلمات کا اضافہ تھا) مگر بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تردید نہیں فرمائی۔ البتہ آپ اپنا وہی تلبیبہ برا برپڑھتے رہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ عنہ نے فرمایا، اس سفر میں ہماری نیت دراصل حج ادا کرنے کی تھی، عمرہ ہمارے پیش نظر تھا، یہاں تک کہ حج بہم سب لوگ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، بیت اللہ پہنچے تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پھر طواف شروع کیا اور پہلے تین چکروں میں آپ نے مل فرمایا، پھر چار چکروں میں معمولی رفتار سے چلے، پھر آپ مقامِ ابراہیم پر آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی

وَاتْخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَصَّلَةً۔ - (البقرة: ۱۲۵)

”اور مقامِ ابراہیم کو لپنے لیے عبادت گاہ قرار دے لو“

پھر آپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقامِ ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان میں تھا۔ یہاں آپ نے دور کعت نماز ادا فرمائی۔ ان دور کعتوں میں آپ نے ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ اور ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ کی قرات فرمائی۔ پھر آپ حجر اسود کے پاس لوٹ کر آئے، حجر اسود کا استلام کیا، پھر ایک دروازے سے صفا کی طرف چلے، جب صفا کے بالکل قریب پہنچے تو آپ نے یہ آیت پڑھی۔

إِنَّ الْقَمَفَا وَالْمَرْدَأَةَ مِنْ شَعَائرِ اللَّهِ۔ - (البقرة: ۱۵۸)

”بلَّا شَبَهٍ صَفَا وَمَرْدَأَةٍ مِنْ شَعَائرِ اللَّهِ مِنْ سَبَبِهِنِّ“

اور فرمایا

آبَدَ أَبْدَأَ بَدَأَ اللَّهُ بِهِ میں صفا سے اپنی صعی شروع کرتا ہوں جس طرح اللہ نے اس آیت میں اس کے ذکر سے شروع کیا ہے۔ پس آپ پہلے

صفا پر آئے، اور صفا پر اتنے ادنیچے تک چڑھے کہ بہت اللہ آپ کو صاف نظر آنے لگا اور آپ قبلے کی طرف رُخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ توحید اور تکبیر میں مصروف ہو گئے، اور آپ نے پڑھا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
إِنْجَنَ وَغُدَّةٌ وَنَصَرَ عَبْدَهُ لَا وَهُنَّ مَالَاحْزَابُ وَحْدَهُ لَا -

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شرکیہ نہیں اقتدار اسی کے لیے ہے، حمد و شکر کا مستحق وہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا فرمادیا اور دین کو سارے عرب میں غالب فرمادیا) اپنے بندے کی اس نے پوری پوری مدد فرمائی۔ اور کفر و شرک کی فوجوں کو اس نے تنہاشکت دی ۴

تین بار آپ نے یہ کلمات دہراتے اور ان کے درمیان دعا مانگی۔ پھر آپ صفا سے نیچے آئے، اور مردہ کی طرف چلے اور مردہ پر بھی وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ آپ آخر میں پورا کر کے مردہ پر پہنچے تو آپ نے اپنے رفقاء سفر سے خطاب فرمایا۔ آپ اور مردہ پر تھے اور ساتھی نیچے شیب بیٹی تھے، اگر مجھے اس بات کا احساس پہلے ہو جانا، جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں بدی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور اس طواف و سعی کو عمرے کی سعی و طواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنالیتا اور احرام کھول دیتا۔ والبته تم میں سے جو لوگ بدی کا جانور ساتھ نہ لائے ہوں وہ اس طواف اور سعی کو عمرہ کا طواف قرار دے

کر حلال ہو سکتے ہیں۔

یہ مُن کر سُراقم ابن مالک کھڑے ہوئے، اور پوچھا یا رسول اللہؐ! یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا یہ اب تک بھیشہ کے لیے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈالیں اور فرمایا، عمرہ حجج میں اسی طرح داخل ہو گیا۔ صرف اسی سال کے لیے نہیں بلکہ بھیشہ بھیشہ کے لیے۔

اور حضرت جابرؓ نے اپنا بیان چاری رکھتے ہوئے فرمایا، علی ڈیگین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جائزے کر کر معظمه پہنچے، انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں، انہیں کپڑے بھی پہن ل کھے ہیں اور سُر مرہ بھی لٹکا ہوا ہے، حضرت علیؓ کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوتی، اور ناگواری کا اظہار کیا، تو حضرت فاطمہؓ نے جواب دیا، مجھے ابا ہاجان نے اس کا حکم دیا تھا، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے احرام ختم کیا ہے۔

لہ اہل کرد کے نزدیک حج کے ہمینوں میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی ہات تھی۔ اب جو سُراقم ابن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس طواف و سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا چاہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ایسا ہی حکم بھیشہ کے لیے ہے یا یہ حکم خاص طور پر صرف اسی سال کے لیے ہے۔ تھے یعنی آیام حج میں عمرہ کرنا، اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے، اس کو غلط سمجھنا اور گناہ قرار دینا اسرا اسر غلط ہے، اور یہ حکم بھیشہ بھیشہ کے لیے ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیؑ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، جب تم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو کیا نیت کی؟ (یعنی صرف حج کی نیت کی تھی یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی)، علیؑ نے جواب میں کہا، میں نے کہا تھا، اے اللہ! میں بھی اسی چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسولؐ نے باندھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، میں تو چونکہ اپنے ساتھ بدھی کا جانور لے کر آیا ہوں، اس لیے میرے لیے احرام کھونے کی گنجائش نہیں ہے اور تم نے بھی وہی نیت کر لی ہے جو میری ہے لہذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ بدھی کے اوٹ جو علیؑ میں سے لے کر آئے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ہمراہ لائے تھے، یہ سب تو تنہیہ سارے صحابہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدایت کے مطابق احرام کھول دیئے اور اپنے بال کٹوا کر حلال ہو گئے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ جو بدھی کا جانور ساتھ لائے تھے احرام باندھ مے رہے۔

پھر جب یوم الترویہ آیا، (یعنی ذوالحجہ کی آخر تاریخ ہو گئی)، تو سارے لوگ منی کی طرف روانہ ہوئے، اور (ان) لوگوں نے حج کا احرام باندھا، جو عمرہ کر کے احرام ختم کر پکے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصوار پر سورہ کرمنی کو روانہ ہوئے، وہاں آپ

سلہ بعض روایات میں یہ صراحت ملتی ہے کہ ۴۷ اوٹ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ لائے تھے اور، ۴۸ اوٹ حضرت علیؑ اپنے ساتھیں سے لے کر آئے تھے۔

نے ظہر، عصر، مغرب، عشار اور فجر کی پانچوں نمازیں ادا فرمائیں، فجر کی نماز کے بعد آپ منی میں کچھ دیر اور ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے اور آپ نے حکم دیا کہ "نمرہ" کے مقام پر آپ کے لیے صوف کا خیر نصب کیا جائے۔ قریش کو اس میں ذرا شک نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعر الحرام کے پاس ہی وقوف فرمائیں گے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ سے قریش کرتے رہے تھے، لیکن آپ شعر الحرام کے حدود سے آگئے نکل آئے اور میدان عرفات کی حدود میں آئے۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ "نمرہ" کے مقام پر آپ کے لیے خیر نصب کیا جائے، چنانچہ خیر نصب کر دیا گیا تھا اور آپ نے اسی خیے میں قیام فرمایا۔

پھر جب سورج ڈھلنے لگا، تو آپ نے حکم دیا کہ آپ کی اوٹھنی "قصوار" پر کجا وہ اکس دیا جائے، چنانچہ اوٹھنی پر کجا وہ اس دیا گیا۔ آپ اوٹھنی پر سوار ہوئے اور "دادی عزز" کے شبیب میں پہنچے۔ وہاں آپ نے اوٹھنی پر سوار ہو کر لوگوں کو خطاب کیا۔

لہ نمرہ دراصل وہ سرحدی مقام ہے جہاں حرم کی حدختم ہوتی ہے اور عرفات کی حد شروع ہوتی ہے، زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ حرم کے حدود میں شعر حرام کے پاس ہی وقوف کرتے تھے اور عام لوگ میدان عرفات میں وقوف کرتے تھے، اس لیے قریش کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ وقوف فرمائیں گے لیکن آپ نے وقوف کے اصل مقام پر ہی اپنا خیر نصب کرنے کا حکم پہلے ہی سے دے دیا تھا۔

مدلوگو! نا حق کسی کا خون بہانا اور ناروا طریقے پر کسی کا مال لینا،
تمہارے لیے حرام ہے، بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے
دن اس میں اور اس شہر میں تمہارے لیے حرام ہے را اور تم حرام
سمجھتے ہو)۔

خوب سمجھ لو کہ دورِ جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دنوف قدموں
کے نیچے روند دی گئی ہیں، اور زمانہ جاہلیت کا خون معاف ہے اور
سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، یعنی ربیعہ بن الحارث بن
عبداللطاب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں جو بنی
سعد کے قبیلے میں دودھ پینے کے لیے رہا کرتے تھے۔ ان کو قبیلۃ
ہذیل کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ اور دورِ جاہلیت کے سارے
سودی مطالبے اب سوخت ہو گئے۔ اور اس سلسلے میں بھی سب سے
پہلے میں اپنے چچا عہاس بن عبدالمطلب کے سودی مطالبات کے
ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، آج ان کے سارے سودی مطالبات
ختم ہیں۔

اے لوگو! خواتین کے حقوق کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہو،
تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنے قیدِ نکاح میں لیا ہے، اور
ان سے لادت اندوزی اللہ کے کلمہ اور قانون ہی کے ذریعے تمہارے
لیے حلال ہوئی ہے۔ تمہارا ان پر خاص حق یہ ہے کہ جس شخص کا تمہیں
ٹپنے گھر پیں آنا ناپسند ہو ان کو وہ تمہارے لبتر پر بیٹھنے کا موقع نہ دیں!

اور اگر وہ یہ خطا کر بیٹھیں تو تنبیہ کے لیے تم ان کو معمولی سزا دے سکتے ہو اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق کشادہ ولی سے ان کے لہاس اور کھانے پینے کا انتہام کر دو۔ اور میں تھہارے درمیان وہ سرچشمہ ہدایت چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم کے مضبوط پکڑے رہے اور اس کی رہنمائی میں چلتے رہے، تو کبھی تم راہ حق سے نہ بہٹکو گے — یہ سرچشمہ ہدایت ہے ”اللہ کی کتاب“

اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تم سے میرے ہارے میں ریافت فرمائے گا رکنیں نے خدا کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں؟) تباہ تم وہاں میرے بارے میں خدا کو کیا جواب دو گے؟

حاضرین نے یک دہان ہو کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے سب کچھ سہنچا دیا، اور آپ نے لصح و خیرخواہی میں کوئی وقیفہ نہیں چھوڑا۔ اس پر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی پھر لوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے اور حجہ کاستے ہوتے تھیں بارگہ، اے اللہ! تو بھی گواہ رہ، اے اللہ! تو بھی گواہ رہ، اے اللہ! تو بھی گواہ رہ میں نے تیرا پیام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیئے، اور تیرے یہ بندے سے گواہ ہیں کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔

پھر حضرت جال نماز ان دی، اور قیامت کہی، اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اس کے بعد حضرت بلالؓ نے دوبارہ اتفاق دیا اور آپ نے حسر کی نماز پڑھائی، ظہر اور حسر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کے بعد

آپ نئیک اس مقام پر آئے جہاں وقوف کیا جاتا ہے، پھر آپ نے اپنی اونٹنی قصوار کا سخ ادھر موڑ دیا بعد صریحی ٹھہری چنانیں ہیں اور سارا مجمع آپ کے سامنے ہو گیا جس کے سب ہی لوگ پیدل تھے، آپ قبلہ رو ہو گئے، اور آپ نے وہیں وقوف فرمایا، یہاں تک کہ آفتاب کے غروب کا وقت آگیا اور شام کی زردی بھی ختم ہو گئی اور سورج بالکل غروب ہو گی تو اس وقت آپ (عرفات سے مزدلفہ کی طرف) روانہ ہوئے اور اسامہ بن زید کو آپ نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور آپ مزدلفہ آپنے پیچھے۔ یہاں آکر آپ نے مغرب اور عشار کی نماز ایک ساتھ پڑھی، اذان ایک ہوتی اور اقامت دونوں کے لیے الگ الگ، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی سنت یا تقلیل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور آرام فرماتے رہے، یہاں تک کہ صحیح صادق ہو گئی اور فجر کا وقت ہو گیا۔ صحیح صادق ہوتے ہی آپ نے اذان اور اقامت کہلوا کر فجر کی نماز اول وقت ادا فرمائی، نماز فجر سے فارغ ہو کر آپ مشعر الحرام کے پاس تشریف لاتے۔ یہاں آکر آپ قبلے کی طرف رُخ کر کے کھڑے ہوئے اور دعا، تکبیر، تہلیل اور توحید و تسبیح میں مصروف ہو گئے اور دری تک مصروف رہے، جبکہ عرب اجلا ہو گیا تو طلوع آفتاب سے ذرا پہلے آپ دہاں سے منی کے لیے روانہ ہوئے، اور اس وقت آپ نے اپنی ناقہ کے پیچھے فضل بن عباس کو سوار کر لیا اور روانہ ہوئے۔ جب آپ ”دادیٰ محترم“ کے درمیان پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو ذرا تیز کر دیا۔ پھر محترم سے نکل کر آپ اس درمیانی راستے سے چلے جوڑے چھرے کے پاس جا کر نکلتا ہے، پھر اس چھرے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے

پاس ہے آپ نے رمی فرمائی، سات کنکر ہاں اس پر چینک کر ماریں اور ہر کنکری پھینکتے ہوئے آپ "اللہ اک بڑا" کہتے ہاتے تھے۔ یہ کنکر ہاں چھپوٹی چھپوٹی شدیکریوں کی طرح تھیں۔ آپ نے نشیبی مقام سے جبرو پر یہ رمی کی، جب آپ رمی سے فارغ ہوئے تو قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے، وہاں آپ نے تریسٹھراونٹ اپنے دست مبارک سے قربان کیے، اور باقی اونٹ حضرت علی رخ کے حوالے کیے جن کی قربانی حضرت علی رثا نے کی اور آپ نے حضرت علیؑ کو اپنے ہدا یا کے اذتوں میں شریک فرمایا، پھر آپ نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر ہر اونٹ میں سے ایک لکڑا لیا جائے۔ چنانچہ ہر ایک میں سے ایک ایک لکڑا کر دیکھیے میں ڈالا گیا اور پکایا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیؑ دلوں نے اس گوشت میں سے تناول فرمایا اور اس کا شور ہا بھی پیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی پر سوار ہوئے اور طوافت ریارت کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے، ظہر کی نماز آپ نے مکے میں پہنچ کر ادا فرمائی۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر آپ راپنے اہل خاندان (بنی عبدالمطلب) کے پاس آئے، جوز مزم سے پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کو پلارہے تھے، آپ نے ان سے فرمایا، ڈول نکال کر پاؤ۔ اگر مجھے یہندی شہ نہ ہوتا، کہ (مجھے دیکھ کر) دوسرے لوگ تم سے زبردستی یہ خدمت چھین لیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے نہمارے ساتھ زمزم سے ڈول کھینپتا۔ ان لوگوں نے آپ کو ڈول بھر کر دیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا۔

جنایت کا بیان

جنایت کے لغوی معنی ہیں، کوئی حرام کام کرنا، گناہ کرنا، وغیرہ لیکن، حج کے باب میں جنایت سے مراد کوئی ایسا کام کرنا ہے جو حرم میں ہونے کی وجہ سے یا احرام پا نہ ہلینے کی وجہ سے حرام ہو، اس طرح جنایت کی دو صورتیں ہو جاتی ہیں۔

(۱) جنایت حرم۔

(۲) جنایت احرام

آدمی سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو حدود حرم میں حرام ہے یا کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو حالت احرام میں حرام ہے دونوں کی تلافی کے لیے کفار سے اور قربانی کے کچھ الگ الگ احکام ہیں جن کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔

حرم مکہ اور اس کی محظمت

روئے زمین پر سب سے مقدس انسب سے زیادہ پا برکت اور سب سے زیادہ قابل احترام وہ عمارت ہے جس کو خدا نے "اپنا گھر" قرار دیا ہے، جو تو حیدر اور نماز کا مرکز ہے، اور روئے زمین پر وہ سب سے پہلی عمارت ہے جس کو خدا کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے، جو ہدایت و برکت کا سر چشمہ ہے اور

ساری انسانیت کا مرجع اور پناہ گاہ ہے۔

پھر یہ بیت اللہ جس مبارک مسجدؐ کے درمیان میں واقع ہے، اس کو مسجد الحرام (یعنی قابلِ احترام مسجد) کہا گیا ہے، اور اس کو زیارتی تمام مسجدوں سے فضل ہے، لیکن اصل مسجد قرار دیا گیا ہے، روئے زین کی دوسری مسجدوں میں اسی لیے نماز صحیح ہے کہ وہ اس مسجدِ حرام کی قائم مقام ہیں اور اسی کی طرف ان سب کا رُخ ہے۔ مسجدِ الحرام کی عظمت یہ ہے کہ اس میں ایک نماز پڑھنے والے کو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔

خدا کا گھر اور مسجدِ الحرام، جس مبارک شہر میں واقع ہے اس کو "بلد اللہ الحرام" (اللہ کا حرمت والا شہر) کہا گیا ہے، اور خدا کے رسولؐ نے اس کو روئے زین کے تمام شہروں سے بہتر اور اللہ کی نظر میں تمام بستیوں سے زیادہ محبوب بنایا ہے، نیز آپؐ نے اس کو نہایت پاکیزہ، دل پسند اور اپنا محبوب ترین شہر قرار دیا ہے اور یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں سکونت اختیار نہ کرتا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس شہر کو ہی کو حرم قرار دیا ہے بلکہ اس کی ہر ہر سمت میں کئی کئی کلومیٹر کے علاقے کو سودا حرم میں داخل فرمایا کر دیا ہے (یعنی دا جب الاحترام علاقہ) قرار دے دیا ہے، اور اس کی عظمت و احترام کے کچھ آداب و احکام مقرر فرمادیئے ہیں۔ ان سروں میں بہت سے وہ کامیں اس علاقے کی حرمت

کے تعلق سے حرام اور ناجائز ہیں جو باقی ساری دنیا میں جائز اور سباح ہیں۔

حرم کے حدود پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقرر فرمائے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہدِ رسالت میں ان حدود کی تجدید فرمائی۔ یہ حدود معلوم اور معروف ہیں۔ مدینے کی جانب تقریباً تک کلو میٹر تک حرم کی حد ہے، میں کی سمت میں تقریباً گیارہ کلو میٹر، طائف کی سمت میں بھی تقریباً گیارہ کلو میٹر اور تقریباً اتنے ہی کلو میٹر تک عراق کی جانب بھی حرم کی حد ہے، اور جدے کی طرف تقریباً سو لکھ کلو میٹر تک حرم کی حد ہے۔ — نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اور حسنہ غشان رضی اور حضرت معاویہؓ نے بھی اپنے دور میں اس حد بندی کی تجدید فرمائی اور اب یہ حدود معلوم و معروف ہیں اور حدود حرم کی عظمت و عزت، خدا اور اس کے دین سے تعلق اور وفاداری کی علامت ہے اور امت بھیثیت مجموئی جب تک اس عظمت و احترام کو ہاتھ رکھے گی اس پر خدا کی حفاظت اور رحمت کا سایہ ہو گا اور وہ دنیا میں رفت اور سر بلندی کی زندگی گزارے گی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”میری یہ امت جب تک حرم مقدس کی عظمت و احترام کا حق ادا کرتی رہے گی، بغیر رہے گی اور جب وہ اس کا احترام اور اس کا احسان صاف کر دے گی، تھا وہ براہمی جائے گی“

جنایات حرم

- ۱۔ حرم کی خود روگھاں، پیڑ، پودے اور ہر ابھر اس بڑہ کاٹنا یا آکھاڑنا جنایت ہے، اگر کسی کی ملکیت نہ ہوں تو اس کا لفڑاہ صرف یہ ہے کہ اس کی قمیت را، خدا میں خرچ کر دی جاتے، اور اگر کسی کی ملکیت ہوں تو پھر دُگنی قمیت ادا کرنا واجب ہے، صدقہ بھی کرنا ہوگا اور مالک کو بھی قمیت دینا پڑے گی۔
- ۲۔ اذخر کاٹنے یا آکھاڑنے کی اجازت ہے۔ حضرت عباس رضی کے مطابق پر آپ نے اذخر کاٹنے کی اجازت دے دی تھی۔
- ۳۔ خود روپودے چاہے وہ جھاڑ جھنکاڑ ہی کیوں نہ ہوں ان کاٹنا یا آکھاڑنا بھی جنایت ہے۔
- ۴۔ جو پیڑ پودے خود رو نہ ہوں بلکہ بوئے اور لگائے گئے ہوں ان کو توڑنا جنایت نہیں، اسی طرح کسی درخت کے چند پتے توڑنا بھی جنایت نہیں لبھر طیکہ کسی کی ملکیت نہ ہوں، اگر کسی کی ملکیت ہوں تو اس کی اجازت کے بغیر نہ توڑے جائیں، ہاں مالک خود توڑے تو جنایت نہیں ہے۔
- ۵۔ حرم کے شکار کا قتل کرنا بھی جنایت ہے، قتل کرنے والے کو اس کا تادان دینا ہوگا
- ۶۔ حرم کے پرندے کے انڈے توڑنا یا کھون لینا بھی جنایت ہے،

لہ ایک ستم کی خوبصوردار گھاں ہے جس کو لوہار لوگ بھی استھان کرتے تھے اور جھپتوں پر بھی ڈالی جاتی تھی۔

ہی طرح حرم کی مذیاں مارنا بھی جنایت ہے۔

۷۔ اگر کسی کے پاس کوئی شکار ہو اور وہ شخص حرم میں داخل ہو رہا ہو تو اس پر واجب ہے کہ اس شکار کو چھوڑ دے، ہاں اگر شکار رستی میں بندھا ہوا ہو اور رسی اس کے ہاتھ میں ہوا یا شکار کسی پھرے اور کٹھرے میں بند ہو تو اس کا چھوٹا ناد اجنبی ہے۔
۸۔ میقات سے احرام باندھے بغیر حرم میں داخل ہونا بھی جنایت ہے، اور ایسے شخص پر ایک قربانی واجب ہے۔

۹۔ حرم کے حدود میں ان جانوروں کا مارنا جنایت نہیں، بھیڑیا، سانپ، بچھو، چورا یعنی بلوں میں رہنے والے جانور، کچھوا، کچھپکلی، کچھر، کھشل، پتو، مکھی، بھڑ، چیزوں میں اور وہ جانور جو حلہ کریں اور ان کے حلے سے نپخنے کے لیے ان کو مار دلانا ناگزیر ہو۔

۱۰۔ حرم سے باہر حلق یا تقصیر کرانا بھی جنایت ہے اور اس سے ایک قربانی واجب ہوگی۔

جنایاتِ احرام

احرام کی جنایات تین قسم کی ہو سکتی ہیں۔

- (۱) جن میں دو قربانیاں واجب ہیں۔
- (۲) جن میں صرف ایک قربانی واجب ہے۔
- (۳) جن میں صرف صدقہ واجب ہے۔

وہ جنایات جن میں دو قربانیاں واجب ہیں

۱۔ مرد اگر کوئی گاڑھی خوشبو یا گاڑھی سر میں لگائے اور ایک شب روزہ دہ لگی رہے، پورے سر میں لگائے یا چونھائی سر میں اس پر دو قربانیاں واجب ہوں گی، البتہ کوئی خاتون ایسا کرے تو ایک ہی قربانی واجب ہوگی۔

۲۔ وہ ساری جنایات جن سے حج افراد کرنے والے پر ایک قربانی واجب ہوتی ہے ان سے قارن پر دو قربانیاں واجب ہوتی ہیں۔

۳۔ حج تشعع کرنے والا اگر بدھی کا چانور سامنہ لا لایا ہو، تو اس پر ان ساری جنایات میں دو قربانیاں واجب ہوں گی جن سے مُفرد پر ایک قربانی واجب ہوتی ہے۔
وہ جنایات جن میں ایک قربانی واجب ہے

صرف دو صورتوں میں اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوتی ہے اس کے علاوہ جہاں جہاں قربانی کا ذکر آیا ہے اس سے مُراد بکری یا بھیڑ کی قربانی ہے۔

۴۔ طواف زیارت اگر کوئی جنابت کی حالت میں کرے تو ایک اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی۔

۵۔ دقویت عرفات کے بعد طواف زیارت اور حلق یا تقصیر سے پہلے اگر مباشرت کر لی تو اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی۔

ان دو صورتوں کے علاوہ باقی صورتوں میں بکری یا بھیڑ کی قربانی واجب ہوگی۔

۴۔ «طوات کے واجبات» میں سے کوئی بھی واجب ترک کر دیا جائے تو ایک قربانی واجب ہے۔

منوعاتِ احرام سے بچنا بھی طوات کے واجبات میں سے ہے، ان میں سے بعض منوعات میں وجوبِ قربانی کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں ان کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔

۱۔ اگر زیادہ خوشبو کا استعمال کیا تو ایک قربانی واجب ہے اور اگر تھوڑی خوشبو استعمال کی لیکن جسم کے کسی بڑے عضو پر مثلاً سر، ہاتھ، پیسہ وغیرہ پر ملی تب بھی ایک قربانی واجب ہے۔

۲۔ اگر ایک ہی مجلس میں پورے بدن پر خوشبو لگائی تو ایک ہی قربانی واجب ہے اور اگر مختلف مجلسوں میں پورے بدن پر لگائی تو ہر مرتبہ کے خصوص قربانی واجب ہوگی۔

۳۔ خوشبو لگانے کے بعد قربانی تو کر لی لیکن خوشبو زائل نہیں کی تو پھر قربانی کرنا ہوگی۔

۴۔ خوشبو دار لباس پہنا اور دن بھر ہٹنے رہا تو ایک قربانی واجب ہوگی۔

۵۔ رفیقِ مہندسی سر، داڑھی یا ہاتھ پیسہ میں لگائی تو ایک قربانی واجب ہوگی۔

۵۔ سلے ہوئے کپڑے پہننے میں قربانی واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایک دن یا ایک رات پہننے رہے، اس سے کم وقت پہننے سے قربانی واجب نہ ہوگی بلکہ صرف صدقہ واجب ہوگا، اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ سلے ہوئے کپڑے کو رواج کے مطابق پہنے اگر کوئی اپنا کرتہ یا شیر وانی یونہی کندھے پر ڈالے اور ہاتھ آستینوں میں ڈالے تو کوئی جنایت نہیں ہے۔

نجاستِ حکمی سے پاکی حاصل کیے بغیر طواف کرنے میں بھی وجوب قربانی کے تعلق سے کچھ سائل ہیں، فیل میں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔

۶۔ طوافِ زیارت کے علاوہ کوئی بھی طوافِ حالتِ جنایت میں کیا جائے ایک قربانی واجب ہوگی۔

۷۔ طوافِ زیارت حدیثِ اصغر کی حالت میں کیا جائے تو ایک قربانی واجب ہوگی۔ اور عمرؓ کا طواف بھی حدیثِ اصغر کی حالت میں کرنے سے ایک قربانی واجب ہوگی۔

۸۔ طوافِ زیارت کے زیادہ سے زیادہ تین شوط ترک کر دینے سے قربانی واجب ہے اور اگر تین شوط سے زیادہ ترک کر دیئے تو پھر قربانی سے اس کی تلافی نہ ہوگی بلکہ دوبارہ طواف کرنا ہوگا۔

۹۔ واجباتِ حجّ میں سے کوئی واجب ترک کر دیا جائے تو ایک قربانی واجب ہے۔

۱۴۔ مفرد حلق یا تقصیر یا طواف زیارت دسویں ذوالحجہ کے بعد کرے تو
قربانی واجب ہوگی۔

۱۵۔ قارن ذبح سے پہلے یا اسی سے پہلے حلق کرانے تو ایک قربانی
واجب ہوگی۔

وہ جنایات جن میں صرف صدقہ واجب ہے

۱۔ خوشبو کا استعمال اس مقدار میں کیا جائے جس سے قربانی واجب نہیں
ہوتی، تو ایسی صورت میں صدقہ واجب ہوگا، مثلاً ایک عضو سے کم میں خوشبو
لگائی، یا لباس میں ایک بالشت مربع سے کم جگہ میں لگائی یا زیادہ لگائی لیکن
لباس کو پورے ایک دن پاپوری ایک رات استھان نہیں کیا۔

۲۔ سلا ہو لباس ایک دن یا ایک رات سے کم پہننا یا اتنے ہی وقت کے
لیے سرڈھانک لیا تو ایک صدقہ واجب ہوگا۔ اور اگر سعوی سے وقت کے
لیے سرڈھانک کا یا سلا ہوا کپڑا پہنا مثلاً ایک گھنٹے سے بھی کم تو ایک سُٹھی آٹھا دینا
کافی ہے۔

۳۔ طواف قدم یا طوافِ دراع یا اور کوئی لفلي طواف حدیث اصغر
کی حالت میں کرنے سے ایک صدقہ واجب ہوگا۔

۴۔ صدقہ سے مراد ایک شخص کا صدقہ فطر ہے جو اسی روپے والے سیر کے حساب سے
ایک کلو ایک سو دس گرام (۱۰۱۵) کے برابر ہے، (علم الفقہ جلد ۴ صفحہ ۱۵) اور بہشتی زیور میں
ایک شخص کا صدقہ فطر ایک سیر سائز سے بارہ چھٹا نک بتایا گیا ہے۔

ہم۔ طواف قدم یا طواف دادع یا سعی کے تین یا تین سے کم شوط تک کر دینے تو ہر شوط کے حوض ایک صدقہ واجب ہوگا۔

۵۔ ایک دن میں جس قدر رمی واجب ہیں ان میں سے آدمی سے کم تر کر دے مثلاً ارادہ الحجہ کو جھرو عقبہ کی ساتھی واجب ہیں، ان میں سے کوئی شخص نہیں رمی ترک کر دے تو ہر کنکری کے پسلے ایک صدقہ واجب ہوگا۔
۶۔ کسی دوسرے شخص کے سر پا گردن کے ہال بنا دیے، چاہے یہ دوسرا شخص محرم ہو یا غیر محرم، ایک صدقہ واجب ہوگا۔

۷۔ پانچ ناخن کٹوائے یا پانچ سے زیادہ لیکن کسی ایک ہاتھ پیر کے نہیں بلکہ متفرق طور سے کٹوائے تو ایک صدقہ فطر واجب ہوگا۔

اصولی ہدایات

۱۔ اگر ایک ہی صدقے کی قیمت یا چند واجب صدقات کی قیمت ایک قربانی کے برابر ہو جائے چاہے قربانی کے جانور ارزان ہونے کی وجہ سے ہو یا چند صدقات کی قیمت اتنی ہو جائے کہ قربانی کے برابر ہو جائے تو اس قیمت میں سے اتنی رقم کم کر لینا چاہیے کہ بقیہ رقم قربانی کی قیمت سے کم رہ جائے۔

۲۔ حج کے واجبات میں سے کوئی واجب اگر کسی عذر کے بغیر ترک کیا جائے تو قربانی واجب ہے اور اگر عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو نہ قربانی

لہ عذر کی شالیں، بخار، سردی کی شدت، زخم، سرپیں درد وغیرہ، پھر عذر میں پہلی ضروری نہیں کہ وہ ہر وقت رہے، نہ یہ ضروری ہے کہ اس سے جان جلنے کا خطرہ ہو۔

دائرہ سبھ اور نہ صدقہ۔

۳۔ اترام کی سالت میں جو کام منوع ہیں ان کو کر لینے سے بعض صورتوں میں قربانی واجب ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں صدقہ۔ (جیسا کہ جنایات کی اقسام سے واضح ہوا۔) قربانی واجب ہونے کی صورت میں یہ بھی اختیار ہے کہ قربانی کے بجائے جہہ سکینوں کو ایک ایک صدقہ دے دیا جائے اور یہ بھی اختیار ہے کہ جب اور جہاں چاہے صرف تین روزے رکھ لے۔

صدقہ واجب ہونے کی صورت میں اختیار ہے کہ صدقے کے بجائے ایک روزہ رکھ لے۔

شکار کی حزا

منوہاتِ احرام میں سے وحشی جانور کا شکار بھی ہے، — شکار کرنا بھی منوع ہے اور شکار کرنے والے کی اعانت کرنا بھی منوع ہے، وحشی کا شکار کرنے سے بجز الازم آتی ہے، جزا کے لغوی معنی بدلتے کے ہیں اور شکار کے باب میں اس سے مراد شکار کی وہ قیمت ہے جو در منصف مزاج، جب نظر افراد تجویز کریں، قرآن پاک میں ہے

يَا إِيَّاهَا أَنْذِنِي أَمْكُنْ لَا لَتَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُسْنُ مُرْدٌ
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَيْدًا فَجَزَاءُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمَ
يَعْلَمُهُ بِهِ ذَوَاعْدُلٍ مِّنْكُمْ هُدُّيًّا مِّنْ يَالِّعَ الْكَعْبَةِ أَوْ
كَفَّارٌ لَّهُ طَعَامٌ مَّسَاكِينٌ أَوْ عَدُولٌ ذَلِكَ صِيَامًا لَّيْدَأْوَى
وَبَالَّهُ أَمْرٌ بِهِ - (المائدہ: ۹۵)

”اے ایمان والو! احرام کی حالت میں شکار مت مارو، اور تم میں سے کوئی جان بوججد کر اگر شکار مارے تو جو جانور اس نے مارا ہے اس کے ہمراہ ایک جانور نذر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل افراد کریں گے اور یہ ہدی کعبہ بھیجی جائے گی یا اس جنایت کے کفار سے میں چند سکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کامزوں پر کھلے۔“

اس آیت میں جس شکار کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ شخصی کا شکار ہے، بھرپور شکار حالت احرام میں جائز ہے، چاہے اس کا کھانا جائز ہو یا نہ ہو، قرآن کی صراحت ہے۔

**أَيْلَ لَكُمْ صَيْدٌ الْبَحْرُ وَطَعَامُهُ مَئَادٌ لَكُمْ وَالسَّيَارَةُ
وَالْحِرَقَ عَلَيْكُمْ صَيْدٌ الْبَرِّ مَا دَمْتُمْ حُرُمًا۔ (المائدہ: ۹۴)**

”تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے قیام کی صورت میں بھی اور قافلے دالوں کے لیے زاد راہ کے طور پر بھی البتہ شخصی کا شکار جب تک تم حالت احرام میں ہو تو تم پر حرام کیا گیا ہے۔“

شکار اور جزا کے مسائل

۱۔ خود شکار کرنا بھی ممنوع ہے اور شکار کرنے والے کی مدد کرنا بھی ممنوع ہے، جس طرح شکار کرنے والے پر جزا ہے اسی طرح مدد کرنے والے پر بھی جزا ہے۔

۲۔ اگر کئی محرم میں کر ایک شکار ماریں یا ایک مارے اور چند مدد کریں تو سب پر الگ الگ جزا اجنب ہو گی۔

۳۔ اگر ایک محرم کئی شکار مارے تو جتنے شکار مارے گا اتنی ہی جزاء میں داجب ہوں گی۔

۴۔ صرف جوشی جانور کا شکار کرنے سے جزا دا جب ہوتی ہے، پا تو جانوروں کے مارنے سے جزا دا جب نہیں ہوتی مثلاً کوئی شخص بکری اگائے، اونٹ، مرغی وغیرہ کو مار دے تو اس سے جزا دا جب نہیں ہوتی۔

۵۔ جن جانوروں کا گوشت حلال نہیں ہے وہ چاہے کتنے ہی بڑے ہوں ان کی جزا بکری ہی ہوگی۔ مثلاً کسی نے ہاتھی کو مارا تو اس کی جزا بکری ہی ہوگی۔
۶۔ جو نہیں پایا ٹھہری اگر تین سے زیادہ مارے یا کسی کو مارنے کا حکم دے تو ایک صدقہ فطرہ واجب ہوگا، اور تین یا تین سے کم مارے تو جو چاہے صدقہ دے۔

۷۔ شکار اگر کسی کی ملکیت ہو تو دہری قیمت ادا کرنا ہوگی، راہ خدا میں جزا تو دے گا ہی، اس شخص کو بھی مجوزہ قیمت دینا ہوگی، جس کا شکار مارا ہے۔

۸۔ شکار جہاں مارا گیا ہے اور جس وقت مارا گیا ہے اسی مقام اور اسی وقت کی قیمت واجب ہوگی، نہ کسی دوسرے مقام کی قیمت کا انعام ہوگا اور نہ دوسرے وقت کی قیمت کا، اس لیے کہ قیمتیں وقت اور مقام کے لحاظ سے کم و بیش ہوتی ہیں۔

۹۔ جزاد نہیں میں یہ بھی اختیار ہے کہ شکار کے ہم پر مجوزہ جانور خرید کر حرم بیچ دے جو وہاں ذبح کیا جائے اور یہ بھی اختیار ہے کہ اس قیمت سے غلہ وغیرہ خرید کر ہر سکیں کو ایک صدقہ فطرہ کے بعد دے دے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ ہر سکیں کے صدقہ فطرہ کے بعد اے ایک روزہ رکھ لے، اور اگر مجوزہ قیمت میں قربانی کا جانور نہ خریدا جاسکتا ہو تو پھر دوسری صورتیں ہیں ہر سکیں کو صدقہ فطرہ کے بعد دے یا ہر صدقہ قیمت کے عوض میں روزہ رکھے۔
۱۰۔ اگر شکار کی مجوزہ قیمت اتنی بھی نہیں ہے کہ ایک صدقہ فطرہ کے بعد

غیرہ میں نئے تو پھر جتنا میں سکے دوہ صدقہ کروئے یا ایک روزہ رکھ لے۔

۱۱۔ جزا کے عوض میں جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کا عکم اور مصارف

بال محل وہی ہیں جو صدقہ فطر کے ہیں۔

احصار کا بیان

احصار کے لغوی معنی ہیں روکنا، منع کرنا، باز رکھنا اور اصطلاح فقرہ میں احصار یہ ہے کہ کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے اور پھر وہ حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا جائے، ایسے شخص کو اصطلاح میں محصر کہتے ہیں۔

احرام باندھنے کے بعد حج سے رُک جانا اور حج یا عمرہ کر سکنا بھی گونہ جناہت ہے، اس لیے محصر پر واجب ہے کہ وہ اس احصار کے بد لے سب مقدر قربانی دے، اس کو دم احصار کہتے ہیں، قرآن میں ہے۔

دَأَتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمَرَةَ اللَّهُ فِي أَنْ أَخْصُرَ شَهْرَ فِي سَ

أَشْتَهِيَّ مِنَ الْهَذَّابِ وَلَا تُخْلِقُوا مِنْ دُسْكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ

الْهَذَّابُ مَحْلَةً طَلْبَهُ

”اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کی نیت کرو، تو اسے پورا کرو اور اگر کہیں مگر جاؤ اور روک جانا پڑے تو جو قربانی میسر آئے اللہ کے حضور پیش کرو اور اپنے سرودن کی تخلیق نہ کرو اور جب تک کہ ہدی کا جائز اپنے لٹکانے پر نہ پہنچ جائے“

احصار کی چند صورتیں

۱۔ حرام باندھنے کے بعد حج سے روکے جانے اور حج یا عمرہ نہ کر سکنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں چند کارکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ راہ پر امن نہ ہو، دشمن کا خوف ہو، قتل و غارت کا خوف ہو، راہ میں کوئی درندہ ہو، یا اور کسی طرح کا حادثہ اور مال کا واقعی خطرہ ہو۔

۲۔ مرض لاحق ہو جائے، یہ اندیشیہ ہو کہ آگے گئے بڑھنے میں مرض بڑھ جائے گا، یا ضعف اور نقاہت کی وجہ سے آگے گئے بڑھنے کی سختی ہی نہ ہو۔

۳۔ حرام باندھنے کے بعد عورت کے سہراہ کوئی محروم نہ رہے، بھیار ہو جائے، وفات پا جائے، یا جبکہ اسے اور وہ سالخہ جانے سے انکار کر دے، یا اس کو کوئی جانے سے روک دے۔

۴۔ سفر خرچ نہ رہے، کم پڑھنے یا چوری ہو جائے۔

۵۔ راستہ بھول جائے اور کوئی راستہ بنانے والا نہ مل سکے۔

۶۔ کسی خاتون کی عقد شروع ہو جائے، مثلاً شوہر طلاق دے دے یا حرام باندھنے کے بعد وفات پا جائے۔

۷۔ کسی خاتون نے شوہر کی اجازت کے بغیر حرام باندھا ہوا اور احرا کا باندھ لینے کے بعد شوہر منع کر دے۔

ان تمام صورتوں میں حرام باندھنے والا محصر ہو جائے گا۔

احصار کے مسائل

۸۔ احصار کی صورت میں محصر حسب چیزیت اونٹ آگائے، بکری، جو

بھی میسر ہو خرید کر حرم بسیج دے یا قیمت بسیج دے کہ اس کی طرف سے رہاں
قربانی کر دی جائے۔

۲۔ احصار کی قربانی واجب ہے، اور جب تک محصر کی جانب سے حرم
میں قربانی نہ ہو، محصر احرام ختم نہ کرے۔ قربانی کا جانور یا رقم بسیجتے وقت ذبح
کا دن مقرر کر دے تاکہ اس دن یہ اپنا احراام ختم کر دے۔

۳۔ عمرے باجع افراد سے روکا گیا ہو تو ایک قربانی اور قران یا نقش سے
روکا گیا ہو تو دو قربانیاں بسیجے۔

۴۔ احصار کی قربانی کا گوشت محض کے لیے کھانا جائز نہیں اس لیے
کہ یہ گونہ جنایت کی قربانی ہے۔

۵۔ قربانی کا جانور بسیج دینے کے بعد رکاوٹ ختم ہونے کی صورت میں
اگر یہ ممکن ہو کہ محصر قربانی کا جانور ذبح ہونے سے پہلے ہی مکنے پہنچ جائے
گا اور رجح کی سعادت بھی حاصل کر سکے گا تو اس پر واجب ہے کہ فوڑا جج کے لیے
روانہ ہو جائے۔ حال اگر قربانی سے پہلے پہنچنے اور رجح ادا کر سکنے کا امکان نہ ہو،
تو پھر رو انہ ہونا دا جبید نہیں۔



رجح بدل کا مطلب ہے اپنے بدلتے اپنے مصادر پر دوسرے سے جج
کرنا، ایک شخص پر رجح تو فرض ہے لیکن وہ کسی بیماری، معدودی یا مجبوری کی وجہ
سے خود نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے یہ تھائش ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کو

اپنا قائم مقام بنانکر حج کے لیے بھیج دے اور وہ شخص اس کے بجائے حج کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو زین بن نعیم نے کہا
 ۱۰ یا رسول اللہؐ! میرے والد بھیت اُن بوڑھے تو چکے ہیں، ازدہ حج
 کر سکتے ہیں نہ عمرہ اور نہ حوارہ یہ بیخخت کی ان میں سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لپٹے والد کو طرف سے حج اور عمرہ دا کر لو^۱
 اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کے ہاتھے بھی حج ادا کرنا بس ہے، اور جو شخص
 خود اپنا فرض حج ادا نہ کر سکتا ہو وہ دوسرے بھیج کر اپنا فرضیہ ادا کر سکتا ہے،
 بلکہ ایسی صورت میں اپنا فرضیہ ادا کرنا یہی ہے۔ یہ خدا کا فرض ہے اور جو شخص
 کسی کو بھیجنے کا موقع نہ پائے تو وہ دوست کر ہائے کہ اس کے بعد اس کے
 مال میں سے حج بدل کر دیا جائے۔

۱۱ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کہا
 یا نبی اللہ میرے والد کا استقلال ہو گیا اور وہ اپنی زندگی میں فریستہ حج ادا نہ کر
 سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر دوں، آپ نے فرمایا اگر تمہارے
 والد پر کسی کا فرضیہ نہ ہو تو تم ادا کرتے؟ اس شخص نے کہا جی ہاں ضرور ادا کرنا تو
 ارشاد فرمایا تو اللہ کا فرضیہ ادا کرنا تو اور ضروری ہے۔^۲

۱۰ ترمذی۔

۱۱ جمع الفوائد باب لنبیابتہ فی الحج۔

حج بدل صحیح ہونے کی شرطیں

حج بدل صحیح ہونے کی شرطیں ہیں جن میں سے ہمی پانچ شرطوں کا تعلق تو حج بدل کرنے والے کی ذات نے ہے اور گیارہ کا تعلق حج بدل کرنے والے شخص سے ہے۔

۱- حج بدل کرنے والے پر شرعاً حج فرض ہو، اگر کوئی ایسا شخص حج بدل کرنے، جس پر حج فرض نہ ہو (یعنی وہ استطاعت نہ رکھتا ہو) تو اس حج بدل سے فرض دا نہ ہو گا مثلاً اس حج بدل کے بعد وہ شخص صاحبِ استطاعت بن جائے اور اس پر حج فرض ہو جائے، تو اس کرانے ہوئے حج بدل سے اس کا فرض ادا نہ ہو گا بلکہ اس کو حج بدل کانا پڑے گا۔

۲- حج بدل کرنے والا خود حج کرنے سے معذور ہو، اگر معذوری عارضی ہے جس کے زائل ہونے کی امید ہے، تو حج بدل کرنے کے بعد حجب وہ معذوری جاتی رہے اس کو پھر حج کرنا پڑے گا۔ اور اگر معذوری مستقل ہے اور اس کے دور ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے مثلاً کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے نہایت کمزور ہے یا نابینا ہے تو اس معذوری کا آخر وقت تک رہنا شرط نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ معذوری حج بدل کرنے کے بعد دور فرمادی تو اب دربار حج کرنا فرض نہیں ہے، فرض ادا ہو گیا۔

۳- معذوری حج بدل کرنے سے پہلے پائی جائے، اگر معذوری حج بدل کرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے تو پہلے کرانے ہوئے حج بدل کا اختبار نہ ہو گا اور معذوری کے بعد حج بدل کانا ضروری ہو گا۔

۴۔ حج بدل کرنے والا خود کسی سے حج کے لیے کہے، اگر کوئی شخص از خود دوسرے کی طرف سے اس کے کہے بغیر حج کرنے تو فرض ساقط نہ ہوگا، مرتے وقت وصیت کرنا بھی کہنے کے حکم میں ہے، البتہ کسی کا دارث اگر اس کی وصیت کے بغیر بھی اس کی طرف سے حج بدل کر دے یا کسی سے کرادے تو فرض ادا ہو جائے گا۔

۵۔ حج بدل کرنے والا ہی حج کے سارے مصارف خود برداشت کرے۔

۶۔ حج بدل کرنے والا مسلمان ہو۔

۷۔ حج بدل کرنے والا صاحبِ ہوش دخڑہ ہو، دیوانہ اور مجنون نہ ہو۔

۸۔ حج بدل کرنے والا سمجھدار ہو، چاہے نابالغ ہی ہو، اگر کسی نامjmho سے حج بدل کرایا تو فرض ادا نہ ہوگا۔

۹۔ حج بدل کرنے والا حرام باندھتے وقت اس شخص کی طرف سے حج کی نیت کرے جو حج بدل کر رہا ہے۔

۱۰۔ دری شخص حج کرے جس سے حج بدل کرنے والے نے کہا ہے، ہاں اگر یہ اجازت دی ہو کہ وہ دوسرے سے بھی حج بدل کر سکتا ہے تو پھر دوسرے کے ذریعے حج بدل کرانا بھی صحیح ہوگا۔

۱۱۔ حج بدل کرنے والا شخص کی نشانے کے مطابق حج کرے جو حج بدل کر رہا ہے، مثلاً حج کرنے والے نے حج قرآن کو کہا ہے تو حج قرآن کرے، نتشع کو کہا ہے تو حج نتشع ہی کرے۔

۱۲۔ حج بدل کرنے والا ایک ہی حج کا حرام باندھے اور ایک ہی شخص کی طرف سے باندھے، اگر اس نے حج بدل کرنے والے کی طرف سے بھی حرام باندھا اور ساتھ ہی لپھے حج

کامیابی ملے اب اندر یا دو افراد کی طرف سے حج بدل کا اعلان باندھ لیا تو فرض ادا نہ ہو گا۔

۱۲- حج بدل کرنے والا سواری سے حج کے لیے جائے اپا پیادہ حج نہ کرے۔

۱۳- حج بدل کرنے والا اسی مقام سے حج کا سفر کرے جہاں حج بدل کرنے والا رہتا ہو، البتہ بیت کے تہائی مال میں سے حج بدل کرایا جا رہا ہو تو پھر اس رقم میں جہاں سے حج کیا جا سکتا ہو وہیں سے حج کے لیے سفر کیا جائے۔

۱۴- حج بدل کرنے والا حج کو فاسد نہ کرے، اگر فاسد کرنے کے بعد اس کی قضا کرے گا تو اس حج سے حج بدل کرنے والے کا فرض ادا نہ ہو گا۔

۱۵- حج بدل کرنے والے سے حج فوت نہ ہو جائے، اگر اس کا حج فوت ہو جائے اور وہ پھر اس حج کی قضا کرے تو اس قضا حج سے حج بدل کرنے والے کا فرض ادا نہ ہو گا۔ بعض کتابوں میں چند شرطیں اور بھی کمی ہیں، لیکن وہ دراصل انہی شرائط میں سے کسی نہ کسی میں داخل ہیں جنفیہ کے سیہاں حج بدل کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ جس سے حج کرایا جا رہا ہے اس نے اپنا فریضہ حج ادا کر لیا ہو۔

سلہ البتہ ملکار اہل حدیث کے نزدیک یہ ضروری شرط ہے کہ حج بدل کرنے والا اپنا فریضہ حج ادا کر چکا ہو درنے حج بدل نہیں ہو گا۔

مدینہ منورہ کی حاضری

مدینہ طیبہ میں حاضری بلا شبیح کا کوئی رکن نہیں ہے، لیکن مدینے کی غیر عمومی عظمت و فضیلت، مسجد نبوی میں نماز کا بے پایا اجر و ثواب اور دربار نبوی میں حاضری کا شوق، مومن کو کشاں کشاں مدینے پہنچا دیتا ہے، اور امت کا ہمیشہ سے یہی دستور بھی رہا ہے، آدمی دور دراز کا سفرگر کے بیت اللہ پہنچے اور دربار نبوی میں درود وسلام کا تخفہ پیش کیے بغیر والپس آئے، یہ زبردست محرومی ہے، الیسی محرومی کہ اس کے تصور ہی سے مومن کا دل دُکھنے لگتا ہے۔

مدینہ طیبہ کی عظمت و فضیلت

مدینہ طیبہ کی عظمت و فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ یہاں محسن انسانیت نے اپنی زندگی کے دس سال گزارے ہیں۔ یہاں آپ کی مسجد ہے جس میں آپ نے اپنے پاک ساتھیوں کے ساتھ نمازیں ٹھیکیں، یہیں پردہ میدان ہے جہاں حق و باطل کی فیصلہ کن جنگ ہوتی، اور اسی پاک زمین میں میدان بدر کے وہ شہدار آرام کر رہے ہیں، جن سے نسبت پر امت کو بجا طور پر فخر ہے، یہیں پردہ مسجد رویں آرام کر رہی ہیں جن کو نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی، اور اسی سر زمین پاک میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔

ہجرت سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا، ہجرت کے بعد یہ مدینہ اور طیبہ کے نام سے مشہور ہوا اور ندانے اس کا نام طاہر کھائے۔ طاہر، طیبہ، اور علیبہ کے معنی ہیں، پاکیزہ اور خوش گوار، اور یہ حقیقت ہے کہ مدینہ طیبہ کی پاک سرزمیں داقعی پاکیزہ اور خوش گوار ہے۔

ہجرت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اور حضرت بلال رضی بنے میں سخت بیمار ہو گئے اس لیے کہ بیان کی آب و ہوا انتہائی خراب تھی اور اکثر دبائی بیماریوں کے حلقے ہوتے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ ”پر درد کار بہاکے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرمادے، جس طرح ہمارے دلوں میں مکّہ کی محبت ہے، بیان کے بخار کو حفظ کی جانب نکال دے اور بیان کی آب و ہوا کو خوشگوار بنادے۔“^۱

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ سے جو غیر معمولی محبت تھی اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ جب کبھی آپ سفر سے واپس آتے تو درس سے جو نبی مدینے کی عمارتیں نظر آنے لگتیں، آپ فرط شوق میں اپنی سوارمی تیز کر دیتے اور فرماتے ”طاہر آگئے“ اور اپنی چادر شانہ اقدس سے نیچے گرا کر فرماتے یہ طیبہ کی ہوائیں ہیں، آپ کے ساتھیوں میں سے جو لوگ گرد و غبار سے بچنے کے لیے اپنے منہ پر کچور کھتتے اور بند کرتے تو آپ اس سے روکتے اور فرماتے مدینے

۱۔ حضرت بابر بن سکرہ رضا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تباہے اتنے مذہب کا نام طاہر کیا ہے۔ (۲)

۲۔ بخاری۔

۳۔ بخاری۔

کی خاک میں شفاف ہے۔^{۱۰}

نیز آپ کا ارشاد ہے۔

”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہیری جان ہے، مدینے کی خاک
میں ہر مرش کے لیے شفاف ہے، رحضرت سعدؓ فرماتے ہیں، ہیر انھیاں
ہے آپ نے فرمایا تھا،“ اور جذام اور برس کے لیے بھی اس میں شفاف
ہے۔^{۱۱}

مدینے کی عظمتی اور احترام کی تاکید آپ نے ان الفاظ میں فرمائی
”ابراہیمؑ نے مکے کو ”حرم“ قرار دینے کا اعلان فرمایا تھا اور میں
مدینے کے حرم ہونے کا اعلان کرتا ہوں، مدینے کے دونوں دروں
کے درمیان کا پورا رقبہ ”حرم“ ہے، اس میں خونریزی نہ کی جاتے کسی پر
ہتھیار نہ اٹھایا جائے۔ اور درختوں کے پتے تک نہ جھاڑے جائیں،
البتہ چارے کے لیے جھاڑے ہما مسکتے ہیں۔^{۱۲}

مدینے میں کوت احتیار کرنے اور بہانگی تکمیلیوں کو برداشت کرنے
کی فضیلت بتاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا
”بھری امت کا جو شخص بھی مدینے کی سختی اور شدت کو برداشت

۱۰ جذب التلوب۔

۱۱ الترغیب۔

۱۲ مسلم۔

کر کے وہاں سکونت پذیر رہے گا، قیامت کے روز میں اس کی شفافت
کروں گا۔^۲

نیز فرمایا

”اپنی امت کے لوگوں میں سب سے پہلے میں مدینے والوں
کی شفافت کروں گا پھر اہل مکہ کی اور پھر طائف والوں کی۔^۳
حضرت ابراہیم نے کے کی سرز میں میں اپنی ذرتیت کو باتے ہوئے دعا فرمائی
تھی۔

فَاجْعَلْ آنِيَّدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوَى إِلَيْهِمْ وَأَشْرُقْ قَمْمًا
مِنَ الشَّمَاءِ أَتِ لَعْلَمُمْ يُشَكُّرُونَ^۴

”لہذا تو لوگوں کے والوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے
کے پیچے عطا فرمانا کہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا حوالہ دیتے ہوئے مدینے کے حق میں
خیر و برکت کی دعا فرمائی تھی،

”اَنَّ اللَّهَ اَبْرَاهِيمَ، تَبَرِّئْ خَاصَّ بَنَدَهُ، تَبَرِّئْ دَوْسَتَ
اَوْ تَبَرِّئْ نَبِيَّ تَحْتَهُ اَوْ مِنْ كُجَيْ تَبَرِّئَ بَنَدَهُ اَوْ تَبَرِّئَ نَبِيَّ هَوْلَ، اَنْهُوَلَ نَبِيَّ

لہ مسلم۔

لہ طبرانی۔

لہ ابراہیم، ۳۶۔

مکے کی خیر و برکت کے لیے تجدہ سے دعا کی تھی اور میں مدینے کی
خیر و برکت کے لیے تجدہ سے دعا کرتا ہوں بلکہ اتنی ہی اور زیادہ ٹھیک
مدینے کی پاکی اور دینی اہمیت بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا
”قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مدینہ ماضی کے اندر
کے شرپسند عناصر کو اس طرح باہر نہ کاہل کچھیکے جس طرح لوہار کی بھٹی
لوہے کے میں کچھیں کو دور کر دیتی ہے ۷“
مدینے میں وفات پانے کی آرزو اور کوشش کی فضیلت بتاتے ہوئے آپ
نے ارشاد فرمایا

”جو شخص مارینے میں وفات پانے کی کوشش کر سکتا ہو اس کو ضرور
کوشش کرنی چاہیئے کہ مدینے ہی میں اس کو موت آئے، اس لیے کہ
جو شخص مدینے میں وفات پائے گا میں اس کی شفاقت کر دیں گا ۸“
حضرت ابن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حوف بن مالک الشجاعیؓ نے خواب دیکھا
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کر دیے گئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے اس خواب
کا ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹھیک حضرت سے کہا
”بخلاف مجھے ثہادت کیونکر نصیب ہوگی؟ جب کہ میں جزیرہ العرب میں“

۱۔ سلم۔

۲۔ سلم۔

۳۔ مسند احمد رحمہ اللہ علیہ۔

رہ رہا ہوں، میں خود جہاد میں شریک نہیں ہوتا اور لوگ ہر وقت مجھے
گھیرے رہتے ہیں، ہاں اگر خدا کو منظور ہو گا تو وہ انہیٰ حالات میں مجھے
شہادت کی سعادت سے نوازے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا
کی

اللَّهُمَّ اشْرُذْقِنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَدْرِ
رَسُولِكَ۔

”اسے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب کر اور مجھے اپنے رسولؐ

کے شہر میں موت دے“

مسجد نبوی کی عظمت

مسجد نبوی کی عظمت اور فضیلت کے لیے بھی بات کیا کم ہے کہ اس کی تغیر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے فرمائی، اور پرسوں اس میں
نماز پڑھی، اس کی تسبیت اپنی طرف فرمائی اور اس کو اپنی مسجد کہا، آپ کا ارشاد
ہے۔

”میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسرا ہی مسجد دل میں ہزار نمازوں
پڑھنے سے زیادہ فضل ہے، سو لئے مسجد حرام کے“

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
”جس شخص نے میری اس مسجد میں سلسل چالیس وقت کی نمازوں
اس طرح پڑھیں کہ درمیان میں کوئی نماز بھی فوت نہیں ہوئی تو
اس کے لیے جہنم کی آگ اور ہر عذاب سے برآت لکھ دی جائے گی“

اور اسی طرح نفاق سے برارت لکھ دی جائے گی ۔^{۱۷}

نیز ارشاد فرمایا

”میرے گھر اور میرے محبر کے درمیان نبی جلہ جت کے باخواں
میں سے ایک باغیچہ ہے اور میرا محبر حون کوثر پر ہے ۔“

روضۃ القدس کی زیارت

لکھنے خوش نصیب تھے وہ مونین جن کی آنکھیں دیدار رسول سے روشن
ہوئیں، جو آپ کی صحبت میں رہے، اور شبِ دروز آپ کے کلام سے مستفیض
ہوئے، یہ سعادت تو صرف صحابہ کرام فڑ کے لیے مخصوص تھی لیکن یہ موقع قیامت
تک باقی ہے کہ مشتا قافِ ان دیدار و صفةِ القدس پر حاضری دیں اور آپ کی دل نیز پر
کھڑے ہو کر درود وسلام کے تحفے پیش کریں۔

* حضرت عبد اللہ بن محررؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس
شخص نے حجج کیا، اور میری وفات کے بعد اس نے میرے روضے کی زیارت کی
تو وہ زیارت کی سعادت پانے میں اسی شخص کی طرح ہے جس نے میری زندگی میں
میری زیارت کی ۔^{۱۸}

نیز ارشاد فرمایا:-

۱۷۔ الترغیب، مسند احمد

۱۸۔ بخاری، مسلم۔

۱۹۔ بیہقی۔

وہ جو شخص نے پیری دفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا
میری زندگی میں میری زیارت کی، اور جس نے میری قبر کی زیارت کی ان
کے لیے میری شفاعت و احباب ہو گئی اور میری امت کا جو شخص میری زیارت
کرنے کی دعوت اور طاقت رکھنے کے باوجود میری زیارت نہ کرے
تو اس کا کوئی عذر، غسل نہیں ہے۔^۱

اور فرمایا

”جو شخص میری زیارت کے لیے آئے اور اس کے سوا اس کو
کوئی دوسرا کام نہ ہو تو اس کا مجرم پر یہ حق ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔^۲
روضۃ اقدس کی زیارت کا حکم
روضۃ اقدس کی زیارت واجب ہے، احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے اُپنے
کا ارشاد سے، جس شخص نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا، اس نے مجرم ظلم کیا،
اور ایک حدیث میں ہے، جس نے استطاعت کے باوجود میری زیارت نہیں کی
اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں۔۔۔۔۔ انہی احادیث کی روشنی میں علماء نے روضۃ
اقدس کی زیارت کو واجب قرار دیا ہے۔

چنانچہ صحابہؓ کرامؓ، تابعین اور دوسرے اسلاف روضۃ اقدس کی زیارت

۱۔ علم الفقہ۔

۲۔ علم الفقہ جلد نجم۔

۳۔ علم الفقہ جلد نجم۔

کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مادت تھی کہ جب بھی کسی سفر سے آتے تو سب سے پہلے روضۃ القدس پر حاضر ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں درود دعا لٹپتھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ احصار کوئے کر مدینہ آئے اور مدینے ہنچ کر سب سے پہلے روضۃ القدس پر حاضر ہوئے، اور جناب رسالت میں درود دسلام پیش کیا۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ تو شام سے خاص اس مقصد کے لیے لپٹے قاصد کو مدینہ منورہ پہنچا کر وہ وہاں ہنچ کر دوبار رسالت میں ان کا سلام پہنچا دے لیا۔

حج کی دعائیں — ایک نظر میں

حج کے دوران مختلف مقامات پر ادا کان Hajj ادا کرتے وقت جو سنون و عائش مانگی جاتی ہیں وہ اپنے اپنے موقع پر اس کتاب میں لفظ کی گئی ہیں، اور سانحہ ہی ان کا ترجمہ اور مطلب بھی دیا گیا ہے۔ یہاں ان کی فہرست اور صفحات لفظ کیے جاتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت آسانی سے استفادہ کیا جاسکے۔

- ۱۔ آپ زمزم پینے وقت کی دعا۔
- ۲۔ تلبیہ۔
- ۳۔ تلبیہ کے بعد کی دعا۔
- ۴۔ رُکنِ بیانی کی دعا۔
- ۵۔ رمی کی دعائیں۔
- ۶۔ سُقی کی دعائیں۔
- ۷۔ طواف کی دعا۔
- ۸۔ ثبویت دعا کے مقامات۔
- ۹۔ قربانی کی دعا۔
- ۱۰۔ ملتمم کی دعا۔
- ۱۱۔ میدان عرفات کی دعائیں۔

[[مقامات حج]]

حرم پاک اور اُس کے قرب و حوار کے مقدس مقامات جہاں حج۔
وارکان ادا کیے جاتے ہیں تہایت ہی قابلِ عظمت و احترام ہیں، یہ دو صل
شعاۃ اللہ ہیں، ان کا اسلامی تاریخ میں بھر اعلق ہے۔ ان سے واقعہ ہونا
ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بالخصوص زائرین حرم کے لیے، تاکہ وہ حج سے
پورا چورا فائدہ اٹھاسکیں، اور ان کے حج میں وہ روحانی کیفیت چیدا چھوٹ کے
بھوج حج کی جان ہے۔ سہولت کے لیے ان مقامات کا تعارف حروف تہجی کی
ترتیب کے مطابق پیش کیا جا رہا ہے۔

۱۔ بیت اللہ

یہ میک چوک مقدس ہمارت ہے، جو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ نے تعمیر
فرمائی تھی اور ان بذریات اور تمثیل کے ساتھ تعمیر فرمائی تھی، کہ یہ ساری انسانیت کے
لیے رہتی دنیا تک مرکز برداشت بنتے ہیں سے وہ رسول انھیں جو سارے
عالم کی رہنمائی اور برداشت کا عظیم فرضیہ انجام دیں، اور یہیں سے ان کی قیادت
میں وہ امت اُٹھئے جو قیامت تک تبلیغ دین اور کا پرسالت کا گراں نہیں فرضیہ
انجام دیتی رہے، قرآن کی شہادت ہے کہ روزے زمین پر اولادِ آدم کے لیے
خدا کی عبادت کا سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ یہی "بیت اللہ" ہے، یہ سارے
نہیں کے لیے خیر و برکت کا سرچشمہ اور مرکز برداشت ہے، حج میں زائر حرم
اسی کے گرد والہانہ طواف کرتا ہے۔

۲۔ بطن عزّة

میدان عرفات میں ایک خاص مقام ہے جو بطن عزّہ یا دادی عزّہ کے نام سے مشہور ہے، مجنۃ الوداع کے موقع پر اسی دادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خطاب فرمایا تھا۔

۳۔ جبل رحمۃ

میدان عرفات کے درمیان ایک منبر پہاڑ ہے۔

۴۔ جبل عرفات

میدان عرفات کا ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کی وجہ سے ہی اس دادی کو دادی عرفات یا میدان عرفات کہتے ہیں۔

۵۔ جبل قرضح

مزدلفہ میں م Shr al-Haram کے پاس ایک پہاڑ ہے۔

۶۔ حجّفہ

مکہ معظمه سے مغرب کی جانب تقریباً ایک سو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے، یہ اہل شام کے یہی اور ان تمام لوگوں کے لیے میقات ہے جو شام کے راستے سے حرم میں داخل ہوں۔

۷۔ جمیرات

منی میں فاصلے فاصلے سے تین مقامات پر تین ستوں بنے ہوئے ہیں ان ستوں کو جمیرات کہتے ہیں۔ پہلا ستون جو مسجد خوبی کی جانب بازار میں ہے اُس کو جمرة اولیٰ کہتے ہیں، دوسرا ستون جو بیت اللہ کی جانب ہے اس کو

جمرہ عقبی کہتے ہیں، میرا ستون جوان کے درمیان میں ہے اس کو مجرہ و سلی
کہتے ہیں۔

۸- حرم

شہر کہ جس میں بیت اللہ اور مسجد حرام واقع ہے اور اس کے ہمساریں
کے کچھ علاقوں حرم کہلاتے ہیں، حرم کے یہ حدود معلوم اور متعین ہیں، پہلے
یہ حدود حضرت ابراہیم طیبہ السلام نے مقرر فرمائے تھے پھر حضرت محمد صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنے عہد رسالت میں ان حدود کی تجدید فرمائی۔

دریے کی سمت میں تقریباً پانچ کلومیٹر تک حرم کی حد ہے، ایسیں کی جانب
تقریباً گیرہ کلومیٹر، اور طائف کی جانب بھی تقریباً گیرہ کلومیٹر اور قریب قرب
انتہی کلومیٹر عراق کی جانب حرم کی حد ہے اور جدے کی سمت میں تقریباً
ستہ کلومیٹر حرم کی حد ہے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی
حضرت عثمان غنی رضا اور حضرت معاویہ بن ابی حیان اپنے دو میں ان حدود کی تجدید فرمئی۔ خدا کے دین
سے شغف اور وفاواری کا تقاضا ہے کہ مسلمان ان حدود کی حضرت واحرام اور حنابت کا پورا
پورا استھا آکریں۔ اور ان امور سے بچے رہیں جن کا کرننا ان حدود میں منوع فرار دیا گیا ہے۔

۹- حطیم

بیت اللہ کے شمال، مغرب کا وہ حصہ جو حضرت ابراہیم طیبہ السلام کے دو
میں کعبہ کی عمارت میں شامل تھا، اور بعد کی تعمیر میں شامل نہ کیا جاسکا۔ بنی صلی اللہ
علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آگ لگنے کی وجہ سے کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا تھا،
قریش نے جب اس کی دوبارہ تعمیر کی تو سرمایہ کم پڑ گیا اور کچھ دیوار چھوٹی ٹکڑی

گئی، اسی چھوٹے ہوئے حصے کو حطیم کہتے ہیں۔ حطیم خوب جگہ فی الواقع بیت اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اس سلیے طواف کرنے والے حطیم کے باہر اہل طواف کرتے ہیں تاکہ حطیم کا بھی طواف کو جائے۔

۱۔ ذات عراق

کہ معظمه سے شمال مشرق کی جانب تک سے تقریباً اسی کلو میٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے یہ اہل عراق کے لیے میقات ہے اور ان سارے لوگوں کے لیے بھی جو عراق کی جانب سے حرم میں داخل ہوں۔

۲۔ ذوال الحکیفہ

مدینہ طیبہ سے کہ معظمه آتی ہوئے، مدینے سے آٹھو تو کلو میٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے، یہ مقام کہ معظمه سے تقریباً ڈھائی سو کلو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے، یہ مدینے سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے۔

۳۔ رکن یا نی

بیت اللہ کا دہ گوشہ جوین کی جانب ہے اس کو رکن یا نی کہتے ہیں، یہ انتہائی متبرک مقام ہے، آپ کا ارشاد ہے "رکن یا نی اور حجر اسود کو چھوٹے سے خطا میں مٹ جاتی ہیں"۔

۴۔ زرم

زرم ایک تاریخی کنوں ہے جو بیت اللہ سے مشرق کی جانب واقع ہے،

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت هاجر علیہ السلام کو کے کے بے آب دگیا، اور گیلان میں لا کر بسایا تو اللہ نے ان پر رحم کا اک خصوصی فضل فرمایا اور اس چٹپیل میدان میں ان کی غاطر زمزم کا پہنچنہ جاری فرمایا۔ حدیث میں اس چٹپیل کی اور اس کے پانی کی ٹربی فضیلت آئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے آپ زمزم کو خوب سیر ہو کر بہنا چاہیے۔ یہ جس مقصد کے لیے پیا جائے المفید ہے، یہ بھوک کے لیے نذار ہے اور بیمار کے لیے شفاء ہے۔

۱۴۔ صفا

بیت اللہ سے جنوب کی جانب ایک پہاڑی کا نام ہے، اب تو اس پہاڑی کا بہت معمولی سانشان باقی رہ گیا ہے، اس کے مقابل بیت اللہ کے شمال میں مردہ پہاڑی ہے اور ان دونوں کے درمیان زائر رحم کے لیے سعی کرنا راجب ہے، اس سعی کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔

۱۵۔ عرفات

ملکہ مکرہ سے تقریباً پندرہ کلو میٹر کے فاصلے پر ایک نہایت ہی وسیع و عریض گشادہ میدان ہے، حرم کی حدود جہاں ختم ہوتی ہیں وہیں سے عرفات کا علاقہ شروع ہو جانا ہے۔ میدان عرفات میں پہنچنا اور وقوف کرنا حج کا اہم ترین رکن ہے، اور جس نے یہ رکن چھوڑ دیا اس کا حج ہی نہیں ہوا۔ حدیث میں وقوف عرفات کی ٹربی فضیلت آئی ہے۔

۱۶۔ قرن المنازل

ملکہ مظفرہ سے شرق کی جانب جانے والی سڑک پر ایک پہاڑی مقام ہے، یہ مکہ

معظمه سے تفریہ پاپکا شکلو میر کے قابلے پر واقع ہے، یہ نجد کے رہنے والوں کے لیے میقات ہے اور ان سارے لوگوں کے لیے بھی جو نجد کے راستے حرم میں داخل ہوں۔

۱۸۔ مُحَصْب

مکہ مظہرہ اور منی کے درمیان ایک میدان تھا جو دہپناٹیوں کے درمیان واقع تھا اس کو مُحَصْب کہتے تھے۔ آج کل یہ آباد ہو گیا ہے اور اب اس کو "معاہدہ" کہتے ہیں، بنی صلی اللہ علیہ وسلم منی سے جانتے ہوئے یہاں کچھ دیر کے لیے ٹھیکرے تھے، لیکن مُحَصْب میں ٹھیکرہ مناسک حجہ میں سے نہیں ہے۔

۱۹۔ مزدلفہ

منی اور عرفات کے بالکل درمیان میں ایک مقام ہے اس کو جمیع بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اور ذوالحجہ کی شب میں حاجی لوگ یہاں جمیع ہوتے ہیں، مزدلفہ میں وقوف راجب ہے اور وقوف کا اصل وقت طلوع فجرے طلوع آفتاب تک ہے۔

۲۰۔ مسجد الحرام

مسجد الحرام دنیا کی تمام مسجدوں میں افضل مسجد ہے بلکہ نماز پڑھنے کی اصل جگہ بھی ہے اور دنیا کی ساری مسجدیں درحقیقت اسی کی قائم مقام ہیں۔ یہ وہ مبارک مسجد ہے جس کے درمیان میں اللہ کا رہ گھر واقع ہے، جو دنیا میں خدا کی عبادت کا سب سے پہلا گھر ہے اور جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت درست حکمرہ ہے، بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا

اجر و ثواب در در میں جگہ ایک مکون نمازوں کے برپا ہے۔

۲۔ مسجدِ نبوی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھرت فرمائے ہوئے آئے تو آپ نے یہاں ایک مسجد تعمیر فرمائی، تعمیر میں صحابہؓ کرامؓ کے ساتھ آپ خود بھی پار شرکیں رہے، اور اس کے باڑے میں فرمایا، یہ میری مسجد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اُس مسجد میں نماز پڑھی، اور صحابہؓ کرامؓ نے بھی رسول پڑھی، اس مسجد کی فضیلت وعظت کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا۔

صرف نہیں مسجدوں کے لیے آدمی سفر کر سکتا ہے، مسجدِ حرام کے لیے، مسجدِ القصی کے لیے اور میری اس مسجد کے لیے۔

نیز ارشاد فرمایا۔

”جس شخص نے میری اس مسجد میں مسلسل چالیں وقت کی نمازوں اس طرح پڑھیں کہ درمیان میں کوئی خاذ فوت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے جہنم کی آگ اور عذاب سے برارت اور نجات لکھ دی جائے گی، اور اسی طرح نفاق سے برارت لکھ دی جائے گی۔“

۳۔ مسجدِ خبیث

بنی میں ایک مسجد ہے، بنی میں وقوف کے دورانِ حجّاج اسی مسجد میں للہ، عصر

مغرب، عشار اور فجر کی نمازیں پڑھتے ہیں۔

۴۶۔ مسجد نمرہ

حرم اور عرفات کی علیں سرحد پر یہ مسجد واقع ہے۔ اس مسجد کی جو دیوار کے کی جانب ہے وہ حرم اور عرفات کے درمیان حدفاصل ہے، دورِ حاہلیت میں قریش کے لوگ عرفات بھائی کے بجائے حرم کے حدود ہی میں یعنی مشعر الحرام کے پاس قوت کرتے تھے، اور اس کو اپنا خصوصی امتیاز سمجھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ علم دیا تھا کہ آپ کا خبرہ "نمرہ" میں نصب کیا جائے، چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کا خبرہ نمرہ ہی میں نصب کیا گیا۔ اسی مقام پر "مسجد نمرہ" ہے۔

۴۷۔ مشعر الحرام

مزدلفہ کے میدان میں ایک اونچا سائز شان ہے، اس کے کنارے کنارے احاطہ بنادیا گیا ہے، اس کو مشعر الحرام کہتے ہیں۔ اس مقام پر کثیر سے ذکرِ تسبیح کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر چڑھ کر ذکرِ تسبیح فرمائی اور دعا کی۔ یہ مقام بھی دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے ہے۔

فَإِذَا أَفْضَلْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَادْعُوا ذَكْرَ رَبِّ الْهَمَاءِ عِنْدَ الْمُشْعَرِ
الْحَرَامِ وَادْعُوا ذَكْرَ رَبِّ الْأَكْوَافِ كَمَا هَذَا لَكُمْ۔ (البقرہ: ۱۹۸)

"پس جب تم عرفات سے لوٹ کر آؤ تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ اور جس طرح تمہیں اس نے ہدایت دی ہے اسی طرح یاد کرو۔"

۲۴۔ مطاف

بیت اللہ کے چاروں طرف کنارے کے بینوں شکل کی جگہ بی بھی ہوتی ہے، جس میں حرامی داخل ہے، اس کو مطاف کہتے ہیں۔ مطاف، طواف کرنے کی جگہ کہتے ہیں، یہاں شب روز بیت اللہ کے پر واڑے طواف کرتے نظر آتے ہیں اور جماعت کے وقت کے علاوہ دن بھر یا رات ہر وقت کچھ لوگ طواف میں شخوں ہوتے ہیں۔

۲۵۔ مقام ابراہیم

بیت اللہ سے شمال، شرق کی جانب باب کعبہ سے کچھ فاصلے پر ایک قبۃ بناؤا ہے اس کے اندر ایک مبارک پتھر رکھا ہوا ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات ہیں، اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، یہ انتہائی ملتبرک مقام ہے، یہ خدا کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے، خدا کی بدایت ہے

وَأَنْجُلُ رُزْمَنْ قَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَصْلُلٌ۔ (البقرہ: ۱۷۵)

”اور مقام ابراہیم کو مستقل عبادت گاہ قرار دے لو“

طواف کے شروط پورے کرنے کے بعد طواف کرنے والے مقام ابراہیم کے پاس دور کعت نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ مقام ابراہیم اور باب کعبہ کے درمیان بی بھی ہوتی ہے۔ حضرت امام مالکؓ کا بیان ہے کہ مقام ابراہیم اس وقت اسی جگہ رکھا ہوا ہے جہاں اس کو حضرت ابراہیمؑ رکھ گئے تھے۔

۲۶۔ ملتسزم

بیت اللہ کی دیوار کے اس حصے کو کہتے ہیں جو باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان ہے۔ یہ تقریباً چھ فٹ کا حصہ ہے اور قبولیت دعا کے اہم مقامات میں سے ہے، ملتسزم کے معنی ہیں چھٹنے کی جگہ۔ اس مقام سے چھٹ کر اور چہرہ لکھا کر انتہائی فاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنا ستوں ہے۔

۲۷۔ صنی

حدود حرم میں مکہ مکرہ سے تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ ذوالحجہ کی آٹھویں اور نویں تاریخی خلگی درمیانی شب، حجاج اسی مقام پر گزارتے ہیں اور ذوالحجہ کو اچھی طرح دن نکلنے کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔

۲۸۔ میلین اخضرین

صفا اور مردہ کی پہاڑیوں کے درمیان مردہ کی طرف جاتے ہوئے باہمیں ہاتھ کو دسپز فشان ہیں ان کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان دوڑنا سنون ہے، مگر صرف مردیں کے لیے خواتین نہ دوڑیں، بلکہ عمومی زفاف سے ہی سعی کریں۔

۲۹۔ وادی محسن

مزدلفہ اور صنی کے درمیانی راستے میں ایک مقام ہے اس کو محسن کہتے ہیں۔ ولادت رسول ﷺ سے چند بھی یوم پہلے جشن کے عیسائی حکمران ابرہيم نے بیت اللہ کو دعا کے ناپاک ارادے سے مکہ مکرہ پر چڑھائی کی، جب وہ وادی محسن

میں پہنچا تو خدا نے سمندر کی جانب سے نئے نئے پرندوں کی فوج بھی جس کے پہلو اور پونچوں میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں تھیں، اور انہوں نے ابرہم کی ہاتھی خوار فوج پر لکڑیاں کی ایسی ہلاکت انگیز بارش کی کہ ساری فوج تمہس نہیں ہو گئی۔ زائرین حرم اس مقام سے لکڑیاں اٹھا کر سلافلاتے ہیں اور اسی سے رفی کرتے ہیں جو اس عزم کا اظہار ہے کہ دینِ حق کی بنیادیں ڈھانے کے لیے کسی نے بھی لگے ٹڑھنے کا ناپاک ارادہ کیا تو ہر اسے اسی طرح تمہس کر دیں گے جس طرح ابادیل نے ابرہم کی فوج کو تمہس نہیں کر دیا تھا۔

دادی مختسر کے پورے میدان میں بھورے رنگ کی بھری ہے، ٹھجاج کو چاہئے کریماں سے چھتے کے دلے کے برابر لکڑیاں حسب ضرورت اٹھا کر جلد اس مقام سے گزر جائیں، یہ مقام مذاب ہے۔

۳۔ ململہ
کے سے جنوب، مشرق کی سمت میں میں سے آئے والے راستے پر ایک پہاڑی مقام ہے جو کہ سے تقریباً سالخواہ کلو میٹر کی دردی پر ہے ایہ میں اور میں کی سمت سے آنے والوں کی میقات ہے، اہل سندھ اور اہل پاکستان کو بھی اسی مقام پر احرام پاندھتا ہوتا ہے۔